

فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِن تَنَزَّلْنَا مَدًا مِّنَ السَّمَاءِ مَدًّا
يَمُوتُ بِهَا نَفْسٌ مَّا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
لَمَن تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

نُورُ الْعَالَمِينَ فِي أَسْمَاءِ جَدِّ الْكَسْبِيِّ

الْمَعْرُوفُ كِتَابُ الْمَصْطَفَى

سات ہزار دو سو اسمائے نبویہ کا حسین مرقع

کِتَابُ الْمَصْطَفَى

محمد
مؤلف

پیر طریقت فقیر محمد دوم

تنویر المصطفیٰ قادری
اولیسی

نور الحکیمین فی آداب جلالہ السکین
المعروف بالکرام المصطفائی

مؤلف

پیر طریقت، فقیر مخدوم
تنویر المصطفیٰ قادری اویسی

کاروان مُصطفائی

آستانہ عالیہ مصطفائیہ، قادریہ، اویسیہ

انڈسٹریل اسٹیٹ نزد یونین کونسل نمبر 50 گجرات

0321-6231580, 0321-6202046, 0321-6231580

E-Mail: karwan_mustafai@hotmail.com

karwan_a_mustafai@yahoo.com

”جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں“
 کتاب کا کچھ حصہ بھی چھاپنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی

کشمیر کے ادیب

کتاب

سرکاری و غیر سرکاری

ترتیب و ترتیب

اپریل (ربیع الثانی) ۱۹۹۹ء

سال اشاعت

۱۰۰۰

تعداد

عمر جان پرنٹنگ پریس

مطبع

ہدیہ

ناشر

کاروان، مصطفائی

آئینہ عالیہ مصطفائیہ، قادریہ، بلوچیہ

ال انٹرنیشنل اسٹیٹ پبلسیشن کونسل نمبر 50 جہاز

0321-231580, 0721-6202046, 0321-231580

mail: karwan_mustafai@hotmail.com

karwan_a_mustafai@yahoo.com

ہو

اللہ

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاک

بستان باہو کہ مدح شاہ حیلانی

قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْكَ مِنْ غَابٍ عَنْكَ وَمَنْ يَأْتِي
 فَقَالَ أَسْمِعْ صَلَوَةَ أَهْلِ مَحَبَّتِي
 عَلَى صَلَوَةِ غَيْرِهِمْ

عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ خبر دیجیے اُن لوگوں کے دربار میں
 اور جو آپ سے غائب ہیں۔ اور جو آپ کے اہل محبت کے ہیں
 فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں درود شریف اللہ کے اہل محبت کے
 میرے درود شریف پر

درود جلدی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
 وَأَصْحَابِهِ وَوَلَدِهِ الشَّاهِدِ الْقَادِرِ جَمِيعًا



بجائیں علیؑ کے گرامی
 ہے انکے دم کرم دین و دنیا کی بھلائی
 دو عالم میں چمکے سبب بالیقین ہے
 کہ جس کی ختم ہوگی جن کی خوشبو اور نہکت
 زمین سے تافلک ان سے رونق اور اجالا
 بنائے سلف میں یہ بافضل و کرم ہیں
 کے لئے سائر رحمت کی راحت برسی کو
 روان سے بھی زندگی بھر اسعادہ
 کے لئے سب سے سیدت اور راحت
 کے لئے سب سے بہت ہی پہاں تسلی

سرور عالمؐ کے گرامی
 رہیں گے نانا نانا
 دکھائیں جس کے گرامی
 بتوت کہ اس وہ مہکار اسمائے گرامی
 رسالت کے حسین شہکار اسمائے گرامی
 معطر اور خوشبودار اسمائے گرامی
 جس ہم پر سد اذنوبار اسمائے گرامی
 یہی ہیں عشق کا معیار اسمائے گرامی
 کریں گے روح کو شہ اسمائے گرامی
 سکون دل کے ہیں ہمارا اسمائے گرامی

عشق و مستی کی زباں لغاتِ مصطفائی ہے
کیے ہجور طباعت کا جو مطلوب ہے سال

بجہدِ محترم تنویرِ مصطفیٰ ، ہم کو
کہو یہ سال طباعت نے زور ہے بس اللہ

تا بہ ابد ہے گی نہایت جس کی دوستی سے
ہے ”خوشگوار محمد اسات گرامی“

انزل تخریضا

سیند جارف

الرف سینیڈ

حالات

حضرت مولانا صاحب نے اپنی اس کتاب کو "حالات" کے نام سے لکھا ہے۔ اس کتاب میں آپ نے ایک اور یہ نادر کتاب کی مرتب آپ نے ایک اور یہ نادر کتاب ہے یہ اسماء النبی کا ایک مرقع بہترین مقتدس نام جو بھی رکھے گا دردِ زباں سے روکڑوں و مرکان میں عرش کے مسند نشین ہر کمال و حسنِ خوبی کا ہے اُن پر اختتام دل سے جو کرتا نہیں ہے اُن کا ادب و احترام اہل علم کیلئے تعویذِ جان ہے یہ کتاب

صاحب نے اس کتاب کو "حالات" کے نام سے لکھا ہے۔ اس کتاب میں آپ نے ایک اور یہ نادر کتاب ہے یہ اسماء النبی کا ایک مرقع بہترین مقتدس نام جو بھی رکھے گا دردِ زباں سے روکڑوں و مرکان میں عرش کے مسند نشین ہر کمال و حسنِ خوبی کا ہے اُن پر اختتام دل سے جو کرتا نہیں ہے اُن کا ادب و احترام اہل علم کیلئے تعویذِ جان ہے یہ کتاب

صاحب نے اس کتاب کو "حالات" کے نام سے لکھا ہے۔ اس کتاب میں آپ نے ایک اور یہ نادر کتاب ہے یہ اسماء النبی کا ایک مرقع بہترین مقتدس نام جو بھی رکھے گا دردِ زباں سے روکڑوں و مرکان میں عرش کے مسند نشین ہر کمال و حسنِ خوبی کا ہے اُن پر اختتام دل سے جو کرتا نہیں ہے اُن کا ادب و احترام اہل علم کیلئے تعویذِ جان ہے یہ کتاب

۲۰۰۹ء

صاحبزادہ میر تقی میر اللامین فاروقی سیالکوٹی

انتساب

پنجتن پاک

امہات المؤمنین

خلفائے راشدین

اور

سات سلطان الفقر کے نام

انتساب

فہستہ

۳	←	→	گدائے مصطفیٰ مولا ﷺ
۴	←	→	ثنائے محمد ﷺ
۶	←	→	محمد ﷺ محمد ﷺ وظیفہ ہوا ہے
۸	←	→	سہارا نبی جی ﷺ
۱۰	←	→	پیارتھارا
۱۱	←	→	دعا (لمعاتِ مصطفائی)
۱۳	←	→	تقریظ
۱۷	←	→	حرفِ آغاز

۲۱۹	←	→	تیرہویں منزل	۲۳	←	→	پہلی منزل
۲۳۵	←	→	چودہویں منزل	۳۷	←	→	دوسری منزل
۲۵۳	←	→	پندرہویں منزل	۵۳	←	→	تیسری منزل
۲۶۷	←	→	سولہویں منزل	۶۹	←	→	چوتھی منزل
۲۸۱	←	→	سترہویں منزل	۸۹	←	→	پانچویں منزل
۳۰۱	←	→	اٹھارویں منزل	۱۰۱	←	→	چھٹی منزل
۳۲۳	←	→	انیسویں منزل	۱۱۷	←	→	ساتویں منزل
۳۳۹	←	→	بیسویں منزل	۱۳۳	←	→	آٹھویں منزل
۳۵۷	←	→	اکیسویں منزل	۱۴۹	←	→	نویں منزل
۳۷۵	←	→	بائیسویں منزل	۱۶۵	←	→	دسویں منزل
۳۸۹	←	→	تیسویں منزل	۱۸۱	←	→	گیارہویں منزل
۴۰۷	←	→	چوبیسویں منزل	۱۹۹	←	→	بارہویں منزل

۶۰۳	↔	پینتیسویں منزل	↔	۴۲۱	↔	پچیسویں منزل
۶۲۱	↔	چھتیسویں منزل	↔	۴۳۵	↔	چھبیسویں منزل
۶۴۱	↔	سینتیسویں منزل	↔	۴۶۱	↔	ستائیسویں منزل
۶۶۱	↔	ارٹیسویں منزل	↔	۴۸۱	↔	اٹھائیسویں منزل
۶۸۵	↔	انتالیسویں منزل	↔	۵۰۱	↔	اتیسویں منزل
۷۰۱	↔	چالیسویں منزل	↔	۵۱۷	↔	تیسویں منزل
۷۱۷	↔	اکتالیسویں منزل	↔	۵۳۵	↔	اکتیسویں منزل
۷۴۱	↔	اسمائے گرامی مولانا علی رضی اللہ عنہ	↔	۵۵۵	↔	بیسویں منزل
۷۴۸	↔	لمعاتِ مصطفائی	↔	۵۷۱	↔	تینتیسویں منزل
۷۴۹	↔	کلام ناظر حسین ناظر رحمۃ اللہ علیہ	↔	۵۹۱	↔	چوتیسویں منزل

حوالہ جات ۷۵۰

لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة
المصطفیٰ والمرتضیٰ و ابناهما والفاطمة

بیدم یہ ہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی

کاروانِ مصطفائی

گدائے مصطفائی

کلام: پیر طریقت، فقیر، مخدوم تنویر المصطفائی قادری اویسی

کرم سے دے بنا مجھ کو گدائے مصطفائی مولا
 مرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے یہاں تو نے
 بنایا مصطفائی قادری رحمت سے اپنی ہے
 رہے نہ ہوش اپنی ان کی یادوں میں رہوں روتا
 گروں اندھی قبر میں جس گھڑی اتنا کرم کر دے
 کرم کر دے کرم کر دے شرم دے دے مجھے یارب
 ہوائے نفس و دنیا سے مجھے محفوظ رکھ لینا
 تری ہی آرزو تیری لگن ہو میرا سرمایہ
 رہے خوشبوئے جاناں خانہ دل میں فقط میرے
 لگا اک درد سینے میں پھروں میں در بدر مارا
 لگا کر آگ سینے میں چھپایا رخ نقابوں میں
 رہے لب پر مرے شام و سحر صل علی مولا
 مجھے شرمندگی سے حشر میں لینا بچا مولا
 انہی میں موت، ان میں رکھ مجھے، ان میں اٹھا مولا
 مجھے محبوب ﷺ کی الفت میں ایسا کر فنا مولا
 رخ انور سے آقا ﷺ کے قبر کو جگ مگا مولا
 نگاہیں نیچی ہوں اور دل میں میرے ہو حیا مولا
 مجھے شیطان کے حیلوں میں نہ دینا پھنسا مولا
 تری ہی جستجو میں موت مجھ کو جائے آ مولا
 رہے میرے بھی دل میں عشق کا جلتا دیا مولا
 مرے زخموں کی بھی کر دے کوئی تو اب دوا مولا
 نہ جانے کیسی الفت کی ہے تیری یہ ادا مولا

قبول آثم کی کر لے التجا، اتنا ہی دعویٰ ہے

سگِ غوث الوری ہوں کچھ نہیں اس کے سوا مولا

ثنائے محمد ﷺ

کلام: پیر طریقت، فقیر، مخدوم تنویر المصطفیٰ قادری اویسی

بڑا بخت وروہ گدائے محمد ﷺ
 اسی کے لئے ہے لقاے محمد ﷺ
 لبوں پر رہی یہ صدائے محمد ﷺ
 خدا بھی ہے پہلے خدائے محمد ﷺ
 ارے جانِ ایماں ولاے محمد ﷺ
 گنہگاروں کو بخشوائے محمد ﷺ
 شریعت ہے ساری ادائے محمد ﷺ
 سنا ہے کہ بگڑی بنائے محمد ﷺ
 انھیں بھی گلے سے لگائے محمد ﷺ
 ہے عالم یہ سارا عطاءے محمد ﷺ
 ہوا ہے وہی جاں فدائے محمد ﷺ

ہے جس کے لبوں پر ثنائے محمد
 محمد ﷺ ہے جس کا وظیفہ
 یہ اُمت مری تو حوالے مرے کر
 نہیں ہے جو ان کا نہیں وہ خدا کا
 مجھے پوچھتے ہو کہ ایمان کیا ہے
 نہیں ڈر جہنم کا جب سے سنا ہے
 طریقت، حقیقت فقط ان پہ مرنا
 چلو غم کے مارو چلیں سوئے طیبہ
 جہاں میں نہیں کوئی جس کا سہارا
 اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا
 تری اک ادا کو ہے جس نے بھی دیکھا

جھکی ساری مخلوق سجدے میں واللہ
 بھری جھولی سب کی زباں پر نہ لا ہے
 انہیں کے سدا گیت گائیں نہ کیوں ہم
 خطا تیری منکر کہ دیتے نہیں کچھ
 نہ امت کو بھولے وہ معراج کی شب
 قبر میں، حشر میں سلامت رہے گا
 مرے غوث کا صدقہ آتم کو مولا

کہ جس وقت دنیا میں آئے محمد ﷺ
 نرالی ہے سب سے سخائے محمد ﷺ
 ملا جو بھی ہم کو برائے محمد ﷺ
 ہمیں تو کھلائے پلائے محمد ﷺ
 ہے دیکھو یہ کیسی وفائے محمد ﷺ
 ہے آتم کے دل میں ولائے محمد ﷺ
 ملے دو جہاں میں رداے محمد ﷺ

حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالِدِيُّ
 وَصَلَّى وَسَلَّمَ

محمد ﷺ وظیفہ ہوا ہے

کلام: پیر طریقت، فقیر، مخدوم، تنویر المصطفیٰ قادری اویسی

مجھے بھی ملے کاش الفت تمہاری
 کبھی آنکھیں میری بھی ٹھنڈی تو ہوں گی
 کبھی خواب میں میرے جلوہ دکھاؤ
 سلاطین زمانے کے تیرے گدا ہیں
 زلیخا مٹی حسن یوسف پہ لیکن
 پڑھوں کیوں نہ صل علی جھوم کر میں
 قسم رب کی کعبہ بھی آیا وجد میں
 ہے جبرئیل نے جھنڈا کعبہ میں گاڑا
 سلامی کو آئے ملائک نبی سب
 تصور جو باندھا تمہیں یاد آئے
 مجھے کیوں ہو کھٹکا کہ دو سائے سر پر
 رلائے ستائے یہ چاہت تمہاری
 جو دیکھی مدینے میں تربت تمہاری
 مرے دل میں کب سے ہے حسرت تمہاری
 دو عالم میں مولا حکومت تمہاری
 قسم سے ہے یوسف کو حاجت تمہاری
 ہوئی آج جگ میں ولادت تمہاری
 ہوئی جس گھڑی پر ولادت تمہاری
 ہوئی جس گھڑی پر ولادت تمہاری
 ہوئی جس گھڑی میں ولادت تمہاری
 کہ جلوت میں بھی تو ہے خلوت تمہاری
 عدالت خدا کی وکالت تمہاری

گرایا زمانے نے جس کو اسے تم نے سینے لگایا عنایت تمہاری
 خدائی خزانوں کے وارث تمہی ہو ہے دولت تمہاری ہے ثروت تمہاری
 ہوئے ہوش ریزہ وہ موسیٰ کی طاقت نہ جھپکی پلک بھی یہ ہمت تمہاری
 تمنا ہے کرتا رہوں تجھ کو سجدے مگر روکتی ہے شریعت تمہاری
 قمر بھی ہے گھائل کہ خورشید قائل میں قربان ہاتھوں کی طاقت تمہاری
 خدا نے حسین تجھ کو ایسا بنایا دیوانی ہوئی ساری خلقت تمہاری
 رکا آ کے سد رہ پہ جبریل آخر مگر عرش سے بالا رفعت تمہاری
 ولی انبیاء غوث مہر بلب ہیں خدا جانے کیا ہے حقیقت تمہاری
 محمد ﷺ وظیفہ ہوا ہے ہوئی آقا آثم پہ رحمت تمہاری

وَإِلَّا لَشَدِيدَ الْعَذَابِ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

سہارا نبی
حبیبی

کلام: پیر طریقت، فقیر، مخدوم تنویر المصطفیٰ قادری اویسی

تمہارا تمہارا تمہارا نبی ﷺ جی
پھنسی ہے ملے اب کنار نبی ﷺ جی
تجھے ہو گا کب یہ گوارا نبی ﷺ جی
ترے در ہو گر نظارا نبی ﷺ جی
نہیں جس میں کوئی خسارا نبی ﷺ جی
وہ کیا ہو جو تم کو ہو پیارا نبی ﷺ جی
ملے تیری الفت خدارا نبی ﷺ جی
مصائب نے دنیا کے مارا نبی ﷺ جی
نہیں ہے جو بندہ تمہارا نبی ﷺ جی
اگر ہو تمہارا اشارہ نبی ﷺ جی
ہے جس کو نظر نے سنوارا نبی ﷺ جی

ہے دونوں جہاں میں سہارا نبی ﷺ جی
گناہوں کے طوفاں میں کشتی یہ میری
چلیں سوئے دوزخ مجھے لے فرشتے
کہوں گا کہ میں نے بھی دیکھی ہے جنت
محبت یہ تیری تجارت ہے ایسی
تمہیں جو بھی چاہے وہ محبوب رب ہوگا
بنا اس کے کامل نہیں دین و ایماں
خدارا میرے حال پر رحم کر دو
بھلا کس طرح ہو خدا کا وہ بندہ
بھلا کیوں نہ بخشے خدا تیری امت
دلہن بن کے جنت اسے لینے آئے

حقیقت کی تیری کنار نبی جی
 تو ہی تو خدا کا ہے پیارا نبی جی
 نہیں دو جہاں میں وہ ہارا نبی جی
 خدا نے تجھے یوں سنوارا نبی جی
 مصائب میں جس نے پکارا نبی جی
 لگاؤ یہ پر زور نعرہ نبی جی
 تو ہی آسرا ہے ہمارا نبی جی
 ہے ٹکڑوں پہ تیرے گزار نبی جی

قسم سے کسی کو بھی اب تک ملا نہ
 خدا تیری مانے تو کیسے نہ مانے
 ہو چشم عنایت تیری جس پہ واللہ
 ہوئی ساری مخلوق تیری دیوانی
 ہیں پہنچے اسی وقت فریاد سن کر
 کبھی سامنا ہو اگر مشکلوں کا
 نہیں تیرے بن کوئی بے کس کا یاور
 ترا چھوڑ کر در کہاں جائے آثم

صَلَّوْا عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

پیار تمہارا

کلام: پیر طریقت، فقیر، مخدوم تنویر المصطفیٰ قادری اویسی

مل جائے زمانے میں جسے پیار تمہارا
 ہو گا سر محشر اسے دیدار تمہارا
 جنت بھی اسے لینے کو آئے گی قسم سے
 جو بھی میرے آقا ہے طلب گار تمہارا
 دیکھے نہ کبھی سوئے ابد روز ازل سے
 جو بھی میرے آقا ہے طلب گار تمہارا
 دامن کرم میں مجھے لے لینا خدارا
 جائے گا کہاں حشر میں بدکار تمہارا
 صورت بھی نرالی تیری سیرت بھی انوکھی
 بے مثل زمانے میں ہے کردار تمہارا
 خورشید و قمر میں تیرے جلووں کی نہیں تاب
 شرمائیں کبھی دیکھیں جو رخسار تمہارا
 رومی بھی نہیں جامی غزالی بھی نہیں ہے
 نوکر ہے یہ آثم میری سرکار تمہارا
 جنت کی نہ شہرت کی نہ ثروت کی طلب ہے
 آثم ہے فقط تجھ سے طلب گار تمہارا

لمعاتِ مصطفائی

کلام: پیر طریقت، فقیر، مخدوم تنویر المصطفیٰ قادری اویسی

غوث الوریٰ کا صدقہ لمعاتِ مصطفائی
 جنت کا ایک جھونکا لمعاتِ مصطفائی
 ہے بزمِ نورِ بالا لمعاتِ مصطفائی
 ہے عشق کا حوالہ لمعاتِ مصطفائی
 دل میں کرے اجالا لمعاتِ مصطفائی
 کیسا ملا ہے تحفہ لمعاتِ مصطفائی
 ہے نور لے کے آیا لمعاتِ مصطفائی
 ابرِ کرم کا جھالا لمعاتِ مصطفائی
 منبعِ عنایتوں کا لمعاتِ مصطفائی
 وردِ زباں ہمیشہ لمعاتِ مصطفائی
 میراں کا ہے یہ صدقہ لمعاتِ مصطفائی

کر لے قبول مولا لمعاتِ مصطفائی
 خوشبو سے اس کی مولا دونوں جہان مہکیں
 انوار اس کے پھیلیں صبحِ مسافلک تک
 دل کا قرار ہے یہ روح کا نکھار ہے یہ
 شام و سحر بنا لو اس کا وظیفہ لوگو
 اے مصطفائی بھائی تجھ پہ کرم ہوا ہے
 ساماں ہے روشنی کا تاریکیءِ لحد میں
 توصیفِ جانِ رحمت آقا کی یہ ہے مدحت
 اے طالبِ حقیقت آ لے پناہ اس کی
 میری یہ ہی دعا ہے رب سے رہے حشر تک
 مولا کی خاص رحمت سرکار کی عنایت

صدقہ ہے انبیاء کا لمعاتِ مصطفائی
 مولا علیؑ کا عطیہ لمعاتِ مصطفائی
 زہرا کا کاش صدقہ لمعاتِ مصطفائی
 گلشن ہے خوب مہر کا لمعاتِ مصطفائی
 گھر گھر میں ہو خدایا لمعاتِ مصطفائی
 لایا ہے ایک ہدیہ لمعاتِ مصطفائی

صدقہ بقیہ عمر کا صدقہ عثمانؓ علیؓ کا صدقہ
 فیضانِ فاطمہ ہے حسنین کا کرم ہے
 دونوں جہاں کے آقا کہہ دیں قبول کر لی
 لاکھوں صفت تیری کچھ پھول چن لئے ہیں
 حسنین کے ہی صدقے آثم کی التجا ہے
 آثم کمینہ نام پلے نہیں ہے کچھ بھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

محترم و مکرم جناب پیر طریقت واقف رموز شریعت تنویر المصطفیٰ قادری اویسی دامت برکاتہم عالیہ نے اس سے پہلے درود پاک کا بے بہا ذخیرہ "الفیوضات الاویسیہ فی الصلوٰۃ المصطفویہ" (درود تجلیات مصطفائی) میں جمع کر دیا۔ گویا کہ عشاقانِ مصطفیٰ ﷺ کے لئے یہ ایک ساغر ہے، جس میں عشقِ مصطفیٰ ﷺ کی شراب بھری ہوئی ہے۔ امت کے لئے اس انمول تحفہ کے بعد محترم موصوف نے سرکارِ دو عالم، جان کائنات، دولہائے دو جہاں، رحمتِ دو عالم ﷺ کے اسماء مبارکہ کو جس محنت کے ساتھ اکٹھا فرمایا ہے یقیناً یہ بہت بڑی کاوش ہے۔

من احب شیفا فاکثر ذکرہ کے قانونِ محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے کہ محترم پیر صاحب نے محبتِ رسول اللہ کو حرزِ جان بنا رکھا ہے جو کہ ایک مومن کے لیے گنج گراں مایہ ہے۔

حضورِ رحمتِ عالم ﷺ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی ورفہمذاک ذکرک کی شانِ بے نیازی سے سرفراز فرما رکھا ہے۔

لیکن بقول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے

ما ان مدحت محمد ابمقالتی ولكن مدحت مقاتلی بمحمد ﷺ

پیر صاحب نے سرکارِ ﷺ کی بارگاہِ ناز میں یہ سعی کر کے اپنے لئے دونوں جہانوں کی سعادتیں سمیٹی ہیں۔ جس طرح کہ ہر دور میں گدایانِ رسول ﷺ اس بارگاہِ ناز میں در یوزہ گری کر کے اپنے لئے آخرت کی راہوں کا ذخیرہ بناتے رہے۔

محترم موصوف کے دادا جان کا ہمارے حضور پیر سید محمد شاہ المعروف بابا جی صاحب طوری شریف کے ساتھ روحانی تعلق تھا۔ موصوف نے اس تعلق کی وجہ سے چند الفاظ لکھنے کیلئے موقع فراہم کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق حضور ﷺ کے اسی اسماء مبارکہ کی برکت سے قائم دائم رکھے اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقامِ قبولیت عطا فرمائے اور روزِ محشر آپ ﷺ کی شفاعت نصیب فرمائے۔

ہم فقیرم ہم غیر بمیکس و بیمارنا تو اس یک قدر فراں شربت دار الشفا دام امید

پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر حضرت پیر سید شاہ احمد کمال مدظلہ

آستانہ عالیہ طوری شریف ایبٹ آباد میرا مندر و چہ شریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محبتِ رسول ﷺ تنویر المصطفیٰ کے جمع کردہ اسماءِ مصطفویٰ دیکھنے نصیب ہوئے جو یقیناً نوادرات میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں صاحبِ دلائل الخیرات نے جس طرح آقا ﷺ کی ذاتِ عالیہ کے لیے درود گرامی کے تحائف کو جمع فرما کر صوفیاء کے لیے تنویرِ قلوب کا سامان فرمایا جناب تنویر المصطفیٰ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کے اسماء و صفات کو جمع فرما کر عاشقانِ رسول کے لیے بیش قیمت ہیرے سلک میں پرو دیے ہیں جو ان کے لیے روح و قلب کی جلا کا باعث بنیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ان کی اس سعیِ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور بلندیِ درجات کا باعث بنائے امین بجاہ رسولہ الکریم۔

خادم العلماء محمد عبدالعلیم سیالوی جامعہ نعیمیہ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَقْرِظَا

درود و سلام پر مشتمل نہایت حسین و جمیل مرقع درود و تجلیات مصطفائی کی ترتیب و تدوین کے بعد نہایت قلیل مدت میں محبت گرامی قدر صاحب ذوق سلیم حضرت صاحبزادہ تنویر المصطفیٰ قادری اویسی مدظلہ العالی نے نہایت ذوق و شوق اور شب و روز کی تپ و تاب سے اسمائے نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر مشتمل ہے مجموعہ مبارکہ مرتب فرمایا ہے، یہ سب فضل ربانی اور نگاہ مصطفوی کا فیض جاودانی ہے۔ مختلف سیرت کی کتب اور درود و سلام کے مجموعہ ہائے مبارکہ سے یہ اسماء مبارکہ لیے گئے ہیں۔ فقیر کے خیال میں جو گھڑیاں اس تلاش و طلب میں گزری ہیں وہ موصوف مولف اور ان کے ساتھیوں کیلئے سرمایہ زیست ہیں بقول حافظ شیرازی

زندگانی نتواں گفت حیائے کہ مراست

زندہ آنست کہ بادوست وصالے دارد

محدثین کا ارشاد ہے المراد بالا اسماء هنا الفاظ تطلق علی رسول ﷺ اہم من کوہ علماء او وصفنا اسماء سے مراد وہ الفاظ ہیں، جو نبی کریم کی ذات و صفات کے لئے بولے جائیں خواہ وہ از قبیل اعلام ہوں یا از قبیل صفات کثرہ الاسماء تدل علی کثر عظمتہ المسمی اسماء کی کثرت مسمی کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جس طرح عظمت مصطفیٰ ﷺ کے پہلو لا محدود ہیں، اسی طرح اسماء گرامی بھی لا محدود ہیں۔ معجزہ مصطفیٰ ﷺ فی الصدق محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوة سے رقمطراز ہیں۔ ”عظیم ترین کرامت اور جامع ترین فضائل و کمالات میں سے حضور ﷺ کے اسمائے مبارکہ ہیں۔ جو محاسن اخلاق و افعال اور جامع جمال و جلال پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے اسمائے گرامی قرآن حکیم، دیگر کتب ساویہ اور انبیاء کرام و رسل عظام علیہم السلام کی زبانوں پر کثرت سے جاری فرمائے ہیں۔ ہر اسم کسی صفت و فعل سے لیا جاتا ہے۔ محبوب خدا ﷺ کی صفت و افعال سے ہی اسمائے گرامی ماخوذ ہیں۔ اب تک بہت سے بزرگان دین نے اسماء مبارکہ جمع فرمائے بعض نے ۴۰۰ بعض نے ۵۰۰ بعض نے ایک ہزار یا اس سے زیادہ جمع کیے۔ مؤلف موصوف نے سات ہزار سے زیادہ اسمائے گرامی ترتیب و تالیف کیے۔ جس پر آپ دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ موصوف صاحب درود و سوز بھی ہیں اور نسبت اوسیہ کے حامل بھی۔ آپ کی محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص پابند صوم و صلوٰۃ اور امت مسلمہ کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سلسلہ میں برکت عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو حضور ﷺ کی محبت کے جھنڈے تلے جمع فرمائے۔

حضرت علامہ سید عظمت حسین شاہ گیلانی ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ

حال راولپنڈی

۴ صفر المظفر ۱۴۳۰ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

آپ کی سلامتی اور ثابت قدمی کے لئے دست دعا ہوں کہ آپ حضور نبی اکرم ﷺ کے اسمائے مقدسہ پر تحقیق کر کے انہیں مجموعہ کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس فقیر کو ضلع ہزارہ (انک) کے ایک کامل پیر طریقت کا مرتبہ دو جلدوں میں ضخیم ذخیرہ درود شریف دیکھ کر حیرت و استعجاب ہوا تھا۔ میرے خیال میں درود شریف پر اتنا وسیع کام اس سے پہلے نہیں ہوا۔ جو ایک صدی قبل اس محبت رسول ﷺ نے کر کے دکھایا۔ البتہ اس کا کاغذ عامیانا تھا اور اس کا پھر کبھی نیا ایڈیشن بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ تاہم ان کی کاوش بڑی عظیم تھی۔ اب آپ کی طرف سے نبی کریم ﷺ کے مروجہ ۹۹ اسمائے مقدسہ سے بڑھ کر قرآن، حدیث، سیرت، سوانح، تاریخ کی روشنی میں مزید بے بہا گوہر نایاب کو جمع کر کے خوبصورت اشاعت دینے کا منصوبہ یقیناً قابل صد تحسین ہے۔ اس کاوش سے میں سمجھتا ہوں کہ سرور عالم و پیغمبر اسلام کی شان و علو المرتبت سے آگہی ہوگی بلکہ ان کے معاملات کائنات میں بصارت و دسترس سے بھی ہر چشم کٹھا متلاشی حق کو آگہی حاصل ہوگی۔

اللہ تعالیٰ آپ کو دین متین کی خدمت کے لئے تادیر سلامت رکھے۔ آمین

پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب دربار حضرت سلطان باہو جھنگ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کو بے حد و حساب اور لاتعداد و بے شمار نامیں عطا فرمائی ہیں اور آپ ﷺ کی ہر شان سے ایک نام وجود میں آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو اپنے اسماء گرامی بھی عطا کیے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی رؤف و رحیم ہے اور نبی پاک ﷺ بھی رؤف و رحیم ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ اس کی شان کے مطابق قدیم، غیر حادث، ذاتی اور مستقل ہیں اور حضور ﷺ کی صفات عالیہ حادث اور عطائی ہیں۔

بہت سارے اہل محبت نے حضور پاک ﷺ کے زیادہ سے زیادہ اسمائے گرامی جمع کرنے کی کوشش کی ہے، مگر پندرہ سو تک بھی کوئی نہ پہنچ سکا۔ اس لحاظ سے حضرت پیر طریقت مخدوم و محترم تنویر المصطفیٰ قادری اویسی دامت برکاتہم عالیہ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ آپ نے اپنے پیارے نبی ﷺ کے تقریباً ۷۲۰۰ اسمائے گرامی جمع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں

ایں سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

چند اسماء مبارکہ کی زیارت سے اس فقیر پر تقصیر نے بھی اپنی آنکھوں کو نور اور دل کو سرور بخشا، ایمان تازہ ہوا اور روحانی تسکین نصیب ہوئی۔

اللہ تعالیٰ حضرت پیر صاحب کی کوشش کو دربار رسالت مآب ﷺ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔

دعا گو و طالب دعا

حضرت علامہ مفتی غلام حسن قادری لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تقریظ

محمد ﷺ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر مخلوق سے زیادہ کی اور رحمت عالم ﷺ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر ذی روح سے زیادہ کی۔ حضور پاک ﷺ کے بیٹا نور ہیں۔ جیسے نور مصطفائی، نور مجتہبی، نور نبوت، نور رحمت اللعالمین، نور محمود، فتانی الرسول کے مقام میں علماء حضور ﷺ کے ظاہری لباس کو شریعت کا نام دے کر، آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کو اپنی زندگی کیلئے نمونہ اختیار کرنے کو سیرت کا نام دے کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جبکہ صوفیائے کرام حضور ﷺ کے اسماء النبی ﷺ کے باطنی انوار میں فنا اور بقا حاصل کرتے ہیں۔ ایک ظاہری راہ پر گامزن ہیں، دوسرے باطنی نور میں موجزن۔ چند اسماء النبی ﷺ میں ہی فنا حاصل کی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حضور پاک ﷺ کے کمل انوار میں فنا و بقا حاصل ہے۔ کیسے ہو وہ کون ہے جو محمد ﷺ کہلائے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ﷺ کے دو انوار، صدق و صفائیں فنائے تام حاصل ہے۔ اس لئے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک ﷺ کے دو نوروں، عدل اور محاسبہ نفسی میں فنا حاصل ہے اس لئے آپ کو فاروق اعظم کہا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ﷺ کے نور حیا اور نور سخا میں فنا حاصل کر کے ذوالنورین، یعنی دو نوروں والے کہلائے۔ حضرت علی علیہ السلام کو نور علم انامدیۃ العلم وعلیٰ بابہا کا خطاب ملا۔ نور فقر میں فنا حاصل کر کے فقر کے شہنشاہ لعمک لعمی کے مقام کو پہنچے اور علی مولا کہلائے۔ نور شجاعت رسول ﷺ میں فنا طے کر کے شیر خدا بنے۔ ولایت رسول میں فنا سے مہر ولایت حاصل کر کے ”ولی گر“ کہلائے اور رسول پاک ﷺ کے بھائی کہلائے۔ سلطان الفقر حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز جب نور مصطفائی ﷺ اور نور مجتہبی ﷺ میں فنا حاصل کر چکے، تو رسول پاک ﷺ نے باہو سلطان کو مصطفیٰ ثانی و مجتہبی آخر الزمانی کے خطاب سے نوازا۔ معلوم ہوا کہ آج بھی عاشقان رسول اسماء النبی ﷺ میں فنا حاصل کر کے مختلف مناصب سے سرفراز کیے جا رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ تنویر المصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ کے منصب کو زیادہ کرے۔ زاد حلسہ و حمرہ و وصلہ و فقرہ و عشقہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مجموعہ درود شریف (تجلیات مصطفائی) کے بعد دوسری باریہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے اسماء النبی ﷺ کے نام سے ۷۲۰۰ مقدس نورانی اسماء یک جامع کر کے عاشقان رسول ﷺ کے لئے ایک بہت بڑی خدمت سرانجام دی ہے۔ اللہ رب العزت کرے کہ عاشقان رسول ﷺ ان اسماء سے استفادہ کر کے ان کے انوار سے اپنے قلب و روح سرور کو کوثر نور بنالیں۔ اللہ تعالیٰ پیر تنویر المصطفیٰ قادری اویسی دامت برکاتہم العالیہ کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔ رحمت اللعالمین ﷺ آپ سے راضی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا! کہ ”حضور پاک ﷺ چلتے پھرتے قرآن مجید ہیں“۔ پس میرے نزدیک ان اسماء النبی ﷺ کا ورد قرآن مجید کے ثواب جیسا ہے۔

فقیر الطاف حسین سروری قادری سلطانی
المقلب آخری عہد کا خلیفہ سلطانی
عزیز کالونی ونڈالہ روڈ شاہدرہ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدًا وَنُصَلِّیْ عَلَیْكَ اَسْوَلِ الْاَسْوَلِ

حرفِ آغاز

”کلماتِ ربی“ سے مراد کچھ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ صدر نشین بزم کائنات، شمعِ راہِ اصابت، شیرازہءِ مجموعہٴ فصاحت، شمعِ بزمِ ہدایت ﷺ کی ذات ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو ”کلمۃ اللہ“ کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ کا ایک کلمہ ہیں اور سرورِ کونین، نورِ کونین، جانِ کونین ﷺ اللہ کے جمع کلمات ہیں، یعنی کلماتِ ربی ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ پیارے حبیب اگر تمام سمندر سیاہی، درخت کلمیں اور جن وانس لکھنا شروع کر دیں تو تیرے اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

دنیا ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے

تیرے اوصاف کا اک باب بھی پورا نہ ہوا

آئینہ ذاتِ خدا، آفتابِ ہدائی، آذانِ کا مدعا، امامِ الانبیاء ﷺ کے اوصاف و کمالات کی کوئی حد نہیں کہ آپ کا حال ہمہ وقت ترقی پر ہے اور آپ کی ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے ”یا یہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ“ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یاد رہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے یعنی حسنِ اتم، صاحبِ حشم، حیاتِ شعور و فہم ﷺ کو صرف اللہ کا بندہ اس کا رسول اور نبی ہی تسلیم نہ کرو بلکہ جس قدر بھی اوصاف سے اللہ نے اپنے پیارے حبیب، سرِ اُپا قرآن، حق رساں، حیاتِ جسم و جاں، حبیبِ یزداں ﷺ کو نوازا ہے ان تمام پر ایمان لاؤ اور ان اوصاف مبارکہ کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا ”واتممت علیکم نعمتی“ اور ہم نے آپ پر اپنی نعمتیں تمام فرمادیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی کمال، کوئی وصف، کوئی خوبی ایسی نہیں جس سے رونقِ حریمین، اصلِ کونین، جدِ الحسین بہرور نہ ہوں ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام پر دل و جان سے ایمان لائیں اس لیے تاکید ہوئی کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر۔

جو لوگ بھی اس بات کے خواہش مند ہیں کہ حسنِ آفریں، حجتِ حقِ الیقین، ہرول کے مکین، سرِ اُپا حسین ﷺ کی کامل اتباع کریں اور آپ کی پیاری پیاری عادات اور عظیم تر اخلاق اپنائیں اور جو بھی اس بات کے ارادت مند ہیں کہ محبوبِ شرقی، حبیبِ غربی، رسولِ عربی ﷺ کا قرب حاصل کریں اور فانی الرسول ہو جائیں ان کے لیے لازمی ہے کہ خضر جہاں، مہمانِ لامکاں، خدا کے رازداں، خواجہٴ انس و جاں ﷺ کے اوصاف و عادات اور خصائل سے آگاہی حاصل کریں اور پھر ان عمدہ ترین اوصاف و عادات کو اپنالیں اور اس طرح رسول اللہ ﷺ کے رنگ میں رنگ جائیں کہ طالبانِ حق کے لیے کامیابی کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔

جس طرح اللہ کے ان گنت اور لاتعداد صفاتی نام ہیں ایسے ہی خلد مکین، خواجہ دسین، خاک نشین، خاتم مرسلین ﷺ کے بے حد صفاتی نام ہیں ہر نام روح عالم، رسول ملام، وسیلہ آدم، نبی حاکم ﷺ کے کسی نہ کسی صفت کی جلوہ گاہ ہے۔ عربی کا مقولہ ہے ” کثرة الاسماء تدل علی شرف المسمى “ کسی کے ناموں کی کثرت اس کی اہمیت و عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ آپ ﷺ کے اسماء و صفات محض رسمی نہیں کہ والدین یا احباب و اصحاب نے جو چاہا نام رکھ لیا بلکہ تمام اسماء و صفات کا آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق و اعمال کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے مثلاً محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے تذکرے ہمیشہ خوبی اور نیک گوئی کے ساتھ ہوئے ہوں یہ اسم انبیاء سابقین کی بشارات اور مستقبل میں تذکرہ ہائے حیات کی جانب اشارہ ہے۔ اسم احمد کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حمد الہی کے لیے نغمہ سنج ہو، اس طرح یہ اسم مبارک اپنی ترکیب میں عبدیت کاملہ اور انسان کامل ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ بلاشبہ آپ خدا پرست انسانوں کے لیے مبشر و بشیر اور فتنہ جو مفسدوں کا فروں اور مشرکوں کے لیے منذر و نذیر ہیں روز قیامت صادق و کاذب دونوں قسم کے لوگوں پر شاہد و شہید ہیں راہ حق سے بھٹکے ہوؤں کے لیے ہادی اور خدا سے بھاگے ہوؤں کے لیے داعی ہیں۔ (فلسفہ اسمائے رسول)

دراصل انبیاء کرام کی ذات اور ان کے افعال و اقوال خواہ وہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری عہد آہوں یا سہو اسب حقائق و اسرار کا مجموعہ ہوتے ہیں لہذا یہ اسماء بھی صرف تعین شخصیت کے لیے نہیں بلکہ ہر اسم اپنی اپنی جگہ گنجینہ معارف ہوتا ہے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے احمد نامی، امت کے حامی، رسول گرامی ﷺ سے سنا آپ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے (بہت سے) نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماجی (مٹانے والا) ہوں کہ اللہ میرے ذریعہ سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر (جمع کرنے والا) ہوں کہ سب لوگ (قیامت کے روز) میرے بعد اٹھائے جائیں گے، میں عاقب (پیچھے آنے والا) ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ (بخاری و مسلم)۔

صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء و صالحین رحمۃ اللہ علیہم کی عزیمت اور استقامت پر مبنی زندگیاں ہم پر اس حقیقت کو کافی حد تک واضح کر دیتی ہیں کہ راز معانی، سرِ قرآنی، منظرِ ذاتِ ربانی، سیاحِ لامکانی ﷺ کے ساتھ قلبی اور ایمانی تعلق اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ فکری اور عملی وابستگی انسان کو بعض اوقات بے خودی اور فنایت کی اس معراج تک پہنچا دیتی ہے انسان اس کی خاطر اپنے انتہائی خونی اور نسبی رشتوں اور معاشی و معاشرتی رابطوں سے بھی بے پرواہ اور لاتعلق ہو جاتا ہے۔ عہدِ اسلامی کے عشاق رسالت عشق و جنون کی کن کن خوفناک گھاٹیوں سے گزرے، اور انھوں نے رسولِ ثقلین، دلوں کے چین، مصاحبِ حسن و حسین کے ساتھ اظہارِ محبت کی کون کون سی خطرناک منازل طے کیں، ان کا احاطہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔

دین اسلام کے غلبہ کی خاطر میدانِ کارزار میں اگر اپنی جان سے گزر جانا اظہارِ عشق کا ایک انداز ہے، تو عشق رسالت کی مستی میں فنا ہو کر توہینِ نبوی کے ملعون مجرموں کو جہنم پہنچا کر خود سولی پر چڑھ جانا، اسی عشق کے اظہار کی ایک کڑی ہے۔ احادیث رسول ﷺ کی تلاش، جمع، حفاظت اور ان میں صحیح و ضعیف احادیث کے درمیان فرق کرنے کے لئے اپنی عمریں صرف کر دینا اگر

اظہارِ عشق کا ایک پہلو ہے، تو امت کی سہولت کے لئے قرآن و سنت کی تعلیمات سے انسانی ضرورت کے لاکھوں مسائل کو اخذ کرنے کے لئے اپنی تمام تر علمی اور فکری توانائیاں لگا دینا بھی اسی اظہارِ عشق کا دوسرا پہلو ہے۔

سرورِ کونین ﷺ کی مکمل اتباع کرتے ہوئے سنت کے مطابق زندگی گزارنا اگر عشق کے اظہار کا ایک طریقہ ہے تو دوسری طرف اسلام دشمن قوتوں اور نام نہاد مغربی تہذیب کے دلدادہ روشن خیالوں سے نبرد آزما ہونا یہ بھی عشق کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ روضہ رسول ﷺ تک رسائی اگر عشق کے اظہار کا ایک رنگ ہے تو دوسری طرف سرورِ کونین ﷺ کی بارگاہ بے کس پناہ میں نعتِ عشق کے اظہار کا دوسرا رنگ ہے۔

غرض یہ کہ جناب عالم پناہ، ذات الہی میں فنا، صاحبِ عز و جاہ ﷺ کی ذات و صفات اور تعلیمات کے ساتھ ساتھ شرعی حدود پر قائم رہتے ہوئے، آئمہ سلف کی تعلیمات کے مطابق عشق کے اظہار کا جو طریقہ بھی اپنایا جائے، وہ باعثِ فخر اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح آپ ﷺ کی سیرت طیبہ پر لاکھوں کتابیں اظہارِ عشق کا ذریعہ ہیں اسی طرح آپ ﷺ کے اسماء مبارکہ کی تلاش اور اشاعت بھی اظہارِ عشق کا ایک عظیم طریقہ ہے

قرآن مجید میں ذاتی اسماء محمد اور احمد کے علاوہ سینکڑوں آیات صفاتی اسماء کی طرف اشارہ کرتی ہیں آپ ﷺ کے کل ذاتی و صفاتی اسماء کتنے ہیں اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ناممکن ہے علمائے کرام اور سیرت نگار حضرات نے اپنی استطاعت کے مطابق شاہ بطحا، شاہ بے خطا، شاہ ارض و سما ﷺ کے جو اسمائے گرامی گنوائے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ علامہ سخاوی نے اپنی مشہور زمانہ تالیف ”القول البدیع فی الصلوٰۃ والسلام علی الحبيب الشفیع“ میں، قاضی ابوالفضل عیاض نے اپنی بیش بہا تالیف ”الشفاء بتعرف حقوق المصطفیٰ“ میں اور امام ابن عربی نے اپنی کتاب ”القبس والاحکام“ میں سرکارِ دو عالم کے چار سو اسماء گنوائے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے رسالہ ”الریاض الانیقۃ“ میں آپ کے پانچ سو نام بتائے ہیں۔

”سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد“ میں جو کہ سیرت شامیہ کے نام سے معروف ہے قاضی ابوبکر بن عربی سے منقول ہے کہ بعض مشائخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے ہزار اسمائے گرامی ہیں اور اسی طرح رسول اللہ کے بھی ہزار اسمائے گرامی ہیں اور شرح ”انموذج البیب“ جو کہ شیخ عبدالرؤف مناوی کی تصنیف ہے میں امام ابن فارس کا قول منقول ہے کہ محبوب رب، شاہِ عرب، پاکیزہ نسب، لائقِ ادب ﷺ کے دو ہزار بیس اسمائے گرامی ہیں۔

انہی علماء میں سے ایک علامہ عبدالباسط بلقینی ہیں جنہوں نے رہبرِ حکمت و آگاہی، رازِ الہی، رحمتِ لامتناہی ﷺ کے اسماء کے بیان میں ایک قصیدہ لکھا اس کتاب کا نام ”اصطفا“ رکھا پھر علامہ نے خود اپنے قصیدے کی شرح ”الوفاء فی شرح الاصطفا“ کے نام سے لکھی اسی طرح علامہ ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر معروف بابن القیم نے عالم پناہ، صاحبِ عزت و جاہ، ذاتِ الہی میں فنا ﷺ کے بہت سے اسماء اپنی کتاب ”زاد المعاد فی ہدی خیر العباد“ میں نقل کیے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر گھڑی اپنے محبوب کریم کی عزت و ناموس کا خود محافظ ہے، حال ہی میں یہود و نصاریٰ نے ایک ناپاک

جسارت کرتے ہوئے، آپ کے ناموں کی توہین کی اور پھر حضور کے ناموں کی مختلف کتابیں شائع ہونا شروع ہو گئیں۔ مسکین کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اسماء پر کام کیا جائے لیکن ”درود تجلیاتِ مصطفائی“ کی تیاری کے دوران مجھے کچھ اسمائے گرامی کی ضرورت پڑی تو ایک بزرگ کی کتاب کے متعلق ان کے عقیدت مندوں سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ فوٹو اسٹیٹ ملے گی اصل نہیں۔ میرے دل میں جذبہ ابھرا کہ کام وہ ہو جو تمام امت کے لیے ہو۔ میں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ ان شاء اللہ پانچ ہزار حضور ﷺ کے نام جمع کروں گا اور اس پر کام شروع کر دیا اور الحمد للہ پانچ ہزار نہیں بلکہ بہتر سو نام جمع کرنے کی سعادت خالق نے ہمیں عطا فرمائی یہ سب اس خالق کی عطا سے ہے وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس سے چاہے کام لے لیتا ہے چھوٹوں سے بڑے کام لے کر یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز کا مالک میں ہی ہوں، جس نے اپنے محبوب کریم ﷺ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب جو شاہِ دنی، شاہِ ہدی، شمس الضحیٰ ﷺ کا ذکر یا درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ اس کے اپنے ذکر کی بلندی ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہ سوچے کہ وہ زینتِ کعبہ، محبوب صحابہ ﷺ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔

اس کو عبدالعزیز دباغ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص احمد نامی، امت کے حامی، رسولِ گرامی ﷺ کے خدمت میں ہدیہ درود بھیجنے کی نیت سے دلائل الخیرات پڑھنا شروع کرتا ہے لیکن اس وقت وہ اس خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس درود سے قاسم باصفا، منبعِ جود و سخا، جنابِ قبلہ نما ﷺ کے لیے جس مقام محمود، وسیلہ اور درجہ رفیعہ کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں یہ سب میرے دعا کے نتیجے میں سرور کونین ﷺ کو حاصل ہوا ہے اور یوں میری وجہ سے قائدِ مرسلان، قرارِ عاشقان، قبلہ زاہدان ﷺ کو بہت نفع ہوگا لہذا وہ جوش میں آکر آواز بلند کر کے زیادہ شوق سے پڑھنے لگتا ہے، اسی وقت اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ درود اس کے دل کی آواز ہے اور اس پر رقت کی کیفیت طاری ہو گئی ہے اور پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کیفیت سے زیادہ عمدہ اور کوئی بھی کیفیت نہیں ہو سکتی حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو اللہ کا قرب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے فاسد گمان کے مطابق اس کیفیت کا تعلق ایک باطل خیال کے ساتھ ہے، کسی بھی باطل شے کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ کیساتھ صرف حق کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے درود شریف پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس باطل سوچ سے بچنے کی کوشش کرے کیونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی بدولت اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رقت خیال کرنے لگ جاتے ہیں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان سید یوم النشور، سر اپانور، حبیبِ غفور ﷺ کی عظمت و شان کا خیال سامنے رکھ کر ہدیہ درود پیش کرے تاکہ ان کے انوار سے فیض یاب ہو سکے البتہ اگر کوئی شخص کسی ذاتی مقصد کے حصول کے لیے درود پڑھتا ہے تو ایسا شخص در حقیقت مجرب ہے اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کمی آجاتی ہے لیکن اگر کوئی درود پڑھتے ہوئے یہ نیت کرے کہ اس سے محبوب رب شاہِ عرب، پاکیزہ نسب، لائقِ ادب ﷺ کو کوئی فائدہ ہوگا تو ایسا درود بارگاہ رب العزت میں قبول ہی نہیں ہوگا (الابریز)

معلوم ہوا کہ سرور کونین، نور الثقلین، جد الحسین ﷺ کے اعمال و افعال، کردار و صفات، خصوصیات اور اسماء، غرض آپ کہ جس پہلو پر بھی کوئی کام کرے اس کا اپنا کمال نہیں۔ اور نہ یہ سمجھے کہ اس سے روح کونین، فاتح بدر حنین ﷺ کی فضیلت

بڑھتی ہے!۔ وہ تو پہلے ہی ”وللا خیرة خیر لک من الاولی“ کے حامل ہیں۔ کام کرنے والے کی اپنی ہی خوش بختی ہے کہ اسے اس کام کے لئے منتخب کر لیا گیا۔

نام جمع کرتے ہوئے سب سے پہلے وہ نام جمع کیے گئے جن کو علماء اور صوفیاء نے قرآن و حدیث سے اخذ کیا، پھر مختلف صوفیاء کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا۔ اس کتاب میں فقیر نے کل اکتالیس (۴۱) منزلیں بنائیں تاکہ قاری پڑھتے ہوئے ان اسماء کو بطور وظیفہ پڑھ سکے۔ پہلی منزل اللہ کے اسماء کی اور باقی خوش رو، خوش گو، خوش خو ﷺ کے اسماء کی منزلیں ہیں اور ہر منزل کے اختتام پر مختلف دعائیں بھی تحریر کی گئی ہیں۔ آخری منزل میں ایک جامع دعا تحریر کی گئی ہے۔ اس طرح اسماء پر جو آج تک کام ہوا اس میں یہ ایک منفرد اور انوکھا کام ہے۔ ہر اسم کے شروع اور آخر میں درود و سلام تحریر کیا گیا ہے اور ہر منزل میں درود و سلام نئے انداز سے تحریر کیا گیا ہے۔ آخر میں مولانا علی مشکطی کے احادیث سے اخذ شدہ نام تحریر کیے گئے ہیں۔ اور ہر منزل کی کتابت کا انداز بھی جدا جدا ہے۔

تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ جس وقت یہ اسماء تحریر کیے جا رہے تھے اور میرے ساتھ ایک مصطفائی ساتھی اسماء تحریر کر رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ رات کو جب میں اسماء تحریر کرتے ہوئے آستانہ عالیہ پر سو گیا، تو کیا دیکھا ہوں کہ میرے سر کے پاس (آستانہ عالیہ شریف میں) دو جہاں کے تاجدار، شفیع روز شمار، بے کسوں کے حامی و مددگار ﷺ تشریف فرما ہیں۔ اور آواز آئی کہ تو نے آج کوئی اسم پڑھا جس کی برکت سے حضور جلوہ گر ہوئے ہیں۔ مصطفائی ساتھی نے بتایا کہ میں نے رونقِ دو عالم، رسولِ اُمم، روحِ اعظم ﷺ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے آپ (تنویر المصطفیٰ) کو دیکھا کہ آپ بھی حضور سرورِ کائنات رحمتِ کائنات، جانِ کائنات کے پاس تسبیح پکڑے کچھ پڑھ رہے ہیں اور میری آنکھ کھل گئی سامنے دیکھا تو آپ (تنویر المصطفیٰ) کو میں نے دیکھا کہ آپ اسی مقام پر بیٹھے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔

بعض محدثین نے لکھا ہے کہ شرکاء بدر کے نام جو بخاری میں ہیں، پڑھنے کے بعد قبولیت دعا مجرب ہے۔ نیز حافظ سخاوی نے ”شرح النبیہ“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے سات فقہاء، جو اولیاء اللہ تھے، کے نام بڑے مبارک ہیں۔ کاغذ پر لکھ کر گندم وغیرہ کھانے پینے کی چیزوں میں رکھنے سے ان میں بڑی برکت ہوگی، نیز ہر آفت ظاہری سے محفوظ ہوں گے، پاس رکھے تو امان ہوگی۔ اسی طرح اسمائے اصحاب کہف کے فوائد مشہور ہیں۔ ہر مطلب کا حصول، بھاگے ہوئے کی واپسی، آگ لگی ہوئی ہو تو اس میں ڈالنے سے وہ بجھ جائے گی یا کم ہو جائی گی، بچے کا رونا، کھیت کی آبادی اور حفاظت، بخار، درد سر، غنا، ترقی، درد زہ کی آسانی، حفاظت مال وغیرہ وغیرہ مقاصد میں نہایت مفید ہیں۔ پس جب صحابہ اور بعض اولیاء اللہ کے ناموں کی اتنی برکات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہیں تو سید الاولین والآخرین ﷺ کے اسماء کی برکتیں بے شک حساب سے باہر ہوں گی اور قضاے حاجات و قبولیت دعا کے لیے اکسیر ہوں گے۔

اسماء پڑھنے کے فوائد

۱۔ ہر قسم کی بیماری سے شفا ۲۔ مقدمات میں فتح ۳۔ دشمنوں کے شر سے حفاظت ۴۔ ملازمت میں ترقی ۵۔ افسران بالا سخر

۶۔ ماتحت عملہ تابع ۷۔ تجارت میں ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو کر بڑا نفع ہوگا ۸۔ میاں بیوی میں محبت بیوی پڑھے تو خاوند تابع ہوگا اور خاوند پڑھے تو بیوی فرمانبردار ہوگی ۹۔ سفر بخیر ہو ۱۰۔ طالب علم کا ذہن تیز و حافظہ بڑھے گا ۱۱۔ نیک اعمال کی توفیق ملے گی ۱۲۔ دلوں کی تسخیر کے لیے بہت مفید ہوگا ۱۳۔ غیر شادی شدہ کی جلد شادی ہوگی ۱۴۔ رزق میں فراخی اور جادو سے بند کیا ہوا کاروبار پہلے سے زیادہ چلے گا ۱۵۔ جنات و سحر کا اثر دور ہوگا ۱۶۔ بے اولاد عقیمہ عورت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرما دیں گے ۱۷۔ گمشدہ چیز مل جائے گی گھر سے بھاگا ہوا شخص جلد واپس آجائے گا ۱۸۔ جس کے بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں تو وہ ان شاء اللہ زندہ رہیں گے ۱۹۔ امتحان میں کامیابی ہوگی ۲۰۔ دلوں کا وسوسہ اور بے اطمینانی دور ہو جائے گی ۲۱۔ استحصار قلب سے بار بار پڑھے تو نبی ﷺ کی محبت دل میں بڑھے گی اور خواب میں آپ ﷺ کی زیارت ہوگی (مزید پوچھنے یا اجازت کے لیے مؤلف سے رابطہ کریں)۔

میں سب سے پہلے پیر طریقت ڈاکٹر شاہ احمد کمال صاحب (آستانہ عالیہ طوری شریف ایبٹ آباد) اور اپنے دیگر روحانی اساتذہ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے دعاؤں سے نوازا۔ سید عظمت علی شاہ گیلانی صاحب اور استاد محترم علامہ سید صابر حسین شاہ صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اس کتاب کی تیاری میں سب سے زیادہ کام وحید مصطفائی نے کیا علامہ مفتی علی مصطفائی قادری نے بھی کافی کام کیا اس کے علاوہ بلال مصطفائی اور کامران مصطفائی نے کام کیا اور کمپیوٹر کا کام وقاص احمد مصطفائی نے کیا۔ حکیم محمد اقبال ہاشمی صاحب نے بڑی محنت سے اس کی کتابت کی اور مختلف ساتھیوں نے اسکی چھپائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں میں حضور سرور کائنات ﷺ کے دامن میں جگہ عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین) فقیر فن تصنیف سے نابلد اور نا آشنا ہے۔ مگر صوفیاء نے فرمایا کبھی یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ جب آپ بازار دودھ لینے جاتے ہیں تو آپ کی نظر کالی سیاہ کڑا ہی پر نہیں ہوتی بلکہ دودھ پر ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسماء مبارک کے صدقے مجھے، میرے والدین، اہل خانہ، عزیز واقرباء، تمام مصطفائی قادری ساتھیوں اور کل امتِ مصطفیٰ ﷺ کو حضور ﷺ کی محبت و اتباع عطا فرمائے اور محشر میں اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کے غلاموں میں اٹھائے۔ آمین

آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ میری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر میرے ٹوٹے پھوٹے کام کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور بارگاہ رسالت ﷺ کی مجلس خاص میں میرا نام شامل فرمائے۔

فقیر بے نوا، حقیر بتلا


امیر نفس امارہ، سگ غوث الورا

تنویر المصطفیٰ قادری اویسی

آستانہ عالیہ مصطفائیہ قادریہ اویسیہ

0300-6201586

0321-6217586



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدٌ يَا حَمِيدٌ يَا كَرِيمٌ يَا قُدُّوسٌ يَا ذِي الْجَلَالِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَجْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْعَابِرِينَ وَإِلَيْهِ وَسَّأَلُهُ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَثَرًا لِكُلِّ مَكْرُومٍ الْمَقْرَبِ
عِنْدَكَ يَوْمَ النَّبِيِّكَامَةِ

يَا اَلَكُّمُ

يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

اے اللہ اے رحمن اے رحیم

يَا قَادِرُ

يَا مُقْتَدِرُ

اے صاحب قدرت
اے مالک اقتدار

يَا اَلْسَمُ

يَا اَعْلَى

اے عزت و کرامت والے
اے بہت بلند مراتب والے

يَا صَعْدُ

اے بے نیاز

يَا رَبُّ

اے پالنے والے

يَا بَاعِثُ

يَا شَلِيحُ

اے مردوں کو اٹھانے والے
اے مشاہدہ کرنے والے

يَا مُصَيِّبُ

يَا مُبْدِي

اے شمار کرنے والے
اے آغاز کرنے والے

يَا حَمِيدُ يَا حَمِيدُ

اے حمد و ثناء کے لائق
اے بزرگی والے

يَا وَّاسِعُ

يَا حَكِيمُ

اے حکمت و دانائی والے
اے ہر شے کا احاطہ کرنے والے

يَا كَرِيمُ

يَا رَقِيبُ

اے صاحبِ جود و کرم
اے نگہبانی کرنے والے

يَا مَقِيدُ يَا حَسِيبُ

اے روزی مہیا کرنے والے
اے حساب لینے والے

يَا عَلِيُّ

يَا كَبِيرُ

اے بلند شان والے
اے کبریائی والے

يَا وَدُودُ

يَا مُجِيبُ

اے محبت کرنے والے
اے دعائیں قبول فرمانے والے

يَا خَبِيرُ يَا حَلِيمُ

اے سب کی خبر رکھنے والے
اے علم والے

يَا جَبِيلُ يَا حَفِيفُ

اے بزرگی کے مالک
اے حفاظت فرمانے والے

يَا غَفُورٌ يَا شَكُورٌ

اے بہت زیادہ بخشش فرماتے والے
اے شکر کی جزا دینے والے

يَا عَظِيمٌ
يَا لَطِيفٌ

اے عظمت سے مالک
اے مخلوق کی نگاہوں سے بالاتر

يَا ذَا الطَّوَلِ
يَا ذَا الْقُوَّةِ

اے قوت والے
اے قوت و طاقت والے

يَا ذَا الْفَضْلِ

اے فضل والے اے کرم والے

يَا حَنَّانٌ
يَا مَنَّانٌ

اے مہربان کرنے والے
اے احسان کرنے والے

يَا مُؤْمِنٌ
يَا مُهَيِّمٌ

اے ایمان دینے والے
اے نگہبان

يَا مُعْتَدِلٌ

اے لوٹانے والے اے حیات بخشنے والے اے ماریں والے

يَا عَزِيزٌ
يَا مُجِيبٌ

اے غالب اے فریاد رس

يَا بَارِئٌ
يَا مُصَوِّرٌ

اے متناسبات ساز میں پیدا کرنے والا
اے مختلف صورتوں کے اشکال میں ڈھلانے والے

يَا وَهَّابٌ يَا خَالِقٌ

اے بغیر عوض کے نعمتیں بخشنے والے
اے وجود بخشنے والے

يَا غَفَّارٌ
يَا قَهَّارٌ

اے بخشنے والے
اے قہر و جلال والے

يَا رِزَّاقٌ
يَا فَتَّاحٌ

اے بہت زیادہ روزی سال دینے والے
اے مشکلات حل کرنے والے

يَا عَلِيمٌ يَا عَلَّامٌ

اے علم والے
اے بہت زیادہ علم رکھنے والے، اے غالب

يَا رَازِقٌ يَا عَلِيمٌ

اے رزق دینے والے اے علم والے

يَا سَلَامُ يَا غَالِبُ

اے سرسرامتی والے اے غالب

يَا حَكِيمُ

يَا عَدْلُ

اے عدل فرمانے والے اے حکم نافذ کرنے والے

يَا مَالِكُ

يَا قَلْبُوسُ

اے بادشاہ اے پاکیزہ

يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ

اے لبتی میں گرانیوالے اے بلندی پر لہجانیوالے

يَا جَبَّارُ

يَا مُنْكَبِرُ

اے بڑائی کے ظاہر کرنے والے اے جبار

يَا مُهَيَّبُ

يَا مُدَبِّرُ

اے عزت دینے والے اے فخر منڈت میں گرانیوالے

يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ

اے رزق میں کمی کرنے والے اے کشادگی اور فراخی کے مالک

يَا كَاغِبُ

يَا مُنْبِرُ

اے کفایت کرنے والے اے نورانی بنانے والے

يَا مُلْكُ

يَا مُوَلِّي

اے سب کا احاطہ کرنے والے اے محبوب

يَا قَاهِرُ يَا كَفِيْلُ

اے قہر والے اے کفالت فرمانے والے

يَا نَاطِقُ

يَا فَارِقُ

اے دیکھنے والے اے جدا کرنے والے

يَا قَدِيرُ

يَا مُعِيبُ

اے دائمی قدرت والے اے سب سے نزدیک

يَا حَقُّ يَا وَكِيلُ

اے موجود حقیقی اے کارساز حقیقی

يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ

اے ہر ایک کی سننے والے اے سب کو دیکھنے والے

يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ

اے اکیلے اے یکتا ﷺ

يَا حَيُّ
يَا قَيُّوْمُ

اے دو دروں کو قائم و برپا رکھنے والے ﷺ
اے بزارت خود زندہ

يَا وَاحِدُ
يَا مَا جِدُ

اے ذاتی وجود والے
اے صاحب مجد

يَا مُقَدِّمُ يَا مُؤَخِّرُ

اے آگے بڑھانے والے، اے پیچھے ہٹانے والے ﷺ

يَا وَارِثُ
يَا رَثِيْدُ

اے وارث، اے سیدھی راہ والے ﷺ

يَا صَبِيْرُ
يَا صَادِقُ

اے بہت زیادہ جسم اور صبر والے
اے سچائی والے

يَا نُورُ يَا لَيْلُ

اے نور والے، اے ہدایت دینے والے ﷺ

يَا ظَاهِرُ
يَا بَاطِنُ

اے ظاہر، اے باطن ﷺ

يَا بَدِيْعُ
يَا بَاقِي

اے آؤسی ایجادوں والے
اے ہمیشہ رہنے والے

يَا ضَرَّعُ يَا نَافِعُ

اے ضرر و نقصان کے مالک
اے فائدہ و منفعت پہنچانے والے ﷺ

يَا غَنِيُّ
يَا مُغْنِيُّ

اے مستغنی اور
بے پرواہ، اے بے پرواہ کرنے والے ﷺ

يَا مُعْطِي
يَا مَانِعُ

اے عطا کرنے والے
اے روکنے والے

يَا بَرُّ يَا تَوَّابُ

اے نیکی کی بہت توفیق دینے والے، اے توبہ کی بہت توفیق دینے والے ﷺ

يَا مُقْسِطُ يَا جَامِعُ

اے عدل کرنے والے، اے جمع کرنے والے ﷺ

يَا مُنْعِمُ يَا مُنْتَقِمُ

ﷻ

اے نعمتیں عطا کرنے والے
اے انتقام و بدلہ لینے والے

يَا وَالِي
يَا مُتَعَالِي

اے مالک اے بلند مرتبت
ﷻ

يَا عَفُو
يَا رُءُوفٌ

اے عفو و درگزر کرنے والے
اے رافت و رحمت فرمایوں والے
ﷻ

يَا شَاكِرٌ يَا عَادِلٌ

ﷻ

اے جزائے شکر دینے والے اے عدل والے

يَا سَائِرٌ
يَا سَاتِرٌ

اے بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والے
اے پردہ پوشی کرنے والے
ﷻ

يَا اَوَّلٌ
يَا اٰخِرٌ

اے سب سے پہلے موجود
اے سب سے بعد میں موجود
ﷻ

يَا قَوِيٌّ

يَا مَتِينٌ يَا وَلِيٌّ

ﷻ

اے قوت کے مالک اے شدید قوت والے اے ناصر و مددگار

يَا عَفَّارٌ
الدُّنُوبِ

اے گناہوں کو بخشنے والے
ﷻ

يَا حَافِظٌ
يَا خَلَّاقٌ

اے حفاظت فرمانے والے
اے بہت زیادہ پسند فرمایوں والے
ﷻ

يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ﷻ

اے فضلِ عظیم کے مالک

يَا غَالِبٌ
غَيْرُ مُغْلَبٍ

اے زبردست غالب
ﷻ

يَا بَدِيعُ
يَا بَدِيعُ

اے بدو والے اے بنائوں والے
ﷻ

يَا مُنْتَهَى كُلِّ رَعْبَةٍ

ﷻ

اے ہر چاہت کی انتہا

يَا ذَا الْعِزَّةِ السَّامِيَةِ
وَالْقُدْرَةِ الْكَافِيَةِ

ﷻ

اے بے پایاں عزت اور واقف قدرت والے

يَا بَاسِطَ ظُلْمِ الْيَدَيْنِ بِالسَّحْمَةِ

اے رحمت بھر پور کشادہ (قدرت) ہاتھوں والے ﷺ

يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَبِيرِ

اے بڑی کھوپڑی والے

يَا جَلِيلَ الْعِلْمِ

اے جلد بازی نہ کرنے والے عظیم

يَا مَنْ أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

اے وہ ذات جس کی شان ہے کہ جس کا ارادہ کرے کن کہے تو وہ ہو جائے

يَا دَاعِيَ الْمَعْرُوفِ

اے ہمیشہ نیکی والے

يَا مُقَدِّرَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ

اے والد اور والدین کو مقدر کرنے والے

يَا فَالِقَ الْكَبِّ وَالنَّوَى

اے دانے اور گٹھلی کے اگلنے والے

يَا مُرْسِلَ النَّافِقَةِ

اے اونٹنی بھیجنے والے

يَا مُبَشِّرِ الْمَبْرُورِ

اے پیدا کرنے والے اے غاب

يَا رَبَّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

اے زمین و آسمانوں کے رب

يَا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ

اے بہترین کھولنے والے

يَا فَالِقَ الْأَمْبَاجِ

اے صبح کو کھولنے والے

يَا بَاقِيَ بَعْدَ الْخَلْقِ

اے مخلوق کی فنا کے بعد بھی بقا والے

يَا كَافِلَ يَامُسْتَعَانَ

اے کفیل و مددگار

يَا مَنْ أَمْرُهُ
بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ

اے وہ ذات جس کا حکم کافر اور نون (کن) کے درمیان ہے

يَا مَنْ سَأَرَ
الْقَبِيحِ

اے قباحت کو چھپانے والے

يَا رَبَّ
الْأَرْبَابِ

اے پالنے والوں کے پالنے والے

يَا زَعْوَةَ الْمَوْلَى

اے بہتر مولیٰ اے بہترین مددگار

يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ

اے دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے

يَا وَاسِعَ
الْمَغْفِرِ

اے وسیع مغفرت والے

يَا عَالِمَ مَا فِي النُّفُوسِ

اے جو کچھ نفسوں میں ہے اس کو جاننے والے

يَا عَلَّامَ
الْغُيُوبِ

اے غیبوں کو جاننے والے

يَا كَاتِبَ
الْيَقِينِ

اے ہر مصیبت کو دور کرنے والے

يَا عَلِيمَ مَا فِي الْقُلُوبِ

اے جو کچھ دلوں میں ہے اس کو جاننے والے

يَا شَرِيفَ

اے شفاء دینے والے

يَا دَائِمَ
الْبَيْتِ

اے خوبصورت مہربانی والے

يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ

اے پریشان حالوں کی دعا قبول کرنے والے

يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْكَرِيَاءِ

اے کبریائی و عظمت والے ﷺ

يَا حَيُّ لَا يَمُوتُ

اے ہمیشہ زندہ رہنے والے ﷺ

يَا قَرُّمَ

اے کتا ﷺ

يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

اے وہ ذات جس کی مثل کوئی چیز نہیں ﷺ

يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ

اے بہترین بخشنے والے ﷺ

يَا بَدِيَّ

اے اچھی عاقبول کرنے والے ﷺ

يَا مَنْ رَحِمْتَهُ

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

اے وہ ذات جس کی رحمت ہر شے پر محیط ہے ﷺ

يَا أُولَى الْأَكْرَامَةِ

اے بزرگی والے ﷺ

يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ

اے وہ ذات جس کے اسماء خوب صورت ہیں ﷺ

يَا مَنْ لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلَا

اے وہ ذات جسکی صفات بلند ہیں ﷺ

يَا مَسْبَبَ الْأَسْبَابِ

اے اسباب ہینا کرنے والے ﷺ

يَا مَنْ مَنَعَ كُلَّ مَصْنُوعٍ

اے ہر چیز کو بنانے والے ﷺ

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ

اے اس دن لوگوں کو جمع کرنے والے جس میں شک نہیں ہے۔ ﷺ

يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اے زمین و آسمان کو بنانے والے

يَا جَبِيْلَ الْفِعَالِ

اے خوب صورت کاموں والے

يَا مَلِكَ يَوْمِ الدِّينِ

اے قیامت کے دن کے مالک

يَا مُوْجُوْدٌ عِنْدَ الشَّدَائِدِ

اے شدتوں کے وقت موجود

يَا عَالِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اے راز اور پوشیدگی کو جا والے

يَا عَظِيْمَ السُّلْطَانِ

اے عظیم بادشاہ (علیہ السلام) کے بادشاہت والے

يَا عَالِمَ مَا فِي الْأَرْضِ حِزِّ السَّمَاءِ

اے زمین و آسمان میں ہر چیز کو جاننے والے

يَا سَمِيْعَ الْحِسَابِ

اے حساب کو جلدی لینے والے

يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ

اے مضبوط طاقت والے

يَا ذَا الْمَعْرُوفِ

الَّذِي لَا يَنْقُصُ طَعْمُ أَبَدًا

اے وہ کہ جس کی نیکی کبھی نہیں رکتی

يَا مَنْ لَا يُوَاخِذُ بِالْجُرِيْمَةِ

اے وہ ذات جو گناہ پر مواخذہ نہیں فرماتی

يَا مَنْ يَأْتِي بِالنُّجُومِ

اے وہ جس کو ظاہر کرے نیا

يَا رَبَّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ

اے لوگوں کے رب لوگوں کے مالک لوگوں کے معبود

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ الَّذِي لَا يُكَافَى أَمْتِنَانَهُ وَالطَّوِيلِ
 الَّذِي لَا يُجَازَى انْعَامُهُ وَإِحْسَانُهُ نَسْئَلُكَ بِكَ وَلَا نَسْئَلُكَ
 بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَنْ تُطَلِّقَ أَسْنِنَتَنَا عِنْدَ السُّؤَالِ وَتُوفِّقَنَا
 لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَتَجْعَلَنَا مِنَ الْأَمْنِيِّينَ يَوْمَ الرَّجْفِ
 وَالزَّلَازِلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ ۝ أَسْئَلُكَ يَا نُورَ النُّورِ
 قَبْلَ الْأَزْمِنَةِ وَالذُّهُورِ ۝ أَنْتَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ الْغَنِيُّ
 بِلَا مِثَالٍ الْقُدُّوسُ الطَّاهِرُ الْحَكِيمُ الْقَاهِرُ الَّذِي
 لَا يُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ ۝ أَسْئَلُكَ
 بِأَسْمَائِكَ الْحَسَنِي كُلِّهَا وَبِأَعْظَمِ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ
 وَأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَأَجْزَلِهَا عِنْدَكَ ثَوَابًا وَأَسْرَعَهَا
 مِنْكَ إِحَابَةً وَيَأْسُكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْجَبِيلِ
 تَحِبُّهُ وَتَرْضَى عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ
 دُعَاءَهُ ۝ أَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِرَبِّكَ يَا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوِيلِ
 الَّذِي لَا يُجَازَى انْعَامُهُ وَإِحْسَانُهُ نَسْئَلُكَ بِكَ وَلَا نَسْئَلُكَ
 بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَنْ تُطَلِّقَ أَسْنِنَتَنَا عِنْدَ السُّؤَالِ وَتُوفِّقَنَا
 لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَتَجْعَلَنَا مِنَ الْأَمْنِيِّينَ يَوْمَ الرَّجْفِ
 وَالزَّلَازِلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ ۝ أَسْئَلُكَ يَا نُورَ النُّورِ
 قَبْلَ الْأَزْمِنَةِ وَالذُّهُورِ ۝ أَنْتَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ الْغَنِيُّ
 بِلَا مِثَالٍ الْقُدُّوسُ الطَّاهِرُ الْحَكِيمُ الْقَاهِرُ الَّذِي
 لَا يُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ ۝ أَسْئَلُكَ
 بِأَسْمَائِكَ الْحَسَنِي كُلِّهَا وَبِأَعْظَمِ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ
 وَأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَأَجْزَلِهَا عِنْدَكَ ثَوَابًا وَأَسْرَعَهَا
 مِنْكَ إِحَابَةً وَيَأْسُكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْجَبِيلِ
 تَحِبُّهُ وَتَرْضَى عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ
 دُعَاءَهُ ۝ أَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِرَبِّكَ يَا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوِيلِ
 الَّذِي لَا يُجَازَى انْعَامُهُ وَإِحْسَانُهُ نَسْئَلُكَ بِكَ وَلَا نَسْئَلُكَ
 بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَنْ تُطَلِّقَ أَسْنِنَتَنَا عِنْدَ السُّؤَالِ وَتُوفِّقَنَا
 لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَتَجْعَلَنَا مِنَ الْأَمْنِيِّينَ يَوْمَ الرَّجْفِ
 وَالزَّلَازِلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ ۝ أَسْئَلُكَ يَا نُورَ النُّورِ
 قَبْلَ الْأَزْمِنَةِ وَالذُّهُورِ ۝ أَنْتَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ الْغَنِيُّ
 بِلَا مِثَالٍ الْقُدُّوسُ الطَّاهِرُ الْحَكِيمُ الْقَاهِرُ الَّذِي
 لَا يُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ ۝ أَسْئَلُكَ
 بِأَسْمَائِكَ الْحَسَنِي كُلِّهَا وَبِأَعْظَمِ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ
 وَأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَأَجْزَلِهَا عِنْدَكَ ثَوَابًا وَأَسْرَعَهَا
 مِنْكَ إِحَابَةً وَيَأْسُكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْجَبِيلِ
 تَحِبُّهُ وَتَرْضَى عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ
 دُعَاءَهُ ۝

الْمَنَانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 بہت مہربان بڑا احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، بزرگی اور بخشش والا
اسْتَجِبْ دَعْوَتِي يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَبْرُوتُ يَا ذَا الْمُلْكِ
 اے اللہ! اے رب! میری دعا قبول فرما اے وہ ذات جس کے لئے عزت اور سلطنت ہے اے ملک اور ملکوت
وَالْمَلَكُوتِ يَا مَنْ لَهُ وَحْيٌ لَا يَمُوتُ سُبْحَانَكَ رَبِّ مَا عَظَمَ
 کے مالک اے وہ کہ زندہ ہے اور اے موت نہیں، اے رب! تو پاک ہے تیری شان کتنی
شَانِكَ وَأَرْفَعُ مَكَانَكَ أَنْتَ رَبِّي يَا مُتَّقِدًا سَافِي جَبْرُوتِهِ إِلَيْكَ
 عظیم ہے، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے، تو میرا رب ہے اے وہ ذات کہ اپنی صفات میں پاک ہے میں تیری طرف
ارْتَعِبُ وَإِيَّاكَ ارْتَهَبُ يَا عَظِيمُ يَا كَبِيرُ يَا جَبَّارُ يَا قَادِرُ يَا قَوِيُّ تَبَارَكْتَ
 ہی رغبت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے ڈرتا ہوں، اے بزرگ و بڑبڑ، اے جبار، اے قدرت اور قوت والے! تو بارگاہ
يَا عَظِيمُ تَعَالَيْتَ يَا عَلِيُّ سُبْحَانَكَ يَا عَظِيمُ سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ
 ہے اے عظیم تو بلند ہے اے علم والے تو پاک ہے اے عظیم تو پاک ہے اے جلالت والے
أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ التَّامِّ الْكَبِيرِ أَنْ لَا تَسْلُطَ عَلَيْنَا
 میں تجھ سے تیرے عظیم، کامل اور بڑے نام کے دیکھے دعا کرتا ہوں کہ تو ہم پر مسلط نہ فرما کسی
جَبَّارًا عَيْدًا أَوْ لَا شَيْطَانًا مَرِيدًا أَوْ لَا إِنْسَانًا حَسُودًا أَوْ لَا ضَعِيفًا
 جابر جھگڑالو کو اور نہ کسی شیطان سرکش کو نہ ہی کسی حسود والے انسان کو نہ اپنی مخلوق میں سے کسی
مِّنْ خَلْقِكَ وَلَا شَدِيدًا وَلَا بَارًّا أَوْ لَا فَاجِرًا أَوْ لَا عَيْدًا أَوْ لَا عَيْدًا ۝ اللَّهُمَّ
 ضعیف کو اور کسی سخت کو، نہ کسی نیک اور نہ کسی بدکار کو، نہ کسی غلام اور نہ کسی بد مزاج کو، اے اللہ!

إِنِّي أَسْأَلُكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ
 میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی معبود برحق ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یکتا ہے
الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا
 ایک ہے بلے بنا کر ہے جس نے نہ کسی کو جنا، نہ کسی نے اس کو جو جنا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اے
هُوَ يَا مَنْ لَا هَوْلَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا زَلِيَّ يَا أَبَدِيَّ يَا دَاهِرِيَّ
 وہ ذات جس کی طرف لفظ ہوسے اشارہ کیا جائے اے وہ کہ کوئی ایسا نہیں مگر وہی، اے وہ کہ
يَا دِيمُومِيَّ يَا مَنْ لَهُ وَحْيٌ لَا يَمُوتُ يَا الْهَنَّاءُ وَاللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ
 کوئی معبود نہیں مگر وہی، اے بے ابتدا! اے بے انتہا! اے ہمیشہ قائم، اے دائم اے وہ زندہ جسے
إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قُلُوبُ الْخَلَائِقِ
 موت نہیں اے ہمارے معبود اور ہر شے کے معبود، یکتا معبود، کوئی معبود نہیں مگر تو۔ تمام مخلوقات کے دل

بِيَدِكَ تَوَاصِيهِمْ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَزْرَعُ الْخَيْرَ فِي قُلُوبِهِمْ وَتَمْحُو

تیرے ہاتھ میں ہیں۔ ان کی چوٹیاں تیرے قبضے میں ہیں تو ان کے دلوں میں نیکی کاشت کرتا ہے اور جب

الشَّرَّ إِذَا أَشْتَتَ مِنْهُمْ ۝ فَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَمْحُو مِنْ

چاہتا ہے ان سے شر کو مٹا دیتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے دل

قَلْبِي كُلَّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ وَأَنْ تَمْحُو قَلْبِي خَشِيَّتِكَ وَمَعْرِفَتِكَ

میں ہر اس چیز کو مٹا دے جسے تو ناپسند فرماتا ہے اور میرے دل میں اپنا خوف اپنی معرفت،

رَهْبَتِكَ وَالرَّعْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْأَمْنَ وَالْعَافِيَةَ وَأَعْطِفْ عَلَيْنَا

اپنی ہیبت اپنی رضا کا شوق اور امن دے ماییت بھرنے ہم پر اپنی رحمت

بِالرَّحْمَةِ وَالْبُرْكَهَ مِنْكَ وَاللِّسْنَا الصَّوَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝ فَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ

اور برکت سے نہرہائی فرما اور ہمارے دل میں صواب اور حکمت ڈال دے اے اللہ! ہم تجھ سے

عَلَى الْخَائِفِينَ وَأَنَابَةَ الْمُخْبِتِينَ وَإِخْلَاصَ الْمُؤَقِنِينَ وَشُكْرَ

ڈرنے والوں کا عزم، عجز و انکسار والوں کا رجوع، یقین والوں کا اعلاص، صبر کرنے والوں کا شکر اور

الصَّابِرِينَ وَتَوْبَةَ الصِّدِّيقِينَ ۝ وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ نُورَ وَجْهِكَ

صدیقین کی توبہ کا سوال کرتے ہیں۔ اور اے اللہ! ہم تیری ذات اقدس کے نور

الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى أَعْرِفَكَ

کے طفیل سوال کرتے ہیں جس نے تیرے عرش کے گوشوں کو بھر دیا کہ میرے دل میں اپنی معرفت کا پودا لگاتا کہ میں تجھے پہچان سکوں

حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يُبْغِي أَنْ تَعْرِفَ بِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى

جیسے تیری معرفت کا حق ہے اور جیسے کہ تجھے پہچانا چاہیے، اللہ تعالیٰ! ہمارے آقا حضرت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

محمد مصطفیٰ ﷺ نبیوں کے ختم کرنے والے، مرسلین کے امام اور ان کی آل اور

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ان کے اصحاب پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَوْلَانِي وَأَرْحَمِهِ وَأَجْعَلْهُ مِنَ الْمُحْشَرِينَ

اے اللہ! اس کتاب کے مولف کو بخش دے اس پر رحم فرما، اور اسے ان لوگوں میں سے بنا جنہیں اٹھایا

فِي زَمْرَةِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

جائے گا گروہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں، اپنے فضل

بِفَضْلِكَ يَا رَحْمَنُ ۝

سے اے بہت ہی رحم فرمانے والے۔

دوسری منزل

اللهم صل على محمد وآل محمد وسامعاً وبارئاً غفوراً رحيماً
من مغفرة واحدة عظيمة

سرور کونین ﷺ نے فرمایا! اے ابوہریرہؓ! اپنے سے بڑے اور اپنے سے
چھوٹے اچھے اور برے کی تکلیف برداشت کر۔ پس اگر تو ایسا ہوگا تو اللہ
تعالیٰ تجھ سے فرشتوں پر فخر کرے گا۔ اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ
فرشتوں پر فخر کرے گا وہ بروز قیامت ہر تکلیف سے امن اور سلامتی میں ہوگا۔

کعبہ کے بدر الدہی تم پہ کروں درود
طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيدُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَقَطَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَقَطَرَاتِ دُمُوعِ
الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَالْأَهْلِ وَسْكَتِهِ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ الْمَكْتُوبِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	مَحَمَّدٌ	بے شمار اور بار بار تعریف کیے گئے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	النَّبَاءِ	عظیم خبر	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	الضِّيَاءِ	روشنی	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	الْمِعْطَاءِ	بہت عطا کرنے والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	الْبَهَاءِ	مُعَزِّز	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	الشِّفَاءِ	مکمل شفاء	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	الدَّعَاءِ	بہت عطا کرنے والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	الْحُجْبَاءِ	پناہ لینے کی جگہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	الْمُبْرَأِ	گناہوں سے بری (پاک)	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	الْقَارِي	قرآن پاک پڑھنے والا	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	الْمُرْدِ	صامت	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	السَّيِّدِ	شریف النفس لوگوں کے سردار	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	الْبَدْعِ	مدر مجلس	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ	حَبْلِ عَتَمِ الْاَنْبِيَاءِ	انبیاء کے تمسک کے قابل مضبوط رسی
اللہ تعالیٰ	خَالِصِ وَدِّ الْاَنْبِيَاءِ	انبیاء کی محبت کا خلاصہ
اللہ تعالیٰ	رَأْسِ مَشْرَبِ الْاَنْبِيَاءِ	انبیاء کے مشرب کا اصل
اللہ تعالیٰ	سَيِّدِ الْفَصَحَاءِ	فصحاء کے سردار
اللہ تعالیٰ	سَيِّدِ الرَّؤَسَاءِ	سرداروں کے سردار
اللہ تعالیٰ	السَّيِّدِ الْغُرَبَاءِ	غرباء کے سردار
اللہ تعالیٰ	السَّيِّدِ الْقُرَبَاءِ	قریبوں کے سردار
اللہ تعالیٰ	السَّيِّدِ الشُّهَدَاءِ	شہداء کے سردار
اللہ تعالیٰ	السَّيِّدِ الْفُقَرَاءِ	فقراء کے سردار
اللہ تعالیٰ	السَّيِّدِ الْخُفَرَاءِ	کامیاب ہونہوالوں کے سردار
اللہ تعالیٰ	السَّيِّدِ الْكِبَرَاءِ	بزرگوں کے سردار
اللہ تعالیٰ	السَّيِّدِ الشُّفَعَاءِ	شفیعوں کے سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	عَيْنِ كَتَيْبَةِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے شکر و تحکیم کے
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	مِثْلَةِ مَوْصُولِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی پیوستگی کا ذریعہ اصل
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	وَسِيلَةِ مَوْصُولِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے وصول کا وسیلہ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدِ الْأَسْخِيَاءِ	اسخیا کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدِ الْأَصْفِيَاءِ	اصفیاء کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدِ الشُّرَفَاءِ	شرفاء کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدِ الْخُلَفَاءِ	خلفاء کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدِ لِعِتْقَاءِ	آزاد مردوں کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	الْفُضَيِّلَاءِ	فضلاء کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدِ الْكِرْمَاءِ	کرماء کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ	اولیاء کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدِ النُّجَبَاءِ	نجباء کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدِ الْحُكَمَاءِ	حکماء کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدِ الرُّحَمَاءِ	رحیموں کے سردار
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	الرُّسُلِ الْأَكْبَرِ	اعلیٰ سردار

اللہم صل علی	مَبْلَغُ شَيْوْنِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے اوصاف کا منتہا	اللہم صل علی
اللہم صل علی	أَنْسِ أَنْسِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے لیے انس کا موجب	اللہم صل علی
اللہم صل علی	ذُرْفَةٌ سَنَامِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی بلندیوں کی غایت	اللہم صل علی
اللہم صل علی	مُشْرَعٌ شَرَعَ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے شرائع کی گھاٹ	اللہم صل علی
اللہم صل علی	وَأَسِطْرَةٌ قَلَادَةِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے ہار کا درمیانی قیمتی جوہر	اللہم صل علی
اللہم صل علی	رَفْرَفٌ الْأَصْطَفَاءِ	برگزیدگی کے رشف	اللہم صل علی
اللہم صل علی	السَّيِّدِ الْأَسْنَاءِ	رشن و نوزانی لوگوں کے سردار	اللہم صل علی
اللہم صل علی	الْفَسَيْدِ الْقَهَاءِ	فقہاء کے سردار	اللہم صل علی
اللہم صل علی	الْحُطْبِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ	خطباء کے سردار	اللہم صل علی
اللہم صل علی	ذَرِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی دوا	اللہم صل علی
اللہم صل علی	مُقَدِّمِ الْأَمْرَاءِ	حکومتِ لایت میں بہت اہم قوموں کے	اللہم صل علی
اللہم صل علی	عَوْنِ الْفُقَرَاءِ	فقیروں کے مددگار	اللہم صل علی
اللہم صل علی	سِدْرَةِ الْإِنْتِهَاءِ	حد و انتہا کے سدھ	اللہم صل علی
اللہم صل علی	مَحَلِّ الرَّجَاءِ	امید کے محل	اللہم صل علی
اللہم صل علی	مَوْلَى الْوَلَاءِ	محبت کے آقا	اللہم صل علی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	بَيْتِ قَصِيدَةِ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کے قصیدہ کا بیت	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	مُهَبِّ يَاحِ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کی ہواؤں کا منبج	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	كَعْبَةِ طَوَافِ الْأَنْبِيَاءِ کعبہ ہیں انبیاء کے طواف کے لئے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	بَابِ مَدْخَلِ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کے داخل ہونے کا دروازہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	الْمُتَّكِمَةَ بِالْأَسْمَاءِ اسماء کے سبب سے مکمل	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	يَبُوعِ الْخُتْفَاءِ چھپے ہوئے خزانے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	بَابِ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کا دروازہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	بَابِ الْأَوْلِيَاءِ اولیاء کا دروازہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	بَعَةِ الصَّفَاءِ صفائی کا مخزن	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	زَعِيمِ الْأَنْبِيَاءِ پیروں کے ضامن	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	كَثِيرِ الْحَيَاءِ بہت جیادار	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	فَحَّةِ الْأَتْقِيَاءِ اہل تقویٰ کے لیے مہم	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	رِآءِ الْكِبْرِيَاءِ کبریائی کی جادو	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَقَدِّمِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ	نبیوں کے پیشوا	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَقِّ يَقِينٍ لَأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے یقین کا حق	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي هُوَ خَاتَمُ النَّبَاِ	جو خدائی خبروں کے خاتم ہیں	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ اللَّيْلَةِ الزَّهْرَاءِ	رشن رات والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُجْمَعِ مَظَاهِرِ الْكِبْرِيَاءِ	مظاہر کبریائی کا محل اجتماع	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَبْشَرِ الْأَنْبِيَاءِ	نبیوں کو بشارت دینے والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ	نبیوں میں سے بہترین	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى خَطِيبِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے خطیب	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى زَبْرَقَانَ الْأَصْفِيَاءِ	اصفیاء کی زینت	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قُدْوَةِ الصُّوفِيَاءِ	صوفیوں کے رہنما	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ	نبیوں کے پیشوا	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّرِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے روشن چراغ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِفْتَاحِ الضِّيَاءِ	ضیاء کی چابی	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَفِي الْأَصْفِيَاءِ	اصفیاء سے چنے ہوئے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عِلْمِ يَقِينِ الْعُلَمَاءِ	علماء کا علم یقین	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى دُرَّةِ تَاجِ الْكِبَاءِ	جیا کے تاج کا ستارہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ذُرْوَةُ الْفَخْرِ وَالشَّانِ فخر و شناء کی بلند چوٹی	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الْمُصْعُودِ إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف لے جائے گئے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مَظْهَرٍ جَمِيلَةٍ الْأَسْمَاءِ جملہ اسماءِ الہیہ کا منظر	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الرَّاقِي فِي السَّمَاءِ آسمانوں پر چڑھنے والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
سِرِّ مَلَكُوتِ الْأَسْمَاءِ اسماءِ باری تعالیٰ کے وسیع ملک کے راز سر بہتہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مُبَارَكِ الْمَاءِ بابرکت پانی والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَثِيرِ الْأَسْمَاءِ زیادہ ناموں والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
سَمِيٍّ الْأَسْمَاءِ بلند شان ناموں والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
أَكْرَمِ الْكِرْمَاءِ اچھوں میں سب سے اچھے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
إِمَامِ الْفُضَلَاءِ فضلاء کے امام	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
دَافِعِ الْبَلَاءِ مصیبتوں کو مورد کر نیوالے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
دَائِمِ الْبُكَاءِ ہمیشہ رونے والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَثِيرِ الْبُكَاءِ زیادہ رونے والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

خَيْرِ أَهْلِ الْبُقْعَاءِ	بہتر ہیں اہل بقعاء سے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
قَابِ قَوْسِي الْأَسْمَاءِ	اسماء الہیہ کی دو قوسوں کے در	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
هُمْ أَمَّا كَابِرِ الْعُظْمَاءِ	تمام اکابر عظام سے بلند ہمت	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الْقَائِمِ بِجَمِيعِ الْأَلَاءِ	تمام نعمتوں کے ساتھ قائم	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
رَحِيمِ عَلَى الضُّعَفَاءِ	کمزوروں پر مہربان	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
إِمَامِ أَهْلِ الْبُقْعَاءِ	اہل بقعاء کے امام	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الضُّعَفَاءِ	غریبوں کے ہاں آنے جانے والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
مُعِينِ الضُّعَفَاءِ	کمزوروں کے مددگار	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
يَنْبُوعِ الْأَحْتِقَاءِ	سرچشمہ شفقت و التفات	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
نَبْعَةِ الْأَصْطَفَاءِ	منبع اصطفاء و پسندیدگی کا	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
عَدْلِ الْقَضَاءِ	قضاء میں باعث عدل و انصاف	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
رَاكِبِ الْجُدَعَاءِ	جود و سخاوت اور امانت کے سوار	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
أَمْسِلِ الشُّفَاءِ	شفا کی بنیاد	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
مَنْبِجِ الْعَطَاءِ	جود و عطاء کا سرچشمہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَاحِبِ الْقَضَاءِ	بہترین فیصلے والے	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
عَيْنِ الصَّفَاءِ	صفا و اخلاص کے سرچشمہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ	جَامِعِ شَمَلِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی جمعیت کا سامان
اللہ تعالیٰ	سَلْمٌ وَوَصُولِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے وصول کی سیرتھی
اللہ تعالیٰ	نُورِ عِيُونِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی آنکھوں کا نور
اللہ تعالیٰ	نَتِيجَةِ أَفْهَامِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے عقول و افہام کا ثمرہ
اللہ تعالیٰ	جَوْهَرِ أَصْدَافِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے موتیوں کا جوہر
اللہ تعالیٰ	حُلِيِّ أَجْيَادِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی گردنوں کا ہار و زیور
اللہ تعالیٰ	عِزَّةِ أَفَاقِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے آفاق کی روشنی
اللہ تعالیٰ	بَابِ مَدْخَلِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے داخل ہونے کا دروازہ
اللہ تعالیٰ	فَيْضِ مَنْهَلِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے گھاٹ کا فیضان
اللہ تعالیٰ	شَرَاعِ فَلَاحِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی کشتی کے بادبان
اللہ تعالیٰ	عَقْدِ سَلَكِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی لڑی کا ہار
اللہ تعالیٰ	مِسْكَةِ خَتَامِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے تہر کی کستوری
اللہ تعالیٰ	مُدَدِ أَمْدَادِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی مدد کا ذریعہ
اللہ تعالیٰ	لُبَابَةِ أَعْرَاقِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی بڑیوں کا مغز
اللہ تعالیٰ	نُورِ أَفْهَامِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے عقول و فہم کا نور
اللہ تعالیٰ	رُشْدِ فَلَاحِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی کامیابی کی رہنمائی
اللہ تعالیٰ	هَدَايِ صَلَاحِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی بہتری کی ہدایت

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْمٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کی بلندیوں کا ستارہ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کی ہدایت کا بدر منیر

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَايَةُ مُطْلَبِ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کے مطلوب کی غایت

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ لَيْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کی رات کا ہلال

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقْطَةُ دَائِرَةِ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کے دائرہ نبوت کا مرکز

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْشُ كُنَافِ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کے اطراف و جوانب کے عرش

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلَعُ أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کے انوار کا افق مشرق

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَهْلٌ وَرُودِ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کے (پیماس بچھانے کیلئے) دھرونے کا گھاٹ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَدُ جَمَالِ الْأَنْبِيَاءِ جمال انبیاء کا موجب افزائش

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْكَزٌ وَجُودِ الْأَنْبِيَاءِ وجود انبیاء کا مرکز

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُنُ طَرِيقَةُ الْأَنْبِيَاءِ طریقہ انبیاء کی برکت

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورٌ بِهَا الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کے حسن کا نور

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورٌ بِهَا الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کی برکت

اللہ تعالیٰ	مَحْضِ لِهْدَايَةِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی خالص ہدایت
اللہ تعالیٰ	بِهَجَاتِهِ حُسْنِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے حسن کی بہار
اللہ تعالیٰ	عِزَّةِ يَمَنِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی برکتوں کی عزت
اللہ تعالیٰ	عَنْ بَرَارِيحِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی خوشبوؤں کیلئے عنبر
اللہ تعالیٰ	مَهَبِ رِيَّاحِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے لئے اٹھنے والی ہواؤں کا منبع
اللہ تعالیٰ	تَمَسُّ عِلَا الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی برتری کے آفتاب
اللہ تعالیٰ	صَدْرِ صُدُورِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے صدر الصدور
اللہ تعالیٰ	بَدْرِ بَدُورِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے بدر البدور
اللہ تعالیٰ	مَجْمَعِ جَمْعِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے اجتماع کا محل و مقام
اللہ تعالیٰ	سَمَوِّ مَخْرَجِ الْأَنْبِيَاءِ	مخارج انبیاء کی بلندی
اللہ تعالیٰ	زَيْتَةِ طَيْبِ الْأَنْبِيَاءِ	طیب انبیاء کے جھرنے والی دوا
اللہ تعالیٰ	مِسْكِ حَيْبِ الْأَنْبِيَاءِ	حیب انبیاء کے ہر گن
اللہ تعالیٰ	أَمَامِ أَمَامِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے اماموں کے امام
اللہ تعالیٰ	ضِيَاءِ تَمَسُّ الْأَنْبِيَاءِ	آفتاب انبیاء کی ضیاء
اللہ تعالیٰ	أَسْنَانِ عِيُونِ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کی آنکھوں کی پتلی
اللہ تعالیٰ	قُطْبِ فَلَكَ الْأَنْبِيَاءِ	انبیاء کے فلک کا مرکز

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	وَجِبْرِ الرِّضَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	رمزائے حق کے سبب
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	دَائِمِ الرِّضَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	ہمیشہ رضائے الہی پر خوش رہنے والے
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	مُذَكِّرِ النِّسَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	عورتوں کو وعظ فرمائیے
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	فقراء سے محبت کرئیے
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	مُبَشِّرِ الْفُقَرَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	فقیروں کو جنت کی بشارت دینے والے
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	قَائِدِ الْفُقَرَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	غریبوں کے رہنما
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	كَثِيرِ الشُّعْرَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	زیادہ شاعروں والے
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	رَاحَةِ الْغُرَبَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	غریبوں کے لئے راحت
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	مُهَاجِرِ الْفُقَرَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	فقیروں کے جائے پناہ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	فَخْرِ الْأَنْبِيَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	انبیاء کا فخر
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	قِدْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	انبیاء کے نمونہ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	انبیاء سے افضل
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	شَمْسِ الْأَنْبِيَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	انبیاء کا سورج
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	انبیاء سے شرف والے
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	مُدَدِ صَلَاتِ الْأَنْبِيَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	انبیاء کی عطیات کی آفسزائش
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	صَدْرِ الْأَنْبِيَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	انبیاء کے صدر
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	عَيْنِ عِنَايَةِ الْأَنْبِيَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	انبیاء کے مجسم عنایت
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	تَبْلَةِ صَلَاتِ الْأَنْبِيَاءِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	انبیاء کی قبلہ صلوة

<p>خِتَامِ مَحْفَلِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کی محافل کا نتیجہ</small> <small>اللہ</small></p>	
<p>يَنْبُوعِ مَعَادِنِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کے معادن کا سرچشمہ</small> <small>اللہ</small></p>	
<p>سَمِّكَ صُعُودِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کی ترقی اور معراج کی انتہا</small> <small>اللہ</small></p>	<p>أَكْرَمِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کے کریم</small> <small>اللہ</small></p>
<p>مِفْتَاحِ خَزَائِنِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کے خزانوں کی چابی</small> <small>اللہ</small></p>	<p>دَعْوَةِ أَسْلَافِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کے اسلاف کی دعا</small> <small>اللہ</small></p>
<p>كَعْبَةِ طُوفِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کے طواف کا کعبہ</small> <small>اللہ</small></p>	<p>عِلْمِ أَعْلَامِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کے پرجموں کی زینت</small> <small>اللہ</small></p>
<p>غِذَائِ نَفُوسِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کے نفوس کی غذا</small> <small>اللہ</small></p>	<p>تَاجِ رُءُوسِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کے سروں کا تاج</small> <small>اللہ</small></p>
<p>سِرِّ أَسْرَارِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کا سر اسرار</small> <small>اللہ</small></p>	<p>نُورِ أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ <small>انبیاء کا نور انوار</small> <small>اللہ</small></p>

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذابِ دوزخ سے بچا
 وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ اور ہمیں عذابِ قبر سے بچا
 وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ اور ہمیں عذابِ حشر سے بچا
 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں عذابِ آگ سے بچا
 وَقِنَا عَذَابَ الْوَبَاءِ اور ہمیں وباؤں کے عذاب سے بچا
 وَقِنَا عَذَابَ الْبَلَاءِ اور ہمیں بلاؤں کے عذاب سے بچا
 وَقِنَا عَذَابَ الْقَحْطِ اور ہمیں قحط کے عذاب سے بچا
 وَأَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ (اے اللہ) قبول فرما اپنے نبی کریم کی عزت کے طفیل

تیسری منزل



سردار کوٹھن نے فرمایا ہے کہ ہر تیسوں اور چھوٹوں کو گھانا کھلا
 اور پیٹیم کے لئے مہربان باپ کی طرح، پیچہ کے لئے شیخی خانہ کی طرح
 ہو تو ہر اس سانس کے بدلے جو دنیا میں لگا لگا کر ایسا کھل جنت میں دیا
 جائے گا جو دنیا میں اس کے سزاوار مسلمان سے بہتر ہوگا۔

شائع روزِ جزائیم چہ کروڑوں درود درود
 دافعِ جملہ بلا ختم چہ کروڑوں درود درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ
الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ الْفَاسِ الْذَاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَالْأَهْلِ وَسَائِرِ الْعَالَمِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكَلِمَةَ الْكَلِمَةَ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<p>عَلِيُّوَالْحَمَاءِ</p> <p>سب اہل علم سے زیادہ علم</p>	<p>رَحِيمُوَالرَّحَمَاءِ</p> <p>تمام رحیموں سے رحیم تر</p>	<p>زَيْنِ الْأَسْنَاءِ</p> <p>نورانی لوگوں کی زینت</p>
<p>كَثْرُ الْفُقَرَاءِ</p> <p>فقراء کا خزانہ</p>	<p>بَصِيرِ الْبُصَرَاءِ</p> <p>سب اہل بصیرت زیادہ بصیر</p>	<p>حِرْزِ الضُّعَفَاءِ</p> <p>ضعیفوں کے لئے پناہ</p>
<p>نُورِ الْأَنْوَارِ الْأَمْطَفَاءِ</p> <p>برگزیدہ لوگوں کے نور میں کا نور</p>	<p>القَوِيِّ عَلَى الْكِبَرَاءِ</p> <p>کبراء پر قوی</p>	<p>سِرِّ الْأَسْرَارِ الْفُقَرَاءِ</p> <p>فقراء کے رازوں کا راز</p>
<p>رِيَاضِ جَمَالِ الْأَنْبِيَاءِ</p> <p>انبیاء کے جمال کے باغات</p>	<p>رُوحِ أَرْوَاحِ الْأَمْطَفَاءِ</p> <p>برگزیدہ لوگوں کی رُوحوں کی رُوح</p>	<p>عَيْنِ كَمَالِ الْأَنْبِيَاءِ</p> <p>انبیاء کا عین کمال</p>
<p>جَاهِدِ الْبَلَاءِ</p> <p>ہمتی بیلیات کی مشقت کا طاع</p>	<p>سَبَبِ وَجُودِ الْأَنْبِيَاءِ</p> <p>انبیاء کا سبب وجود</p>	

عَلَى الْعُظْمَاءِ الْقَوِيِّ اللهم صل على
 عظماء پر قوی صلی

مُرْتَلِّ الشَّقَاءِ اللهم صل على
 شقاوت کو زائل کر نیوالے صلی

نُورِ الْكِيَاءِ اللهم صل على
 کیاء کا نور صلی

مَكْمَلِ أَهْلِ النُّورِ الْأَسْنَا اللهم صل على
 کامل نور والوں کی تکمیل کر نیوالے صلی

طَاءِ طِرَازِ النُّورِ الْأَسْنَا اللهم صل على
 نور انور کے نقش کی طاء صلی

قَاطِعِ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ اللهم صل على
 دشمنوں کی شادمانی کے قاطع صلی

مَصَائِبِ الدُّنْيَا اللهم صل على
 دنیا کے مصائب کے بے خوف صلی

نَسْرِ أَعْرِضِ هَرَسَةَ السَّنَا اللهم صل على
 ضیاء کی زہرت و بہار کی زاء صلی

سِرَاجِ الْأَوْلِيَاءِ اللهم صل على
 اولیاء کے چراغ صلی

الدَّرَّةُ الْبَيْضَاءُ اللهم صل على
 چمک دار موتی صلی

مِن تَفَجَّرَ مِنْ صَاحِبَةِ الْمَاءِ اللهم صل على
 جن کی انگلیوں سے صاف پانی پھوٹا صلی

الْقُرْآنُ هُوَ الشِّفَاءُ اللهم صل على
 قرآن کو شفاء فرمانے والے صلی

نَعِيمِ الْوَالِدِ اللهم صل على
 تمام نعمتوں سے عظیم تر نعمت صلی

الْمُجَاءِ اللهم صل على
 جائے نجات صلی

صَاحِبِ الرَّدَاءِ

کالی کبلی والے

مَبَارِكِ الْغَدَاةِ

بارکت غذا والے

كَفِيْلِ الْفَقْرَاءِ

فقراء کی کفالت کرنے والے

خِيَارِ السُّعَدَاءِ

سعداء کے مختار

خِيَارِ الشُّهَدَاءِ

شہداء کے مختار

عَظِيْمِ الرَّجَاءِ

امیدوں کا بڑا آسرا

مَوْصِلَةِ الرِّضَاءِ

اللہ کی رضا و رضوان تک پہنچانے والے

مَصْدَرِ الرَّجَاءِ

امید کے مصدر

مُهَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ

انبیاء کیلئے سرسرا ماد

مَلْجَأِ الْغُرَبَاءِ

غریبوں کی جائے پناہ

صَاحِبِ الْعَضْبَاءِ

عضباء اور مٹی کے سوار

دَافِعِ الْوَبَاءِ

بیماریوں کو دور کرنے والے

الْأَعْرَاسِ السَّمَاءِ

آسمان والوں میں سب سے منز

كَثِيْرِ النُّقَبَاءِ

زیادہ نقیوں والے

السَّمِي الْأَسْمَاءُ
ناموں میں بلند نام

السَّادَةُ
لقَارَةُ الْفُضْلَاءِ
فضلاء کے علاقے کے سردار

الْبَرَّةُ
لِقَلْبَةِ النَّبَلَاءِ
نبلاء کی نیکی و لاپہنائی

صَفْوَةٌ
أَهْلُ الْأَمْطَاءِ
مُخْتَارُونَ صَابِغِينَ لَوْنُهُمْ
مُخْتَارُونَ صَابِغِينَ لَوْنُهُمْ
مختار ہونے والے لوگوں کا خلاصہ

إِمَامِ
أَهْلِ الشِّفَاءِ
اہل شفاء کے امام

صَاحِبِ
الطَّرِيقَةِ الْبَيْضَاءِ
روشن طریقت والے

صَاحِبِ
حِلَّةِ الْحَمْرَاءِ
مرخ جوڑے والے

صَاحِبِ
الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ
مرخ خیمہ والے

مُحْسِنِ
عَلَى الْفُقَرَاءِ
فقراء پر احسان فرمائیے

صَاحِبِ
الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ
سیاہ عمامہ شریف والے

خَاتِمِ
السَّنَنِ الْأَهْتِدَاءِ
تکمیل کرنے والے قابل اہتداء طریقوں کی

خَاتِمِ
السَّنَنِ الْعُجُجَاءِ
طپڑھے رستے کو سیدھا کرنے والے

خَاتِمِ
السَّنَنِ الْأَقْتِدَاءِ
تکمیل کرنے والے قابل اقتداء طریقوں کی

اللہ عزوجل

النَّوْكَبِ الْمُضِيِّ

روشن ستارہ

اللہ عزوجل

قَمِيمٌ

پیر ہی ملت کو سیدھا کرینوالے

اللہ عزوجل

النَّبِيِّ الْأَضْوَاءِ

رشتی والے نبی

اللہ عزوجل

مَنْ أَسْمَىٰ مِنْ أَسْمَاءِ

جن کا نام تمام ناموں سے زیادہ معزز ہے

اللہ عزوجل

مَرْكَبِ الْغُرِّ

عزت والی جماعت میں سواروں کی واسطے نیک نیتوں کی دلہنوں کے

اللہ عزوجل

لِعِرَائِسِ السَّعْدَاءِ

مظاہر ذات والی جماعت

اللہ عزوجل

الْمُنْتَقَىٰ

خوبیوں کے جواہر سے چنے ہوئے

اللہ عزوجل

مَجْمَعِ

مظاہر ذات و اسماء کا محل اجتماع

اللہ عزوجل

النَّوْمُ مَوْجِبٌ خَيْرٍ

بہترین اوصاف اور اسماء کے ساتھ موصوف

اللہ عزوجل

أَعْلَمَ مَنْ قَامَ بِالْقَضَاءِ

تمام منصب قضاء والوں سے زیادہ علم والے

اللہ عزوجل

ضَوْءِ شَمْسٍ صَبَاحِ الْأَهْتِدَاءِ

ہدایت کے آفتاب طبع کی ضیاء

اللہ عزوجل

أَفْضَلُ

زمین پر قدم رکھنے والوں سے افضل

اللہ عزوجل

أَشَدُّ النَّاسِ حَيَاءً

تمام مخلوق سے زیادہ حیا کرنے والے

اللہ عزوجل

الَّذِي لَا يَطْفَأُ نُورَ اللَّهِ

نہ بجھنے والا اللہ کا نور

حَمَاطِيَا

مزم شریف کے محافظ

وَرَاءِ
الْوَرَاءِ بِلا وَرَاءِ

بلند ترین ہیں تمام مخلوق سے
بغیر انتہا کے

حَمَاطِيَا

مزم شریف سے شرک
دور کرنے والے

مُرْوِي الظَّمَا

پاسے کو سیراب کرنے والے

الْمَحْصِي

ہر شے کا احاطہ کرنے والے

وَأَهْبِ
الْوَلْوَاءِ

لؤلؤء کے ہبہ کرنے والے

صَاحِبِ الْوَضْوَاءِ

وضو کرنے والے

النَّاهِي
عَنِ السُّوْءِ

برائی سے منع کرنے والے

السَّامِي

بلند ہونے والی روشنی

حَبِطًا

مزم کے محافظ

الْمُنْتَحِمِنَا

بہت زیادہ تعریف والے

قَدَمَايَا

سب سے اول

قَاسِمِ الْفَيْءِ

مال فئی تقسیم کرنے والے

أَخْرِيَا

آخری نبی

بَابَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 ہمارے والدین
 آپ پر قربان
 ہوں

مُسَلِّمِ الرِّضَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 رضائے خداوندی کی سیرھی

ذِي الْعَطَايَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 بخشش کرنے والے

زَهْرَةَ السَّنَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 روشنی کی رونق

كَبِيرِ الْعَطَايَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 زیادہ بخشش کرنے والے

صَاحِبِ الْعَطَايَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 بخشش کرنے والے

كَثِيرِ الصُّحَايَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 زیادہ قربانی کرنے والے

صَاحِبِ السَّرَايَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 لشکروں کو بھیجنے والے

مُفَاجِئِ الثَّنَايَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 سامنے کے دانتوں میں
 کشادگی والے

وَأَسْمِعِ الْعَطَايَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 وسیع عطاؤں والے

كَثِيرِ الْعَطَايَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 بہت عطاؤں والے

وَهَابِ الْهَدَايَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 تحفے عطا کرنے والے

كَرِيمِ السَّبَايَا اللہ تعالیٰ پر دعا ہے
 بزرگ خصلتوں والے

فَخْرُ الْمُرَايَا اللهم صل على محمد وآل محمد
فائقِ نخویوں کے باغِ فخر

سَعْدِ السُّعُودِيَا اللهم صل على محمد وآل محمد
ستاروں کی سعادت

بَرَّاقِ الشَّيَايَا اللهم صل على محمد وآل محمد
آبدار دانتوں والے

زَهْرَةَ الدُّنْيَا اللهم صل على محمد وآل محمد
دنیا کی زینت

رَافِضِ الدُّنْيَا اللهم صل على محمد وآل محمد
تارکِ دنیا

خَيْرِ اللَّهَاءِ اللهم صل على محمد وآل محمد
بہترین سخی

شَمْسِ الْمَنَا اللهم صل على محمد وآل محمد
آرزوؤں کے آفتاب

الْأَعْزَالِ تَمَّا اللهم صل على محمد وآل محمد
انتہائی مغز و کامل

كُرِّيْمِ الْمَجْتَلَا اللهم صل على محمد وآل محمد
بلند مرتبہ چہرے اور جلوہ گاہ

مُفْتَاِحِ الْعَمَلَا اللهم صل على محمد وآل محمد
بلندیوں کی چابی

مُصَدِّرِ الْوَفَا اللهم صل على محمد وآل محمد
وفا کے معدنِ دکان

صَاحِبِ عَصَا اللهم صل على محمد وآل محمد
عصا والے

الْمُخْلِصِ الْمُتَقَفَا اللهم صل على محمد وآل محمد
سراسرِ اخلاص

مَجْلَى الصَّدَا دلوں کا زنگ دور کرنے والے
وَالْمُعْتَكِفِ غار حرا میں اعتکاف کرنے والے
صَاحِبِ قِبَا قبا پہننے والے
الرَّغِيبِ دُنیا سے مُنہ موڑنے والے
خُصَّ بِالرِّضَا رِضا کے ساتھ خاص کئے ہوؤں سے مُکرم
صَاحِبِ مُبلد کلمے والے
الْكَلِمَةِ الْعَلِيَا
عَرُوسِ بارگاہِ عالیہ کے دُولہا
حَصْرَةَ الْعَلِيَا
أَهْلِ جَدِّ وَسَخَاكِ اہلِ جود و سخا کے امام
يَعْسُوبِ بلند ترین نظریں رئیس
نَظْرَةَ الْقَصِيَا
صَاحِبِ بلند تر مرتبہ کے مالک
الْمَكَانَةِ الْعَلِيَا
سُرِّ أَهْلِ اہلِ دُنیا و آخرت کے سراپا سرور
الْآخِرَةِ وَالِدُنْيَا
سَيِّدِ زَمزم اور صفا کے سرور
الزَّمْزَمِ وَالصَّفَا
سَبَبِ الْبِنَا نجات کا سبب
بِحَرِّ النَّدَا سخاوت کے سمندر

<p>اَهِلُّ صَفَاةٍ إِمَامُ أَهْلِ الصَّفَاةِ اہل صفا کے امام ہاشمی</p>	<p>اَهِلُّ دِفَاعٍ إِمَامُ أَهْلِ الدِّفَاعِ اہل دفا کے امام ہاشمی</p>	<p>ذِي الْمَوْفَى إِمَامُ ذِي الْمَوْفَى کامل وفا والے ہاشمی</p>
<p>عِمَادٍ مَنْ إِلَيْهِ لَجَّاءُ التَّجَارِ پناہ پکڑنے اور التجا کرنے والوں کا سہارا ہاشمی</p>	<p>أَهْلُ الرِّضَا إِمَامُ أَهْلِ الرِّضَا اہل رضا کے امام ہاشمی</p>	<p>وَقِفَ بِعَرَفَاتِ الْحَيْرِ وَدَعَا عرفات خیر میں پھرنے والے اور دعا کرنے والے ہاشمی</p>
<p>صَاحِبِ الْعَرَائِبِ وَالْجَائِبِ عجیب و غریب شانوں والے ہاشمی</p>	<p>لَيْثِ الثَّكَّائِبِ شکروں کے شیر ہاشمی</p>	<p>صَاحِبِ ذِي وَائِبِ زلفوں والے ہاشمی</p>
<p>صَاحِبِ الرَّأْيِ الْكَبِيرِ الصَّابِ عظیم صحیح رائے والے ہاشمی</p>	<p>صَاحِبِ الرَّغَائِبِ پسندیدہ اخلاق والے ہاشمی</p>	<p>زَيْنِ الْأَضَائِبِ صواب صحیح ترین امور کی زینت ہاشمی</p>
<p>خَيْرِ الْأَطَائِبِ سب پاکیزہ تر لوگوں سے بہتر ہاشمی</p>	<p>ابنِ الْأَطَائِبِ پاکیزہ ترین اشخاص کے تحت جگر ہاشمی</p>	

<p>مَجَابِبُ مقبول دُعا اللہ تعالیٰ</p>	<p>الْمُدَبِّرِ الصَّائِبِ درست تدابیر والے مدبر و منتظم اللہ تعالیٰ</p>	<p>الذُّبَابِ اپنی قوم کی بہت حمایت کرنے والے اللہ تعالیٰ</p>
<p>رَيْسِ الْأَحْبَابِ محبوبانِ خداوندی کے سردار اللہ تعالیٰ</p>	<p>إِلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ لوگوں کو ربِّ الارباب تک پہنچانے والے اللہ تعالیٰ</p>	<p>مَوْصِلِ الْعِبَادِ اللہ تعالیٰ</p>
<p>الْعَلِيمِ بِاسْرَارِ الْكِتَابِ اسرارِ کتاب کو جاننے والے اللہ تعالیٰ</p>	<p>الذُّبَابِ خلاصہ خالص و مخصوص بندگانِ الہی کے اللہ تعالیٰ</p>	<p>الدَّاعِيَ إِلَى أَرَادَةِ رَبِّ الْأَرْبَابِ دعوت دینے والے ربِّ الارباب کی ارادت و محبت کی طرف اللہ تعالیٰ</p>
<p>الْقَانِتِ الْأَقْرَابِ عابدِ مقبول اللہ تعالیٰ</p>	<p>كَثِيرِ الْكِتَابِ زیادہ کتابوں والے اللہ تعالیٰ</p>	<p>مُبَارِكِ الْكِتَابِ مبارک کتاب والے اللہ تعالیٰ</p>
<p>الْجَلَّابِ کشش کرنے والے اللہ تعالیٰ</p>	<p>مَسَاتِيرِ الْعَيُوبِ عیبوں کو چھپانے والے اللہ تعالیٰ</p>	<p>الْمُسْتَجَابِ قبول فرمائے گئے اللہ تعالیٰ</p>

طَائِفَات

خوشن و نرم

ﷺ

مُذْهِبِ
الذُّنُوبِ

گناہوں کو دور کرنے والے

ﷺ

المُصَابِ

مصیبت
پہنچانے
کے

ﷺ

ﷺ

مُذْهِبِ
الإِضْطِرَابِ

بے چینی کو دور کرنے والے

ﷺ

مُشْفِعِ
يَوْمِ الْمَمَاتِ

قیامت کے دن شفاعت کرنے والے

ﷺ

شَرِيفِ
الْأَحْسَابِ وَالْأَنْسَابِ

شریف حسوں و نسبوں والے

ﷺ

طَيِّبِ الْاَثْوَابِ

پاک لباس پہننے والے

ﷺ

رَجِيْبِ الْجَنَابِ

بارگاہِ خداوندی کے پسندیدہ

ﷺ

وَالْأَمْنِ
مِنَ الْعَذَابِ

عذابِ گرفت سے مامون

ﷺ

رَيْسِ
أَوْلِي الْأَقْتِرَابِ

اہلِ قُرب کے سردار

ﷺ

الْمُسْتَقِي
مِنَ شَرَابِ مَحَبَّةِ التَّرَابِ

محبتِ الہیہ کی شراب پینے والے

ﷺ

صَوَلَتِ
عَظَمَتِ الْخِطَابِ

سراپا صولت و غلبہ میں
عظمتِ خطاب کا

ﷺ

وِمَا لِالْحَبَابِ

دوستوں کو ملانے والے

ﷺ

كَثِيرِ الْأَصْحَابِ

زیادہ اصحاب والے

ﷺ

عَبْدِ الْوَهَّابِ وہاب کے بندے	الْمُعَذِّبِ عقاب سے ڈرانے والے	الْوَهَّابِ بخشنے والے
رَحْبِ الْجَنَابِ کشادہ بارگاہ والے	بَنِي كِلَابٍ قہسی بن کلاب کے صاحبزادے	الْبَنِي قہسی بن کلاب کے صاحبزادے
بَابِ الْأَبْوَابِ تمام ابواب خیر و رشد کے مبدئ	بِتَرِ التَّوَابِ توابع کا احسان	السَّائِلِ الْمُجَابِ ایسے سائل جن کی دعا مقبول ہے
الدَّالِ عَلَى مَحْصِلِ الصَّوَابِ صحیح امور کے حاصل کرنے کی رہنمائی کرنے والے	أَعْلَمِ ان تمام سے زیادہ علم والے جنہوں نے صواب اور برحق کلام کیا۔	الدَّالِ عَلَى مَحْصِلِ الثَّوَابِ ثواب حاصل کرنے کی رہنمائی کرنے والے
الْمُهَّابِ بارع	طَيْبِ الْأَثْوَابِ بارگاہ وہاب کے مقرب	الرَّهَابِ درویش صفت

اللہم صل علیٰ **الشَّهَابِ** دہکتا ہوا ستارہ

اللہم صل علیٰ **طَرِيقِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ** درستی اور حق کا راستہ

اللہم صل علیٰ **الزَّاعِبِ** راہ دکھانے والا

اللہم صل علیٰ **المُسْعُوْدِ** سایہ سعادت ہر محبوب کے لئے

اللہم صل علیٰ **لِكُلِّ مُحِبِّ** کبلی اور ہننے والے

اللہم صل علیٰ **الْمُكْتَبِ الْغَالِبِ** غالب ستارہ

اللہم صل علیٰ **الحَسَبِ الرَّحْبِ** عمدہ نسب والے

اللہم صل علیٰ **شُعَاعِ الدِّيَارِ الْغَالِبِ** اللہ کی غالب کرن

اللہم صل علیٰ **اللَّهُمَّ رَبَّنَا**

أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

اے اللہ! ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری

الْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

مدد فرما اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری رضا کی تیری ناراضگی سے اور

وَبِمَعَاذِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِحْصَى ثَنَاءً

تیرے عفو و درگزر کی تیری سزا سے اور میں پناہ لیتا ہوں تیرے (غضب) سے تیری (رحمت کی) میں تیری

عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الرَّحْمَنِ

تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا بس تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی تعریف کی۔ (اے اللہ) قبول فرما نبی رحیم کی عزت کے طویل

پوتھی منزل

سرور کونین ﷺ نے فرمایا! اے اللہ ہر یہاں چہ تجھے جنم کیا آئے تو اس
سے اللہ کی پناہ لے اور چاہے کہ اس کی وجہ سے تیرا دل روئے اور جڑے
پر بال کھڑے ہو جائیں خدا تجھے اس سے بچائے گا

جان و اول اصفیاء تم پہ کرو دروں درود

آپ و گل انبیاء تم پہ کرو دروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيدُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ قَطْرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْعَارِفِينَ وَالْإِهْوَالِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

المُخْصَوِّصِينَ بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ

اعلیٰ مراتب کے ساتھ مخصوص

الْخَلِيلِ عِنْدَ التَّوَّابِ

توواب کے ہاں خلیل

بِأَسْنَى الْمَرَاتِبِ

نورانی مراتب تک پہنچنے والے

الرَّاقِي فِي أَعْلَى الْمَرَاتِبِ

چڑھنے والے اعلیٰ مراتب کی طرف

الْمُحِبِّهَا

ساتھی

الْمُحِبِّ

پیارا کرنے والے

الْكَاتِبِ

لکھنے والے

الرَّاسِبِ

بردار

الْمُرَجَّبِ

مرحبانہ فرمانے والے

الْمُحِبِّ

سب کے پیارے

الْعَائِسِ عَنِ الْكِذْبِ

جھوٹ سے نفرت کرنے والے

وَأَسِطَتِي أَهْلَ الْحَبِّ

اہلِ محبت کیلئے واسطہ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَّمَهُ مَلِكٍ بِمُدَدِ الرَّبِّ</p> <p>رَبِّ کی مدد سے عمل کرنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَلْبِهِ مِنْ الْحُبِّ</p> <p>محبت سے بھرے ہوئے دل والے</p>		
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سِرِّ الْقُرْبِ</p> <p>قُرْبِ (خداوندی) کے رازِ مخفی</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَقَامِ الْحُبِّ</p> <p>مقامِ محبت پر پہنچانے والے</p>		
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّدْبِ</p> <p>جہاد پر ابھارنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُسْتَدْبِ</p> <p>فریادوں کی فریاد پر بیتک کہنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سِرِّ الْحُبِّ</p> <p>رازِ محبتِ الہیہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَهْلِ الْحُبِّ</p> <p>اہلِ محبت سے افضل</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ذِي الْجَمَالِ</p> <p>المُحَبُّوبِ لِأَهْلِ الْحُبِّ</p> <p>محبوبِ جمال والے واسطے اہل محبت کے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُشَدَّبِ</p> <p>درمیانے قد والے</p>		
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النَّفْسِ</p> <p>المُتَهَدَّبِ</p> <p>مہذبِ نفس والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُتَهَدَّبِ</p> <p>تہذیب یافتہ</p>		

<p>النَّائِلِ بِأَعْلَى الْمَارِبِ</p> <p>اعلیٰ مقاصد کو پانے والے</p>	<p>مَحَلِّ أَرْبَابِ الْمُطَالِبِ</p> <p>ارباب مطالب کے جاتے نزول</p>
<p>أَهْلِي الْمَغَارِبِ</p> <p>اہل مغرب کے سردار</p>	<p>صَفَاءَ الْمَشَارِبِ</p> <p>(سبب ہیں) گھاٹوں کی صفائی کا</p>
<p>الْمُخْلِصِ</p> <p>جو عطا ہوئے اس میں مخلص</p>	<p>نُورَانِي</p> <p>نورانی مشارق و مغارب والے</p>
<p>بِالْمُطَلَبِ فِي الْمَرْهَبِ</p> <p>ہولناکی میں اپنی طلب پر فائز ہونے والے</p>	<p>بِطَرِيقِ الْقُرْبِ</p> <p>قرب کے رستے پر چلنے والے</p>
<p>مُصَاصِ عَبْدِ الْمُطَلَبِ</p> <p>عبدالمطلب کی نسل سے چمٹے ہوئے</p>	<p>حَيْلِ الْعَرَبِ</p> <p>عرب والوں سے بہتر</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمَذْكُورِ بِجَمَلِهِ الْكُتُبِ

تمام کتب الہیب میں ذکر کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمَعْرُوفِ فِي الْأَدَبِ

ادب میں معروف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
ظَاهِرِ الْقَلْبِ

پاک صاف دل والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
رَاكِبِ الظَّرْبِ

ظرب گھوڑے کے سوار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
رَافِعِ الشُّرْبِ

بلند رتھوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
فَيْضِ عَجَالِي

القُرْبِ

مجسم فیض قُرب کی

جسودہ گا ہوں کا

قَبْلَهُ

أَهْلِ الْقُرْبِ

مقربین کا قبلہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
كَرِيمِ الْحَسْبِ

پاکیزہ حسب و نسب والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
بَابِ الْقُرْبِ

قُرب حق کا دروازہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
صَاحِبِ الْقُرْبِ

(اللہ کی) قُربت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
بَابِ الْحُبِّ

محبت (خداوندی) کا دروازہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِمَامِ أَهْلِ بَسَاطِ الْقُرْبِ

بساطِ قُرب والوں کے امام

<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المُّقَرَّبِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللہ کے مقرب</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المُّغْرَبِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>جلا وطن کر نیوالے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>السَّانِ الْمُعْرَبِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>فصحی اللسان</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الْمُنْزِلِ الْمُقَرَّبِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مقرب منزل والے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَنْفَاسِ الْعَرَبِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>عرب کے نفیس ترین</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُتَوَجِّعِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>بتاج القرب</p> <p>قرب کا تاج پہنائے گئے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَعْرَبِ الْعَرَبِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>تمام عرب سے زیادہ عربی جاننے والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>زَمَامِطِ طَاعَةِ الرَّبِّ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>رب تعالیٰ کی طاعت کی باگ ڈور</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْأَعْرَبِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اعلیٰ جاننے والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَفْصَحِ الْعَرَبِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>عرب کے بڑے فصیح</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>عِزِّ الْعَبْرِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>عرب کی عزت</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>عِزِّ الْعَبْرِ</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>عرب کی عزت</p>

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مُشْرِفٍ كُلِّ حَتَّىٰ قُنَّ الْعَرَبِ شرف بخشنے والے عرب کے ہر گروہ کو</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ مِنْ أَطْيَبِ بَطُونِ الْعَرَبِ پختے گئے عرب قبائل کی شاخوں میں سے پاکیزہ ترین شاخ سے</p>		
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَسْبِ الْأَنْسَبِ شریف حسب نسب والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ فِي الْعَرَبِ وہ سرور جو عرب میں اہل عرب کے سرور ہیں</p>		
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُحْتَسِبِ الشَّدِّكَ يَا اجْرُو ثَوَابِ کی امید رکھنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَابِقِ الْعَرَبِ عرب میں سے پہلے ایمان لانے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَرِيقِ النَّسَبِ راخ نسب والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَرِيقِ الْحَسْبِ راخ حسب والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّبِ الْقَصَبِ موزوں لمبی ٹہریوں والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّاصِبِ بہت بندگی کرنیوالے</p>		
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُدَاعِبِ خوش مزاج</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّصْبِ روشنی کے مینار</p>		

الرُّعْبُ نَصُورٌ بِالرُّعْبِ

رُعْبٌ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

ابْنُ مِرَّةَ بْنِ كَعْبٍ

مِرَّةُ بْنُ كَعْبٍ كَ فَرْزَنْدِ اِرْجَمَسَنْدِ

الرَّاعِبِ

الرَّاعِبُ طَرْفُ رُغْبَتٍ كَرْنِيَالِ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

رُعْبٌ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

النَّجْمِ

النَّجْمِ الشَّاقِبِ

شَقَبٌ طَرَسْتَارُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

بِأَجَلِ الْمُنَاقِبِ

مُنَاقِبٌ جَسِيدَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

صَاحِبِ الْمُنَاقِبِ

عَظِيمٌ مُنَاقِبٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

الرُّعْبُ دَبْدَبَةٌ كَ السَّامَةِ مَدْرَكَةٌ كُنْتُ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي يُحِبُّهُ كُلُّ مُحِبِّ

وہ ذات جن سے ہر محب نے محبت کی

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْفِكْرِ الْمُنِيرِ الشَّاقِبِ

روشن تابندہ فکر والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
رَاكِبِ السَّكَبِ

سب گھوڑے کے سوار

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
إِبْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ

لوی بن غالب کے فرزند ارجمند

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُكَبِّ

اللہ کے آگے جھکنے والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
عَظِيمِ
الْمَكْنَبِ

بجاری کندھوں والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
الْكُوكِبِ

چمکتے ہوئے ستارے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
الْعُقَيْبِ

آخری پیغمبر

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
بَابِ كُلِّ طَالِبِ

ہر طالب کیلئے (مقصود کا) دروازہ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
نَهَايَةِ الْمُطَالِبِ

مقاصد کا منتہی

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
زَيْبِ

دلیر آدمی

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
مَلَبِّ

فرماں بردار

<p>اللہ عزوجل الانْرَبِ جرات مند</p>	<p>اللہ عزوجل الْمَحَبَّةِ الْمُمَرَّةِ فِي الْقُلُوبِ دلوں میں پھل لانے والی محبت والے</p>		
<p>اللہ عزوجل الْجَلْبِ مجت کشش</p>	<p>اللہ عزوجل الْمُدَبِّ اپنی قوم کی حمایت کرنیوالے</p>		
<p>اللہ عزوجل الصَّكْبِ پختہ</p>	<p>اللہ عزوجل مَشَوِّقِ الْقَلْبِ دلوں میں شوق پیدا کرنے والے</p>	<p>اللہ عزوجل رَقِيقِ الْقَلْبِ نرم دل والے</p>	<p>اللہ عزوجل الْغَالِبِ تمام پر غالب آنیوالے</p>
<p>اللہ عزوجل مَفْرِجِ الْكُرْبِ مصیبت کو ختم کرنیوالے</p>	<p>اللہ عزوجل لَيْنِ الْجَانِبِ نرم خو</p>		
<p>اللہ عزوجل مُدْهِبِ الْكُرُوبِ غم و اندوہ کو دور کرنیوالے</p>	<p>اللہ عزوجل جَالِي الْكُرُوبِ رنج و الم کو دور کرنیوالے</p>		

الَّذِي
أَعْطَى بَشْرِي يَحْقُوبَ

جن کو یوب علیہ السلام کی بشارت کی گئی

الَّذِي
أَعْطَى صَبْرَ الْيُوبِ

جن کو یوب علیہ السلام کا صبر عطا کیا گیا

الْمَطْمَئِينِ
عَنِ الْعِيُوبِ

عبرت پاک

الْجَامِعِ بِقَلْبِهِ
لِجَمِيعِ الْقُلُوبِ

وہ جن کا قلب تمام قلوب کا جامع ہے۔

كَشَفَ
الْكُرُوبِ

مصیبتیں دور کر نیوالے

قَلْبِ
الْقُلُوبِ

دیسح قلوب کے قلب

مُحِبُّو
الْقُلُوبِ

دلوں کے محبوب

طَبِّ
الْقُلُوبِ

دلوں کے طبیب

رَاحَةَ الْقُلُوبِ
إِنَّا اشْتَدَّتْ الْكُرُوبُ

مصائب کی شدت کے وقت
دلوں کی راحت

الْمَرْجُو لِدَفْعِ الْكُرُوبِ

مصیبتوں کو دور کرنے کے لئے مرکز امید میں

الْمُعَظَّمِ فِي الْقُلُوبِ

قلوب میں عظیم تر

عَلَى تَفْرِيجِ الْكُرُوبِ

مشکلات کو دور کرنے
پر فتادار

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
ضِيَاءِ الْقُلُوبِ

دلوں کی روشنی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
طَيِّبِ الْقُلُوبِ

دلوں کے طیب

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
دَوَاءِ الْقُلُوبِ

دلوں کیسے دوا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
مُعْطِفِ الْقُلُوبِ

دلوں میں مہرمانی پیدا کر نیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
المُشْفِعِ فِي الذُّنُوبِ

گناہوں میں مقبول شفاعت

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
رِجَانِ الْقُلُوبِ

دلوں کیسے خوشبو

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
طَهْرَانِ الْقُلُوبِ

قلوب کے لئے سراپا طہارت

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
نُورِ الْقُلُوبِ

دلوں کیسے نور

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
المُطَّلِعِ عَلَى الْغُيُوبِ

غیب پر مطلع

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
طَيِّبِ الذُّنُوبِ

گناہوں کو دُور کر نیوالے طیب

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
لَدَىٰ كُلِّ مَحْبُوبٍ

ہر محبوب کے نزدیک
زمینیں و سردار

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
يَسِّرْ لِي كُلَّ مَحْجُوبٍ

ہر حرام نصیب کے لئے
وسیل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
عِنْدَ كُلِّ مَهْرُوبٍ (المَطْلُوبِ)

ہر پریشان حال کے نزدیک مطلوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
عِنْدَ الْوَهَّابِ الْكَيْبِ

وہاب کے نزدیک حبیب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الْمُبْرَأِ عَنِ الْعَيْبِ وَالرَّيْبِ

عیب اور شکوک سے مبرا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الطَّالِبِ الْمَطْلُوبِ الصَّافِي

اللہ کے منتخب اور اس کے طالبِ مطلوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الْمُرْعُوبِ

خدا کے رعب میں رہنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الْمَطْلُوبِ

تلاش کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مَحْسُوبٍ

اہمیت و اہتمام والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الْمَحْبُوبِ

پیارے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الْمُسْكُوبِ

اگلی کتابوں میں ذکر کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
خَيْرِ مَرْعُوبٍ

بہترین مرغوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
النَّبِيِّ الْمَسْكُوبِ

پچھلی کتابوں میں ذکر فرماتے گئے نبی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
إِفَاتَةِ الْمَسْكُوبِ

اہلِ کرب کے فریادرس

الْأَمِينِ عَلَى الْغَيْبِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ کے امورِ غیبیہ پر محبوب معتمد علیہ

أَقْفَالِ طَلْسِ الْغَيْبِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

غیب کے طلسمی تالے

عَدِمَ الْحَبِيبَ إِذَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

جو اس وقت دوست ہو جبکہ کوئی دوست نہیں ہوتا

مُخْبِرِ الْغَيْبِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

غیب کی خبریں دینے والے

صَاحِبِ الْقَضِيْبِ

چھڑی والے

الْمُصِيبِ

درست فیصلہ کرنے والے

الْمُسْتَجِيبِ

فرماں بردار

الْمُجِيبِ

قبول فرمانیوالے

الطَّيِّبِ إِذَا عَدِمَ الطَّيِّبُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

جو اس وقت طیب ہے جبکہ قی طیب لے

الطَّيِّبِ

روحانی و جسمانی حکیم

طَيْبِ الطَّيِّبِ

اہل طہارت کی طہارت کے موجب

الْغَرِيبِ

دنیا میں مسافر

مِيسِرِ الْحِسَابِ
 حساب کو آسان کر نیوالے

رَحِيْبُو بِالرَّكَاِبِ
 سواریوں پر مہربان

الْمُحْتَسِرِ لِلْحُبِّ
 جو چُننے گئے محبت کے لئے

الْمُحْتَسِرِ لِلْقُرْبِ
 جو چُننے گئے قُرب کے لئے

رَافِعِ الْمَجْبِ
 دلوں سے حجابات کو اٹھادینے والے

رَافِعِ اشْتَارِ
 دلوں کے پردوں کو اٹھانے والے

مُظْهِرِ سِرِّ
 منظر رازِ صبح و صورتِ قول کا

الْمُعْرِضِ
 گناہوں سے اعراض کر نیوالے

زِعْمِ الْمُجِيبِ
 بہتر قبول فرمانے والے

وَأَوْوِصَالِ الْأَحْبَابِ
 وصالِ احباب کی دُاؤ

وَأَضِحِ الْكِتَابِ
 واضح کتاب (قرآن مجید) والے

رَافِعِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْحِسَابِ
 حساب کے دن عذاب (حساب) کو اٹھانے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
المُحِبُّوْبِ عِنْدَ التَّوَابِ
 توآب کے ہاں محبوب

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
المُحِبُّوْبِ عِنْدَ الحَسِيْبِ
 حسیب کے ہاں محبوب

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَبْدِ الرَّقِيْبِ
 رقیب کے بندے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَبْدِ الْمُحِيْبِ
 محیب کے بندے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
المُحِبُّوْبِ عِنْدَ الْمُحِيْبِ
 محیب کے ہاں محبوب

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَبْدِ التَّوَابِ
 توآب کے بندے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
عِنْدَ الرَّقِيْبِ
 رقیب (اللہ) کے ہاں محبوب

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
**النَّكَاهِي عَنِ
 الجُورِ وَالْاِحْتِسَابِ**
 ظلم و احتساب کے منع کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَسُوْلِ الْمُقْرَبِ
 مقرب رسول

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
زِعْوِ النَّفِيْبِ
 بہترین سردار

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
زِعْوِ الرَّقِيْبِ
 بہترین نگہبان

نِعْمَ الْخَطِيبُ
بہترین خطیب

مُفِضٌ عَلَى الْقُلُوبِ
دلوں کو معارف کا فیض عطا فرمانے والے

الَّذِي جَسَدُهُ أَطِيبُ
جن کا جسم پاکیزہ ترین ہے

الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِهِ شَيْبَةٌ
جنکے سر میں بڑھاپے کا کوئی نشان نہ تھا

جَالِي الْأَضْطِرَابِ
بے سکونی کو دور کرنے والے

نِعْمَ الطَّيِّبُ
بہترین معالج

الَّذِي عَرَفَهُ طَيْبٌ
جن کا پسینہ خوشبو ہے

الَّذِي رُوحُهُ طَيِّبٌ
جن کی روح پاک ہے

بَدْرٍ أُولَى الْأَقْتِرَابِ
اہل قرب کے ماہِ تمام

نُورِ الْأَرْبَابِ
نورِ ارباب

أَنْبَجِ الْحَوَاجِبِ
باریک آبرو والے

الْخَيْلِ عِنْدَ الْوَهَابِ
دہاب کے ہاں خلیل

النُّورِ لِكُلِّ طَالِبٍ
ہر طالب کے لئے نور

رُوحِ الْمَطْلَبِ
روح مقاصد

زَيْنِ اللَّبَابِ
مخصوص بندگانِ خدا کی زینت

رَأْسِ الْأَمْثَالِ
صحیح ترین امور کے رئیس

عَبْدِ الرَّبِّ
رب کے بندے

عَنِ الْحَبِيبِ
ہر عیب پاک

فَطَاحِ لِهَوَاجِسِ الْقُلُوبِ
دلوں کے وساوس کو قطع کرنے والے

ضِيَاءِ الْقُلُوبِ
دلوں کا نور

الْمَعْرُوفِ فِي الْكَسْبِ
حسب میں معروف

عِنْدَ الرَّبِّ
رب کے ہاں محبوب

رُوحِ الْحُبِّ
محبت کی روح

زِعْوِ الْمَحَبِّ
بہترین محب

<p>اللہ عزوجل</p> <p>مُظْهِرِ سِرِّ الْقَوْلِ الْمُصِيبِ</p> <p>مظہر راز ہیں مسج و صورت قول کا</p>	<p>اللہ عزوجل</p> <p>رَوْضِ الْعِلْمِ الْخَصِيْبِ</p> <p>علم کا سرسبز و شاداب باغ</p>		
<p>اللہ عزوجل</p> <p>إِمَامِ أَهْلِ الْقُرْبِ</p> <p>اہلِ قرب کے امام</p>	<p>اللہ عزوجل</p> <p>لَمَنِيبِ</p> <p>اللہ کی طرف رجوع کرنیوالے</p>	<p>اللہ عزوجل</p> <p>الْقَرِيبِ</p> <p>اللہ کے قریب</p>	<p>اللہ عزوجل</p> <p>جَيْبِ نَسِيْبِ</p> <p>عمدہ نسب والے جیب</p>

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

اے اللہ مجھے توبہ کرنیوالوں میں شامل فرما اور مجھے پاک صاف ہونے والوں میں داخل فرما۔

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

(اے اللہ) قبول فرما اپنے نبی کریم ﷺ کی عزت کے طفیل۔


پانچویں منزل

سردار کوٹلیکھ نے فرمایا اے اللہ ہرگز یہاں مقبول ہی نہیں ہے اللہ کے سب
گناہ بخشے جاتے ہیں مگر قرضہ اور پاک واپس مرد و پانچویں منزل گناہ

الائیسریں تو چھپا دو سزا دو سزا حسن کو ملا
کو شک عرش و دلی تم چھپا دو دروں دروں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قَرِيبُ يَا ذِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي قَطْرَاتِ دُمُوعِ
الْمُعْشَوِّقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَالْأَلْمُوسِكَةِ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِ الْمَكْرَمِ
عِنْدَكَ يَا اللَّهُ يَا كَرِيمَ



افضل الانبياء اصحاباً
 سب انبیاء سے افضل اصحاب والے

<p>قاسم الذهب سونا تقسیم کرنے والا</p> <p>اشرف الخلق انبیا کا ساری قبولت کے اعتبار سے</p> <p>الفاخر حاکم کلین</p> <p>اغنی العرم غنی</p>	<p>الملك شاہ</p> <p>الطيب عالی مرتبت لوگوں کے سردار</p> <p>الحنيف حساب کے اعتبار سے ساری مخلوق سے</p> <p>الفاضل سب عربوں سے واضح تر ازونہ</p> <p>الطيب سب انبیاء سے افضل</p>
<p>الطيب سب انبیاء سے افضل</p> <p>الفاضل سب انبیاء سے افضل</p> <p>الحنيف حساب کے اعتبار سے ساری مخلوق سے</p> <p>الفاضل سب عربوں سے واضح تر ازونہ</p>	<p>الطيب سب انبیاء سے افضل</p> <p>الفاضل سب انبیاء سے افضل</p> <p>الحنيف حساب کے اعتبار سے ساری مخلوق سے</p> <p>الفاضل سب عربوں سے واضح تر ازونہ</p>
<p>الطيب سب انبیاء سے افضل</p> <p>الفاضل سب انبیاء سے افضل</p> <p>الحنيف حساب کے اعتبار سے ساری مخلوق سے</p> <p>الفاضل سب عربوں سے واضح تر ازونہ</p>	<p>الطيب سب انبیاء سے افضل</p> <p>الفاضل سب انبیاء سے افضل</p> <p>الحنيف حساب کے اعتبار سے ساری مخلوق سے</p> <p>الفاضل سب عربوں سے واضح تر ازونہ</p>
<p>الطيب سب انبیاء سے افضل</p> <p>الفاضل سب انبیاء سے افضل</p> <p>الحنيف حساب کے اعتبار سے ساری مخلوق سے</p> <p>الفاضل سب عربوں سے واضح تر ازونہ</p>	<p>الطيب سب انبیاء سے افضل</p> <p>الفاضل سب انبیاء سے افضل</p> <p>الحنيف حساب کے اعتبار سے ساری مخلوق سے</p> <p>الفاضل سب عربوں سے واضح تر ازونہ</p>

خير النسل سب نسلوں سے عزت والا ازونہ

الطيب سب انبیاء سے افضل

الفاضل سب انبیاء سے افضل

الحنيف حساب کے اعتبار سے ساری مخلوق سے

الفاضل سب عربوں سے واضح تر ازونہ

الدلیل علی سبیل النجاة
راہِ نجات کی طرف رہنمائی فرمانبردار

قربانیت القربان
قربانیت کی قربت و قبولیت

مُقْبِلٌ لِحَبِطَاتِ الطَّيِّبَاتِ
خطا میں سے بچنے والے

اشرف الخلق نسما
مہنگوں سے بڑگ نسب والے

تسبب تباہی
مصیبتوں کو دور کرنے والے

مظہر البجلائات بانوار
پتھر کی مانند روشن کرنے والے

میرات الارکات
تمام ارادوں کی مراد

دوام السعادات
موجودات کے بطن و حقیقت

بِقَبُولِ الْمَجُودَاتِ
موجودات کی قبولیت

صاحب الخوارق العسادات
خوارق عادات (معجزات) والے

<p>مشرق السعادات مشرق ساداتوں کے</p>	<p>سید المومنون موجودات کے سر</p>
<p>الثاقل من شراب المشاهدة الثقل کے مشاہدوں کی شراب مشاہدہ</p>	<p>واسطة نظام المومنون واسطہ نظام مومنون کا نقطہ</p>
<p>غيت السادات غیت سادات کے</p>	<p>مفاتيح حروف المومنون مفاتیح حروف مومنون کے</p>
<p>مغرب اسماء اللغات مغرب اسماء اللغات کے</p>	<p>صفا لافح الظاهرات صفا لافح الظاہرات کے پوشیدہ ہونے کا مقام</p>
<p>مقبيل العنات مقبیل العنات کے</p>	<p>السابق بالخيرات السابق بالخیرات کے بڑھنے والے</p>


الْبِجَامِعِ لِدَوَائِرِ الْخَيْرَاتِ

خیرات کے دائروں کے جامع

عیبوں کو چھپانے والے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	دَوَائِرِ الْعَوْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
غلیظوں کو اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	سب مجاہدوں سے بہتر اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
زیادہ نشانی اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	خَيْرِ الْخَيْرَاتِ وَالْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
غنی خیرات اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	تورات میں بشارت دینے والے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
نہایت کی بات اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	سب سے زیادہ بشارت دینے والے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
اشارت اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	بِجَامِعِ الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
اقتدار اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	حَسَنَ الْيَوْمِينَ مِنَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مہجرت اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	سادات سردار اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مہجرت اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	رہی ہجرت والے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مہجرت اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	ایام میں اور تمام آؤں میں اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مہجرت اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	مہجرت کی موج بیکراں اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مہجرت اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	مہجرت اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مَشْرِقُ النُّوَارِ لِصِفَاتِ
 محل طلوع و اشراق ہیں انوارِ صفات کے لئے

الْمُعْجِزَاتُ بِمُعْجَزَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> زياره معجزات والے	كثيرة المعجزات <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> افضل ازوتے
مَجْمَعُ الْقِبَضَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> خلافت کو جامع کرنے والے	الانبياء معجزات <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> انبیاء معجزات
عَالَمِ الْخَوَارِقِ وَالْمَقْطَعَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> عجز و تعجب سے قطع کرنے والے	افضل الامور <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> افضل نمازوں والے
مَعْمُودِ الصِّفَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> حسیہ اوصاف	افضل الاعمال <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> تمام عبادت کا مبدؤ
مَشْرِقُ النُّوَارِ لِصِفَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> محل طلوع و اشراق ہیں انوارِ صفات کے لئے	
مَرَاتِ الْذَاتِ الصِّفَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> صفات سے مراد	ظاہر الصِّفَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> ظاہر در روشن صفات والے
مَنْعِي الْغُفُوفِ الصِّفَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> غیبت سے محفوظ رکھنے والے	عَدَسٌ بِجَلَالِ صِفَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> اللہ کی صفات کے منظر کامل
بِحَبِيْبِ الصِّفَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> تجلیات صفات	مَجَلِي الْذَاتِ الصِّفَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> خداوندی کے مرضی عظیم
الْمُنْفَعِ مِنَ الْاَفَاتِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> ہولناکیوں سے محفوظ رکھنے والے	ذات صفات خداوندی کی تجلی گاہ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small>



**نور الآيات
البيّنات**
روشن آيات کا نور

<p>حکایہ الکرامات کرامات کے حکایات</p>	<p>الکرامات بالکرامات بزرگیوں کے سبب کرامات</p>
<p>المنقذ من العتات عتات سے بچانے والے</p>	<p>المنقذ من العتات رجح و الم سے بچانے والے</p>
<p>الفارق بین الوجود والعدم وجود و عدم کے درمیان اور عدموں کے درمیان</p>	<p>الفارق بین الوجود والعدم اہل عظمت کے فریاد رس</p>
<p>الکلیات شریعتیہ شرعی کلیات</p>	<p>الکلیات شریعتیہ پیغمبروں کی جمیع کتب و سنوئیلے</p>
<p>المؤید بالآیات البینات زیادہ دلائل والے</p>	<p>المؤید بالآیات البینات کثیر البینات</p>
<p>حکایہ البینات بینات کی حکایات</p>	<p>حکایہ البینات بینات کی روشن آيات کے ساتھ تقویت دین کے</p>
<p>زینة المکونات مخلوقات کی زینت</p>	<p>زینة المکونات بیٹوں و بیٹیوں والے</p>
<p>مظہر البہنات بہنوں کی تمام بہنات</p>	<p>مظہر البہنات خیر البہنات</p>

قَامِعِ الشُّهُوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ کو اچھڑنے والے خواہشات کو ختم کرنے والے	مُضَيَّبِ الْحَاجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ نبوتوں کے قضا و حاجات کا وسیلہ
مُبَارِكِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ دعاؤں والے بابرکت دعاؤں والے	مُطَوِّرِ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ موتوں کے طور
صَاحِبِ الْعَزَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عزتوں والے	مُزَكِّئِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ برائیوں سے بچانے والے
حَكِيمِ الْإِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ نشانوں والے	مُزَكِّئِ الْأَعْمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ کاموں کو سنبھالنے والے
القَائِلِ تَحْفَةَ الْيَوْمِ مِنَ الْمَوْتِ جنھوں نے کہا کہ موت یوں کیسے تھکے ہے	

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِّسَامِنُ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَوَلِيئِي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا
اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ ایابی کا

رَشْدًا رَبَّنَا أَمَّنَّا فَأَعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
سامان کر۔ اے اللہ ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی بہتر رحم کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِكَ وَعِقَابِكَ
اے اللہ میں تیرے کلماتِ تامہ کی پناہ لیتا ہوں تیرے غضب سے اور تیرے عذاب سے

وَشَرِّ عِبَادِكَ وَمِنْ مَهْمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ
اور تیرے بندوں کے شر سے اور شیطانی دوسوں اور اس سے کہ وہ (شیطان) میرے پاس بھی آئیں

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

(اے اللہ) قبول فرما اپنے نبی کریم کی عزت کے واسطے

اللّٰهُ لَا يَعْتَدُ قَلْبِي وَقُلُوبَ عِبَادِكَ إِذَا سَأَلَ شَيْءٌ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ

اے میرے الٰہ! میرا دل اور تمام بندوں کے دل اس پر اعتماد کے لئے تیار نہیں ہیں کہ جب تجھ سے

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يَنْبَغِي لِكَمَالِهِ مِنْكَ وَجَمِيعِ

کوئی شے نام محمد کے وسیلہ سے طلب کی جائے اور تو وہ عطا نہ کرے ان پر صلوة و سلام ہو تیری

عِبَادِكَ وَلَمْ تَعْطِهِ اِلَّا هِيَ فَاتِي الْعَاصِي الْمُدْنِبُ إِذَا سَأَلَكَ

طرف اور تیرے تمام بندوں کی طرف سے جیسے ان کے کمال کے لائق ہے۔ اے میرے الٰہ! کون سا گنہگار ہے

غَفْرًا أَنْكَ وَرِضَائِكَ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

کہ جس نے تجھ سے مغفرت اور رضامندی کا سوال کیا ہو بطفیغ نام محمد کے علیہ الصلوٰۃ والسلام

وَلَمْ تَغْفِرْهُ وَلَوْ تَرْضَى عَنْهُ اِلَّا هِيَ فَاتِي الْوَلَايَةِ وَالْعِلْمِ وَالْعُرْفَانِ

اور تو نے اسے بخشا نہ ہو اور اس سے راضی نہ ہو۔ اے میرے الٰہ! وہ کونسی ولایت اور علم و عرفان ہے کہ

إِذَا سَأَلَكَ سَائِلٌ طَالِبٌ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

جب کسی سائل و طالب نے تجھ سے طلب کیا ہو بوسیله اسم محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اور

وَمَا هَبَّتْهُ فَأَسْأَلَكَ يَا اِلٰهَ اَللّٰهُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

تو نے اسے عطا نہ کیا ہو تو میں بھی سوال کرتا ہوں اے اللہ بطفیغ اسم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ وَبَدَاتِهِ وَجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَبِكَمَالِ فَقْرِهِ فَأَعْطِنِي

اور ان کی ذاتِ اقدس کے اور تمام صفاتِ کمال کے اور ان کے کمال فقر کے پس مجھے بھی عطا

يَا اِلٰهَ مَا أَسْأَلُكَ وَأَقْضِ حَاجَتِي كُلَّهَا وَلَا تَكِلْنِي اِلَى

فرما اے اللہ! جو تجھ سے مانگتا ہوں اور پورا فرما میری تمام حاجات جو اور مجھے میرے نفس کے حوالے

نَفْسِي طَرْفَةً عَيْنٍ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْلَانِي كَلَامَةً

نہ فرما چھیننے کی دیر بلکہ اس سے بھی کم اور میری حفاظت فرما مانند حفاظت

الْوَالِدِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کرنے (اباء کے) اولاد کی بطفیغ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

سردار کوئین نے فرمایا اے اللہ ہریرہ! اچھی چیز جو بھی کرتا ہے اسے
تھیرو سمجھو اگر چہ اپنے ڈول سے پانی لینے والے کے برتن میں کچھ پانی
بھی ڈال دے کیونکہ یہ اچھے کاموں سے ہے۔ اور اچھائی ہر ایک بڑی ہے
اور چھوٹی اچھائی کا ثواب جنت ہے۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروں دروہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبِي يَا قَوْمِي يَا بَشَرِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي قَطْرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْرِمْهُ الْكِرَامِ الْمَكْرَمِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُعَدَّنِ
التَّجَلِّيَّاتِ

تجلیاتِ خداوندی کا سرچشمہ

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

السَّقِيِّ مِنْ
أَسْرَاتِ

الْقُدْسِيَّاتِ

سیراب کئے گئے مقدس خانوادوں کے شیرے

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُظْهِرِ
الْمُخْفِيَّاتِ

یعنی نور کو ظاہر کر نیوالے

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَافِرِ
الْبَلِيَّاتِ

مہینوں کو دور کر نیوالے

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

خَاتَمِ
الْأَبْدِيَّاتِ

ابدی اشیاء کی انتہا

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُنْشَأِ
الْأُمُورِ

ازلی امور کے منشاء و مبداء

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَلِمِ
الْكَلِمَاتِ

تمام کلیات کی کلمی

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جَبَلِ طُورِ
التَّجَلِّيَّاتِ

تجلیاتِ الہیہ کے کوہِ طور

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سُلْطَانِ
الْبَدَايَا
وَالنَّهَايَا

تمام ابتداءوں اور انتہاؤں کے سلطان

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

قَابِ الْمَعَانِي
وَالْمَعْنَوِيَّاتِ

معانی اور معنوی امور کا جسم

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَثِيرِ
الْآيَاتِ

زیادہ نشانیوں والے

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَرْكَزِ
الْهَلَكِيَّاتِ

ہدایات کے مرکز

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

فَنَهْلِ حَوْضِ مُشَارِ جَمِيعِ التَّجَلِّيَّاتِ

سرچشمہ میں واسطے تمام تجلیات کے گھاٹوں والے حوض کے

وَعَلَىٰ آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُسْتَقِيِّ مِنْ أَسْرَارِ الْقُدْسِيَّاتِ

عالمِ قدس کے اسرار کو نوش فرمائیے

وَعَلَىٰ آلِهِ

<p>اللهم صل على مُطَلَعِ التَّجَلِّيَّاتِ تجلیات کے مطلع</p>	<p>اللهم صل على جَبَلِ قَافِ عَظِيمَةٍ التَّجَلِّيَّاتِ تجلیات عظیمہ کے کوہ قاف</p>
<p>اللهم صل على نَسِيمِ الحَيَّاتِ روح حیات</p>	<p>اللهم صل على صَاحِبِ المُسْمِيَّاتِ سمیات کے مالک</p>
<p>اللهم صل على مُجْتَمِعِ الْأَسْمَاءِ وَالْمُسْمِيَّاتِ اسماء وسمیات کے عمل و اجتماع</p>	<p>اللهم صل على صَاحِبِ الْفُتُوحَاتِ فتوحات کے مالک</p>
<p>اللهم صل على النُّورِ الْفَالِقِ لِلظُّلُمَاتِ تمام ظلمتوں کو بھارتیو لا محسوم نور</p>	<p>اللهم صل على صَاحِبِ الْجَمِيَلَاتِ خوبصورت خیرات والے</p>
<p>اللهم صل على مَنْ ذَاةُ أَشْرَفِ الذُّرُوفِ جسکی ذات تمام ذالوں سے معزز ہے</p>	<p>اللهم صل على مَرْفِيعِ الدَّرَجَاتِ بلند درجات والے</p>
<p>اللهم صل على الَّذِي هُوَ مُعَدَّنُ جَوَاهِرِ الْوُجُودَاتِ وہ ذات جو موجودات کے جوہر کی کان ہیں</p>	<p>اللهم صل على الْقَادِمِي إِلَى رُوضَاتِ الْجَنَّاتِ جنتوں کے بیروزاروں کی طرف پہنچانے والے</p>
<p>اللهم صل على الْأَمْرِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الرُّوحَانِيَّاتِ بیویوں کے درمیان عدل کا حکم دینے والے</p>	<p>اللهم صل على سَلْمِ الرِّقَابَاتِ غلاموں کو چھڑانے والے</p>

عَظَمَ
لِكَسَنَاتِ

عظیم نیکیوں والے

ﷺ

المُسَارِعِ
لِخَيْرَاتِ

بھلائی کے کاموں میں جلدی
کرنی والے

ﷺ

رئيس الكل
في الحضرات

جو رئیس اعظم ہیں
حضور یوں میں

ﷺ

نور الجنات

جنتوں کے لئے نور مجسم

ﷺ

الجامع بنوياً
لجميع
النبوات

جامع ہے
وہ جسکی نبوت تمام نبیوں کی

ﷺ

الجامع بولاية
لجميع الولايا

وہ جس کی ولایت تمام
ولایتوں کی جامع ہے

ﷺ

حصن
المسلمين في
السرايد وازقات

سختیوں اور تنگروں میں
مسلمانوں کی پناہ گاہ

ﷺ

فاتحة كتب
الالهيات
والصفات

کتاب الہی اور صفات الہیہ
کا آغاز

ﷺ

الدُّرُّ الرَّاقِي
فِي الْحَيَاةِ
وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

زندگی اور فقا کے دائمی ترقی
والے

ﷺ

فرد الاحاطات
والكمالات

حاطہ (علوم و معارف میں)
اور کمالات میں سیکتا

ﷺ

مُظَهَّرِ
دَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ
وَالصِّفَاتِ

اسماء و صفات باری تعالیٰ کی
باریگیوں کا منظر

ﷺ

سائر السموات

آسمانوں کی زینت

ﷺ

مِنْهُمْ الرَّغَبُ بِكَ

چاہتوں کی انتہا

ﷺ

صاحبِ البعوثات

بعثت والے

ﷺ

الَّذِي هُوَ
بَدْرٌ لِيَا لِي
التَّعِينَاتِ
وہ جو تعینات کی راتوں کا چاند ہے

عِبْرَةُ التَّفَكِّرِينَ
وَيُدَيْعُ
مَصْنُوعَاتِ
عجیب و غریب مخلوقات میں غور و فکر کرنے والوں کیلئے عبرت

بَابِ
الْهِدَايَاتِ
ہدایات کا دروازہ

الَّذِي هُوَ
الَّذِي هُوَ
الْحَمِيدُ
جن کی صدا تعریف کی ہوتی ہیں

جَالِي
الظُّلُمَاتِ
گمراہیوں کو دور کرنے والے

الْمُرِيبَاتِ
النَّاهِي عَنِ
الْتِّجَالِيسِ
عَلَى الطَّرِيقِ
راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمانے والے

مُدْهِبِ
الْكُرْبَاتِ
نکالیف کو دور کرنے والے

الَّذِي هُوَ
الَّذِي هُوَ
الْحَمِيدُ
نفل نمازوں کو گھر میں ادا کرنے کا حکم دینے والے

جَالِي
الْأَفَاتِ
آفتوں کو دور کرنے والے

الْمُرِيبَاتِ
الْمُرِيبَاتِ
الْمُرِيبَاتِ
اوقات کی حفاظت کا حکم دینے والے

ابْنِ
الْمُحَصِّنِينَ
پاک مردوں اور پاکیزہ خواتین کے نورِ نظر

ابْنِ
الْمُحَصِّنِينَ
پاک مردوں اور پاکیزہ خواتین کے نورِ نظر

رَأَيْدٍ
عَنِ التَّصْدِيقَاتِ
تصدیقات کی رسائی سے بالاتر

خَارِجٍ
عَنِ إِحَاطَةِ التَّصَوُّرَاتِ
احاطہ تصورات سے باہر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السَّبَبِ فِي
نَيْلِ الْبَاقِيَاتِ
الصَّالِحَاتِ

باقی رہنے والی نیکیوں کو پانے
کا ذریعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شَهَابِ قَبَسِ
الْعِنَايَاتِ

عنايات کے نور کا شعلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاسِطَةِ الْاَرْبَابِ
بَيْنَ الدَّاتِ
وَالصِّفَاتِ

ذات صفات کے درمیان رابطہ کا ذریعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لِحَمْدِ الدَّاتِ
وَالصِّفَاتِ

ذات صفات کی سب سے زیادہ
حمد کو نواہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الَّذِي
لَا يَكْنَهُةٌ
نَاعَتٌ

کوئی تعریف کر نہ لے سکتی
حقیقت کو نہیں پاسکتی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

التَّالِي عَنِ
اِتِّبَاعِ
الشَّهَوَاتِ

نفسانی شہوت سے منکر کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَقُطْبِ شَهَابِ
قَبَسِ الْعِنَايَاتِ

نور کے مرکز میں عنایا الہیہ
کے درمیان نور کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُظَهَّرِ نَوَاسِرِ
التَّجَلِّيَّاتِ

انوار تجلیات کا مظہر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْمُجَدِّ
الْمُجْرَدَاتِ

موجودات میں بزرگ ترین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمَلْبَجَا
فِي الْمَسَامَاتِ

پریشانیوں میں پناگاہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْاَسْتِحْقَامِ
اَلْحُلُقَاتِ

حلقوں کو مضبوط فرمائیے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَسْتَامِ
اَلْكُرْبَاتِ

سخت مشکلات و مصائب والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْمُنْقِذِ مِنَ الْبَلِيَّاتِ

بلاؤں سے بچانے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَجْوِ السِّيَادَاتِ

حکومتوں کے ستارے

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>كثُرِ الصَّمَاتِ</p> <p>زیادہ خاموشی رہنے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>طَوِيلِ الصَّمَاتِ</p> <p>لمسی خاموشی والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْقَيْنَا</p> <p>اپنے اہل عیال پر مزح کر نیوالے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْقَيْنَا</p> <p>فرماں بردار</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُسْتَبْتِ</p> <p>ثابت قدم</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُسْتَبْتِ</p> <p>مؤمنین کو ثابت قدم رکھنے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُجِيدِ</p> <p>رجوع کر نیوالے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُوقِتِ</p> <p>میقات مقرر فرمایا والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>أَصْلِ مَلَايِئِ رَبِّي</p> <p>شانِ رحمت کے دار و مدار کی اصل</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>لَامِ الْأَصْوَتِ</p> <p>لاہوت کے لام</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>نُقْطَةِ حَضْرَةِ الْأَصْوَتِ</p> <p>دائرۃ لاہوت کا مرکزی نقطہ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>مَجْمَعِ حَقَائِقِ الْأَصْوَتِ</p> <p>حقائق لاہوت کے جمع</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>مُسْتَوْدِعِ خَزَائِنِ الرَّحْمَتِ</p> <p>رحمتِ کامل کے خزانوں کا محل و دلیت</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>قُوَّةِ قُوَّةِ الْبَهْمُوتِ</p> <p>قوت و توانائی ہیں کرجن کی ہمسری نہیں ہو سکتی</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>		

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ</p> <p>سَيِّدِ الْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ</p> <p>ملکوت کے سردار</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَسْرَارِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ</p> <p>سَيِّدِ الْأَسْرَارِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ</p> <p>اسرار ملکوت کے بنیاد</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُظَاهِرِ الْعَالَمِ وَحَايِئِكَ مَنظَرِ</p> <p>مُظَاهِرِ الْعَالَمِ وَحَايِئِكَ مَنظَرِ</p> <p>عالم روحانیت کے منظر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَسِّ جِدَارِ الْمَلِكِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ</p> <p>أَسِّ جِدَارِ الْمَلِكِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ</p> <p>اعلیٰ میں ایک ملکوت کی دیوار کے لئے بنیاد</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَنْعُوتِ</p> <p>الْمَنْعُوتِ</p> <p>تعریف کئے گئے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَصُوصِ اللَّوْلُوءِ وَالْبِاقِوَاتِ</p> <p>فَصُوصِ اللَّوْلُوءِ وَالْبِاقِوَاتِ</p> <p>لونوں اور باتوں کے بچنے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْوَجِيهِ فِي الْمَلِكِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ</p> <p>الْوَجِيهِ فِي الْمَلِكِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ</p> <p>جو آبرو مند ہیں ملک ہر باطن کے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَوْرِ الْمَلِكِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ</p> <p>نَوْرِ الْمَلِكِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ</p> <p>ملک ملکوت کا نور</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُظَاهِرِ الْأَصْوَاتِ وَالْجَبْرُوتِ</p> <p>مُظَاهِرِ الْأَصْوَاتِ وَالْجَبْرُوتِ</p> <p>عالم تجر اور صفات جلال کے منظر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَصْلِ مَدَارِ مَبْنَى الْجَبْرُوتِ</p> <p>أَصْلِ مَدَارِ مَبْنَى الْجَبْرُوتِ</p> <p>شان جبروت کے دار مدار کی اصل</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَوْنِ النَّاسُوتِ</p> <p>نَوْنِ النَّاسُوتِ</p> <p>ناسوت کے نون</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَرِّ خَلْقِ النَّاسُوتِ</p> <p>سَرِّ خَلْقِ النَّاسُوتِ</p> <p>عالم اجسام کی تخلیق کا راز سررہستہ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِينِ الرَّغَبُوتِ</p> <p>أَمِينِ الرَّغَبُوتِ</p> <p>اللہ کی طرف رغبتوں کے امین</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْجَبْرُوتِ</p> <p>سَيِّدِ الْجَبْرُوتِ</p> <p>جبروت کے سردار</p>		

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
حَسَنِ الصَّوْتِ

حسین آواز والے

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرَّاهِ الْبُرَيْتِ

راہ دکھانیوالے ماہر

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبَلَّيْتِ

جامع کلام کرنیوالے

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَمِينِ

خشیتوں کے امین

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَفِيعِ الصَّوْتِ

اوپنی آواز والے

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَكْبَرِ الصَّوْتِ

اوپنی آواز والے

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَفْضَلِ مَنْ

بیت اللہ کے

حجاج سے افضل

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْغَيْثِ

بارش کی طرح سخی

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسْتَعِيثِ

فریاد کرنیوالے

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُتَحَنِّتِ

بہت زیادہ عبادت گزار

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْيَتِّ

بہادر شیر

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْحَدِيثِ

اچھی گفتگو کرنیوالے

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
قَاسِمِ الْمِيرَاثِ

ورثہ تقسیم کرنیوالے

وَصَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَبْدِ الْغِيَاثِ

فریاد رس کے بندے

وَصَلِّ عَلَى

<p>الْمَنْزِلَةُ عَنِ التَّلَوِيثِ آلودگی سے پاک</p>	<p>الْمَامِرِ اَهْلِي التَّحْدِيثِ اہام کے جانوروں کے امام</p>	<p>الَّذِي اَعْطَى مَعْرِفَةَ شَيْتِ جن کو شیت علیہ السلام کی معرفت عطا کی تھی۔</p>	<p>الْخَيْرِ مُوروثِ بہترین وراثت</p>
<p>مُحَرَّمِ الْخَبَائِثِ بری چیزوں کو حرام کرنے والے</p>	<p>كُلِّ وَاْرثِ ہر وارث کے سردار</p>	<p>الْفَرَسِ فریاد سننے والے</p>	<p>الْمُسَبَّحِ پہجے گئے</p>
<p>صَاحِبِ الْبِعْثِ افواج و عساکر والے</p>	<p>طَرَفِ الْمُسَبَّحِ مخلوق کی طرف مبعوث</p>	<p>شَرِيفِ الْمِنْهَاجِ عمدہ راستے والے</p>	<p>رَفِيعِ الْاَدْرَاجِ بلند درجوں والے</p>
<p>عَلِيٍّ الْاَبْرَاجِ بلند برجوں والے</p>	<p>قُوَّةِ دَوَائِرِ النَّسَاجِ نیچر خیزی کے دائروں کی توانائی</p>		

بَحْرُ الْفَضْلِ
الْمُتَلَاظِمُ
وَالْأَمْوَاجُ
ظالم خیر اور موحین مارتا سمندر

بَحْرُ الشَّجَارِ
بحر بیسکراں

كَلْبُ الْقُرْبَةِ
مِنْ الْمَعْرَاجِ
معراج کی نزدیکوں والے

مِلَاءُ
الْفِجَاجِ
غالی دڑے کو بھر دینے والے

ذِي النَّجِّاجِ
عمامہ والے

رَافِعِ
الدَّاجِ
غلاموں کو بلند کرنے والے

نَعْمِ
الْمَعَالِجِ
بہترین طبیب

مِحْطِ الْعُظْمَةِ
بِالْأَمْوَاجِ
متلاطم موجوں والا عظمت کا سمندر

قُوَّةِ الْحَقِّ
الظَّاهِرَةِ فِي
جَمِيعِ
الْفِجَاجِ
تمام راستوں میں ظاہر ہونے والی حق کی قوت

السَّمْرِاجِ
الْمُهْرَجِ
چمکتا چراغ

مُفِيضِ
النَّجَاجِ
تجاج کا فیض دینے والے

الْأَمْوَاجِ
بِالْفُرُوجِ
شیرنگا ہونے کی حفاظت کا حکم دینے والے

مُبَارَكِ الْمَعْرَاجِ
باہرکت معراج والے

قَاطِعِ السَّجَاجِ
کاٹنے والے جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کے

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>النُّورِ السِّرَاجِ</p> <p>رُشش چراغ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْحَاجِّ</p> <p>حج کر نوالے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُخْصِصِ ذِي الْعُرَاجِ</p> <p>جو خاص کئے گئے صاحب معراج ہونے کے ساتھ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الْيَعْرَاجِ</p> <p>بیرھی پر چڑھنے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْبُرْجِ</p> <p>رُشش نمایاں</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْأَرْجِجِ</p> <p>سب سے زنی</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الْحَاجِّ</p> <p>حج والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>دَافِعِ الدَّجَجِ</p> <p>تاریکیوں کو دور کر نوالے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المُفْلِحِ</p> <p>فراخ دندان</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الفَلِجِ</p> <p>فراخ دندان مبارک والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْبَهَاءِ الْآبِجِ</p> <p>پر بہاؤ فرمایا</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْأَدْعَجِ</p> <p>سیاہ آنکھ والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>النُّورِ الْأَبْجِ</p> <p>نور روشن</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>		<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَبْجِ</p> <p>سفید رنگ والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>كَامِلِ</p> <p>الذَّاتِ</p> <p>کامل ذات والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>عَرْشِ</p> <p>اِسْتِوَاءِ</p> <p>الذَّاتِ</p> <p>ذات خداوندی کے استواء کا عرش</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>اَكْمَلِ</p> <p>الذَّاتِ</p> <p>اکمل ذات والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>جَمِيْلِ</p> <p>الذَّاتِ</p> <p>جمیل ذات والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>هَيْئَةِ</p> <p>اَلْفِ</p> <p>الْبَدَايَا</p> <p>سجادت و بدایات کی الف کا ہمزہ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>اَلْمُحِبُّوْبِ</p> <p>عِنْدِ اَلْقِيَمَةِ</p> <p>قیامت کے ہاں محبوب</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>عَبْدِ</p> <p>اَلْمُقِيْمَةِ</p> <p>قیامت کے بندے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>خَيْرِ</p> <p>اَلْكَائِنَاتِ</p> <p>کائنات کے بہترین</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>مُعْرَضِ</p> <p>عَنْ</p> <p>اَلْمُخَدَّرَاتِ</p> <p>منشیات سے اعراض کرنے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>اَلْبَاقِي</p> <p>بِاللَّهِ فِي</p> <p>جَمِيْعِ اَلْاَلَانِ</p> <p>جو باقی باللہ میں تمام احوال میں</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>اَلْفَانِي</p> <p>فِي اللّٰهِ فِي</p> <p>كُلِّ اَلْاَوْقَاتِ</p> <p>جو فنا فی اللہ میں تمام اوقات میں</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>مُثَقِّلِ</p> <p>اَلْكِسْفَاتِ</p> <p>نیکیوں کو بھاری کرنے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>رَافِعِ</p> <p>اَلْمَقَامَاتِ</p> <p>مقامات کو بلند کرنے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>اَلْمُسْتَجِي</p> <p>مِنْ</p> <p>فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا</p> <p>و اَلْمَمَاتِ</p> <p>موت و حیات کے فتنے سے نجات دینے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>		

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَلِكِ الْكَمَالِ</p> <p>کمال کے شہنشاہ</p> <p>وَعَلَى</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مُسْتَدِيرٍ عَلَى حَقَائِقِ الْمَلَكُوتِ</p> <p>ملکوت کے حقائق پر محیط</p> <p>وَعَلَى</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُخْتَارِ الْكَثْرَةَ وَالْمُعْجَزَاتِ</p> <p>کثیر معجزوں کیلئے چنے ہوئے</p> <p>وَعَلَى</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُخْتَارِ لِلْكَرَامَاتِ</p> <p>بزرگیوں کے لئے چنے ہوئے</p> <p>وَعَلَى</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مُبْلَغِ الْقِصَى الْغَايَاتِ</p> <p>آخری حد تک پہنچانوالے (خیرات میں)</p> <p>وَعَلَى</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مُكْسِرِ شُرُورِ الشَّهَوَاتِ</p> <p>بُری خواہشات کو قطع کرنے والے</p> <p>وَعَلَى</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُبَاعِدِ مِنَ اقْتِرَابِ الْآفَاتِ</p> <p>قرب آفات سے بچانوالے</p> <p>وَعَلَى</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَلِكِ الْمُعْجَزَاتِ</p> <p>معجزات کے شہنشاہ</p> <p>وَعَلَى</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>كَالِدِ الْكَلِيلِ النِّجَاتِ</p> <p>دلیل نجات کی دال</p> <p>وَعَلَى</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>خَاءِ خِيَرَاتِ الْخَيْرَاتِ</p> <p>خیرات کی بہنوں کی خاء</p> <p>وَعَلَى</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مُهَوِّنِ الْمَشْكَلَاتِ</p> <p>مشکلات کو آسان فرمائینوالے</p> <p>وَعَلَى</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مُهَوِّنِ الْمَوْتِ</p> <p>موت کی دردناکیوں کو سہل فرمائینوالے</p> <p>وَعَلَى</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>بَاءِ بَرْهَانَ الدَّلَالَاتِ</p> <p>دلالاتِ خلدندی کے برہان کی باء</p> <p>وَعَلَى</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>تَاءِ تَكْوِينِ الْمَكُونَاتِ</p> <p>تکوین کائنات کی تاء</p> <p>وَعَلَى</p>		

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>شَافِعِ السَّمِجِ</p> <p>برسی عا دالوں کی شفقت کرنیوالے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الْفَرَجِ</p> <p>تکلیف کو دور کرنیوالے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>السُّدَادِ الْبُؤَابِ الْفُرُجِ</p> <p>غموں کے دروازوں کی بندش</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>فَضِيلَةَ الْفَرَجِ</p> <p>کشا تش کا موجبِ فضل</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْأَنْزَجِ</p> <p>دراز اور باریک بروں والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمَشْبُوجِ</p> <p>زخمی ہونے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الْعُرُوجِ</p> <p>بلندی والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>نَتِيجَةَ النَّتَاجِ</p> <p>نتائج و مقاصد کا نتیجہ حاصل</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اے ہمارے

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَيْرٍ لَقِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَهُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

اے اللہ (ساتوں) آسمانوں کے پروردگار اور زمینوں کے پروردگار تو اپنی مخلوق کے شر سے میرا محافظ بن جا کہ ان میں سے کوئی مجھ پر ظلم نہ کرے۔ تیرا پناہ دیا ہوا شخص (ہی غالب رہتا ہے۔ اور تیرا ہی نام برکت والا ہے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ

اے اللہ (ساتوں) آسمانوں کے پروردگار اور زمینوں کے پروردگار تو اپنی مخلوق کے شر سے میرا محافظ بن جا کہ ان میں سے کوئی مجھ پر ظلم نہ کرے۔ تیرا پناہ دیا ہوا شخص (ہی غالب رہتا ہے۔ اور تیرا ہی نام برکت والا ہے۔

أَمِينٌ بِحَاہِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

(اے اللہ) قبول فرما اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے طفیل

سرور کو نین ﷺ نے فرمایا: اے اللہ ہرگز! جس نے پاک دامن مرد یا
 عورت کو ہر کی تہمت لگا کی۔ بروز قیامت داد کی خیال میں تیر کیا جائے گا
 یہاں تک کہ پہ لطف الہی کا لا جائے گا یا پھر اپنے گے پر دلیل لائے
 گا۔ عرض کی کہ داد کی خیال کیا ہے؟ فرمایا جہنم میں ایک دادی ہے جہاں
 اٹل دودھ کی پیپ اور گند کی جمع ہو کر رکھے گی۔

دل کرو ٹھنڈا مرا وہ کف پا چاند سا

سینہ پہ رکھ دو ڈرا تم سے کروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيدُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا وَجِدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ
الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِحَالِ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِقِينَ وَالْأَلْمِ وَالْمُتَعَبِّينَ الْكَثِيرِينَ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْثَرِ لَهُ الْكَمَالَ الْمَكْرَبَ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
قَاضِي
الْحَوَائِجِ
حاجات کو پورا
کرنیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
الْبُرُجِ
مضبوط قلعه

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
رَاجِ
امیدوار

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
الَّذِي كَرِهَتْهُ
مَمْنَةٌ هَاجٍ
جن کا راستہ
کھلا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
الَّذِي سِرَّجُهُ
وَهَّاجٌ
جن کا چراغ
روشن

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
أَظْهَرَ الْخَلْقِ
عِزًّا وَنِتَاجًا
نتیجہ اور عزت کے اعتبار سے ساری
مخلوق سے
واضح

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
أَقْوَمَ النَّاسِ
مِنْهَا جَا
ظہیر درستی کے اعتبار سے ساری
مخلوق سے
قوی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
أَقْوَمَ النَّاسِ
شَرَعَةً وَمِنْهَا جَا
سب لوگوں سے زیادہ مضبوط
دیباچہ اور طریقہ
اور راستہ والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
ضَالِّعِ
الْقَوْمِ مَفَاجًا
کٹاؤں سے اور دانتوں کے
درمیان مناسب
کٹاؤں والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
الزَّامِحِ
نیزہ والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
النَّاصِحِ
اُمت کے خیر خواہ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
الْمُصَالِحِ
مسلم کو نیکو

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
الْفَاتِحِ
مملکوں کو فتح کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
النَّبِيِّ
الْمُصَالِحِ
صالح نبی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
النُّورِيِّ
الطَّامِحِ
بلند و بالا روشنی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ
الْمُصَالِحِ
درگزر فرمانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْفُرُوجِ
 فرحت بخش

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُصَانِحِ
 عطیہ کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُصَافِحِ
 مصافحہ کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُصَلِّ
 نیک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
عُرْوَةِ الْأَرْوَاحِ
 ارواح کے دُولہا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُصْلِحِ
 اصلاح کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُفْلِحِ
 فلاح پانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
جَنَّةِ الرُّوحِ
 رُوح کی جنت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
ذِي الْفَتْوحِ
 ملکوں کو فتح کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
كَاتِبِ الْمَصَالِحِ
 صلاح کا معاہدہ لکھنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
ذَوِ الْأَعْيُنِ الْفَاتِحِ
 فتح کا بلاوا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
صَاحِبِ الْقُدْحِ
 پیالے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
صَاحِبِ الصِّدْرِ الْمَشْرُوحِ
 شرح صدقے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الرُّوحِ الْبَرِّ
 پاک روح

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
النَّبِيِّ مَوْجِ الصَّفْوِجِ
 درگزر کرنے والے نبی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الرَّسُولِ النَّصِيحِ
 نصیحت فرمانے والے رسول

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّفْوَحِ در گزر کر نیوالے غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ كَثِيرِ الصَّفْوَحِ زیادہ در گزر کرنے والے غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ أَبْرَ الْأَخْيَارِ الْفُرُوحِ جو محسن ہیں فرحت بخش خوش اطواروں سے زیادہ غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ خَيْرِ الْأَبْرَارِ الْمُتْلُوحِ تمام پرکشش نیکو کاروں سے بہتر غنیہ والہ و سید</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ تَاجِ الْمُدَاخِ صفات مدح کے تاج غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ خَيْرِ رِأْسِ بہترین پچھلے وقت آنے والوں سے غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ نَبْعَةِ الْمُتْلَمَّحِ جود و عطیات کا سرچشمہ غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُتَمِنُوحِ عطا فرمائے گئے غنیہ والہ و سید</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُتَشَقِّحِ تعریف کئے گئے غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُسَبِّحِ تسبیح کر نیوالے غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ عَنْ الْمُتَكَلِّحِ عین مدح و ثناء غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ رَبِّ الْمُتَكَلِّحِ تعریفات کی زینت غنیہ والہ و سید</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُوتِي مُفَاتِيحِ تمام جہانوں کی کنجیاں عطا کئے گئے غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُكَلِّحِ نہایت خوبصورت غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُسَبِّحِ مُبَاحِ کر نیوالے غنیہ والہ و سید</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ مُعْطِي الْمُفَاتِيحِ تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کئے گئے غنیہ والہ و سید</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الرَّجِيحُ
افضل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
المَشِيحُ
فراخ سینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
المَسِيحُ
مبارک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
شَافِعُ
السَّيِّحُ
بدعات لوگوں کی شفاعت کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
حَبَابُ الْقَدْرِ
الرَّجِيحُ
املی بزرگی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
بَشْرِي
المَسِيحُ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الصَّيْحُ
صاحب جمال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الفَصِيحُ
فصاحت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
المِفْتَاحُ
کنجی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الفِتَاحُ
فتح کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الفَلَاحُ
بڑے کامیاب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
حَبَابُ الْحَقِّ
الصَّريحُ
واضح حق والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
حَبَابُ النُّورِ
الْوَضَّاحُ
واضح نور والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الدَّاعِي
إِلَى الصَّلَاحِ
صلاح کی طرف بلانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
المُرْشِدُ
إِلَى الفَلَاحِ
کامیابی کی طرف رہنمائی فرمانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
المِصْبَاحُ
روشن چہرہ

<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مُعِينِ الْفَرَّاحِ</p> <p>خوشحالی کا چشمہ</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>سَيِّدِ الْمِلَّةِ</p> <p>خوش مزاج والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>الْجَامِعِ بِرُوحِهِ لِجَمِيعِ الْأَرْوَاحِ</p> <p>وہ جس کی روح تمام ارواح کی جامع ہے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الْأَرْبَابِ</p> <p>نفع والے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مُدْعُوِّ الْفُلُوحِ</p> <p>کامیابی کی طرف بلا نیوالے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>سَبَبِ الْفُلُوحِ</p> <p>کامیابی کا سبب</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مَعِينِ الصَّلَاحِ</p> <p>بہتری کا چشمہ</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مُعِينِ الْفُلُوحِ</p> <p>کامیابی کا چشمہ</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مُدْعُوِّ الصَّلَاحِ</p> <p>بہتری کی طرف بلا نیوالے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مُدْعُوِّ الْفَتْحِ</p> <p>فتح کی طرف بلا نیوالے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مُدْعُوِّ النَّجَاحِ</p> <p>نجات کی طرف بلا نیوالے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مُدْعُوِّ الْفَرَّاحِ</p> <p>خوشیوں کی طرف بلا نیوالے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>قُوَّةِ الْأَرْوَاحِ وَالْأَشْبَاحِ</p> <p>مجسم قوت ارواح و اجسام کی</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>نُورِ بَشَائِرِ الصَّبَابِ</p> <p>صبح کی خوش خبریوں کا نور</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مِفْتَاحِ خَلْقِهِ الْفَتْحِ</p> <p>اللہ کی تخلیق کی جانی</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>عَنْبَرِ الْفُؤَادِ</p> <p>خوشبودوں کا خاوصہ</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
فَاتِحِ تَقْدِيرِ
الْفُتُوحِ
اللہ تعالیٰ کی تقدیر
کھولنے والے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
حَامِي جُومَةٍ
أَمْرِ الْأَشْبَاحِ
حامی ہیں اشباح و اجسام کے
عظیم اصل جوہر کے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مُفِيضِ النُّورِ
عَلَى الْأَشْبَاحِ
نور کا فیض پہنچانے والے
اجسام پر
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مُنْعِشِ
الْأَشْبَاحِ
اجسام کو خوشحال
کرنیوالے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
أَمْسَاحِ
الْفُرَاحِ
فرحت منخوشی کی
نمکینی و چاشنی
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
كَوْكَبِ
النَّجَاحِ
نجات کا
ستارہ
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مَقَامِ
النَّجَاحِ
مقام نجات
کے راز
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
صَبْحِ
النَّجَاحِ
نجات کی
صبح تاباں
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
يَا قُوَّةَ
الْفَلَاحِ
کامیابی کا
یا قوت
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
جَوْهَرِ
الصَّلَاحِ
درستگی
کا جوہر
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مِفْتَاحِ
الْفَلَاحِ
کامیابی کی
چابی
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
نَزَاكِي الرُّوحِ
بِالْأَفْرَاحِ
پاکیزہ روح والے (ارواح کی)
فرحت کے سبب
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
قُوَّةِ
الصَّلَاحِ
اجسام کیلئے بہتری
کا سامان
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
قُوَّةِ
الْأَشْبَاحِ
اجسام کیلئے
قوت کا سامان
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
سِرِّ مَقَامِ
الصَّلَاحِ
درستگی کے مقام
کا راز سرستہ
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْحَيَاءِ فِي وُجُوهِ
أَهْلِ الصَّلَاحِ
پاکبازوں کے چہروں کی حیا
کی علامت
علیہ وآلہ وسلم

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ كُوكَبِ الْفَلَاحِ کامیابی کے تارے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْنَحَةَ الْفَلَاحِ فلاح کے بازو</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ المُخْصِوَصِ بِالْفَلَاحِ کامیابی کیسے مخصوص</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ قُوَّةَ دَوَائِرِ الْفَلَاحِ کامیابی کے دائروں کی قوت</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ رُوحَ أَثِيرِ الْأَرْوَاحِ روحوں کی روح مکرم</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُصْبِحَ الْأَرْوَاحِ ارواح کیسے روشن چراغ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ قُوَّةَ الْأَرْوَاحِ ارواح کے لئے باعث قوت</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ غَيْثَ السَّحَابِ سحاب کی موسلا دہار بارش</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُهْدِيَ الْأَرْوَاحِ ارواح کی مدد کرنیوالے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ حَاوِيَ حَضْرَةَ أَبِي الْأَرْوَاحِ ارواح کے اصل مبداء کے محیط</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُنَوِّمِ الْأَرْوَاحِ ارواح کو منور کرنیوالے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طِبِّ الْأَرْوَاحِ روحوں کے طیبیب</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الَّذِي عَطَى فَصَاحَةَ صَالِحٍ جن کو صالح علیہ السلام کی فصاحت عطا کی گئی</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ المَشْرِيمِ کشادہ سینے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ المَشْرِحِ بہت ذہین</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْأَمْدَاحِ لائق مدح</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي أُعْطِيَ
شَجَاعَةَ نُوحٍ
جن کو نوح علیہ السلام کی
شجاعت عطا
کی گئی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كُلِّ صَالِحٍ
سَعَادَةِ
ہر نیک کی سعادت
پانے والوں
سے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
إِمَامٍ مِّنْ
مَنْجَاوَأَفْلَاحٍ
نجات پانیا والوں اور فلاح
پانے والوں
سے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
إِمَامٍ مِّنَ التَّقَى
وَأَمَلِهِ
اہل تقویٰ اور مصلحین
کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَطْيَبِ
النَّاسِ رِيحًا
تمام لوگوں سے زیادہ
خوشبو دار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَبْلَغِ الْخَلْقِ
لِلْخَلْقِ مَصْحًا
سب مخلوق سے زیادہ مخلوق
کے لئے خلوص
دعہ دہی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَحْفَظِ
النَّاسِ جَنَاحًا
سب محفوظ جوانب اور
پہلوؤں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَكْرَمِ
النَّاسِ صَفْحًا
سب بزرگ و مکرم چہرے
والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَكْرَمِ الْخَلْقِ
تَجَاوَزًا وَسَمَاحًا
ساری مخلوق سے بزرگ تر
از روئے درگزر
اور سخاوت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
هَادِي
الْمُضِلِّينَ إِلَى
طَرِيقِ الْفَلَاحِ
فلاح کے راستوں کی طرف
گمراہوں کو ہادی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّاطِحِ
بُتُونٍ كَوْتِهٍ طَنَ وَالِي
بٹوں کو تہہ طنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّاسِخِ
پچھلی شریعتوں کو منسوخ
کرنی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرَّاسِخِ
پختہ مسلم والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبَدِيبِ الْبَادِحِ
بلند و بالا بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَخْوَانِهِ
اخوناخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
السَّيِّدِ
الْشُّيُوخِ
شیوخ کے سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عِزِّ الْكَبِيرِ
الشَّامِخِ
مہلند و بالا مقام والے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَشَاخِ
المَشَاخِ
مشاخ کے رہنما
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
القَدَمِ الزَّائِحِ
پُتختہ قدم والے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَخْرَمَاخِ
درست اسلام والے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّجْمِ
الْوَقَادِ
کوہ وقار اور علیہ وآلہ وسلم
رہن تارے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الجَوَادِ
بہت زیادہ سخاوت کرنے والے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَحْمَدٍ
بہت تعریف کرنے والے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُنْقَادٍ
صاحبِ جود
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كَأَيِّمِ الْجِهَادِ
ہمیشہ جہاد کرنے والے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَحَادٍ
سہ داری میں واحد
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَادٍ مَادٍ
ستورہ صفا
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الجَوَادِ
بزرگ سخاوت
کرنے والے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
المَسْكِ
ہدایت فرمانے والے
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نُورِ البِلَادِ
شہروں کے نور
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي دَعَاؤُهُ
لَا يَرُدُّ
جن کی دعا رد نہیں ہوتی
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي فَضْلُهُ
لَا يَحْدُ
جن کے فضل کی کوئی حد نہیں
علیہ وآلہ وسلم

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>صَّاحِبِ الْجِهَادِ</p> <p>جہاد کرنے والے</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>الْعِمَادِ</p> <p>ستون</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>الْأَوَّلِ فِي الْإِيْجَادِ</p> <p>ایجاد میں اول</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>وَادِي الزَّنَادِ</p> <p>روشنی کرنے والے</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>سَيِّدِ الْاَوْتَادِ</p> <p>اوتاد کے سردار</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>سَيِّدِ الزُّهَّادِ</p> <p>زاہدوں کے سردار</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>سَيِّدِ الْعَبَادِ</p> <p>عابدوں کے سردار</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>لِمُرْسَلِ بِمَصْلَاحِ الْمَعَادِ</p> <p>خزوی (دینی) زندگی کی بہتری کیلئے بھیجے گئے</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>صَّاحِبِ الشُّكَاكِ</p> <p>رُشد و ہدایت کے مالک</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>سَيِّدِ النُّوْرِ الْعِبَادِ</p> <p>نورانی بندوں کے سردار</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>الْاَسِّيَادِ</p> <p>سادات کے سردار</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>مِصْبَاحِ ضِيَاءِ الْفُؤَادِ</p> <p>قلوب کی نورانیت کیلئے نور کے چراغ</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>الْحَائِدِ</p> <p>امت کو آگ سے دور لے جانے والے</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>كَثِيْرِ الْجِهَادِ</p> <p>زیادہ جہاد کرنے والے</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>مُؤْصِلِ الْعِبَادِ</p> <p>بندوں کو رب تک پہنچانے والے</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا</p> <p>عَيْثِ الْبِلَادِ</p> <p>دنیا بھر کیلئے بارانِ رحمت</p> <p>عَلَيْهِ وَالْوَٰلِدَيْنِ</p>

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مُنْجِيٍّ مِنْ لَهْوِ وَعَيْدٍ بہر وعید کی دہشت سے نجات دینے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَئِيسِ اَهْلِ التَّفْرِيدِ اہل تفرید کے رئیس</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نِعْمَ الْحَبِيْدِ بہترین بندے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَئِيسِ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ اہل توحید کے رئیس</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سِرَاجِ ضِيَاءِ الْفُؤَادِ قلوب کی نورانیت کیلئے آفتاب</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَاحَةِ الْحَبَادِ عابدوں کی راحت</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَئِيسِ الْاَوْتَادِ اوتاد کے رئیس</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَئِيسِ الْبِلَادِ شہروں کے رئیس</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شَايِخِ الْحَبَادِ عابدوں کے شیخ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شَايِخِ الْاَوْتَادِ اوتاد کے شیخ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اَمَانَ الْبِلَادِ شہروں کی امان</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ زَيْنِ النَّهْمِ زاہدوں کی زینت</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ اِمْرَادِ کامل ترین مُرَاد</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْحَمَادِ حمد کرمیوالوں کی زینت</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مُنْجَا الْعِبَادِ لوگوں کیلئے جائے نجات</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَدْرِ السَّادِ ہدایت کے ماہِ تمام</p>

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
حَبِيبِ اللَّهِ
الْأَحَدِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
وَكَاكِ
الْوَدُودِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
زَيْنِ الْمَقَامِ
الْمَحْمُودِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
زَيْنِ الْأَسْعَابِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
صَاحِبِ
النُّزُلِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
ضِيَاءِ
الْأَحَدِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
نِعْمِ
السَّيِّدِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
تَامِرِ الْوُجُودِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
الَّذِي صُوِّرَ
مَتَعَدِّ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
الَّذِي تَوَجَّحَ
بِلَوَاءِ الْحَمْدِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُحِبُّوبِ
عِنْدَ الْمُعْتَدِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُحِبُّوبِ
عِنْدَ الْوَاحِدِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
جَالِي
الْفَسَادِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
الَّذِي ذَاتُهُ
أَوْجَدُ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
الَّذِي أَمْرُهُ
أَوْكَدُ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
الْبَرِيدِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

الْقَائِدِ

رہنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَاحِبِ الْفَوَائِدِ

عمرہ فوائد والے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

اے اللہ! اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے اگلوں پر

رَبَّنَا رَّبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَالًا بِطَاقَةٍ لَنَا بِهِ وَعَنْفُ عَنَّا

رکھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں اور ہمیں معاف

وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

فرمادے اور ہم پر مہربانی کر، تو ہی ہمارا مولا ہے کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ

اے اللہ بیشک میں ہر اس چیز کے شر سے جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیری

مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ

کریم ذات کی اور تیرے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ تو ہی قرض اور گناہ کو

الْمُعْرَمَ وَالْمَأْثُرَ اللَّهُمَّ لَا يَهْزِمُ جُنْدَكَ وَلَا يَخْلِفُ

دور کرتا ہے۔ اے اللہ تیرا لشکر شکست نہیں کھاتا اور تیرا وعدہ کبھی خلاف

وَعُدُّكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

نہیں ہوتا اور کسی دولت مند کی دولت تیرے قہر سے نہیں بچا سکتی۔ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد و ثنا ہے

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

(اے اللہ) قبول فرما نبی کریم کی عزت کے طفیل

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَنِي إِيْمَانًا وَأَمَانًا مِنْ عُقُوبَةِ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَأَنْ تُجَبِّسَ عَلَيَّ أَبْصَارَ الظَّالِمِينَ الْمُرِيدِينَ
 بِي السُّوءِ وَأَنْ تُصَرِّفَ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَرِّ مَا يُضْمِرُونَكَ إِلَى
 خَيْرٍ مَا لَا يَمْلِكُ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ هَذِهِ الدُّعَاءُ مِنِّي
 وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ مِنِّي وَعَلَيْكَ الشُّكْرُ
 وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ
 عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيعِ الْأُمَّةِ وَكَاشِفِ الْخِمْةِ وَخَيْرِ
 خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں بظہیر حرمت ان اسماء کے کہ تو صلوٰۃ محمد کریم پر اور
 آل پر اور مجھے نصیب فرمائے ایمان اور امان دنیا و آخرت کی عقوبت سے
 اور پردے سے ڈالے ظلم پیشہ لوگوں کی نگاہوں پر جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور
 پیہر دے ان کے دلوں کو اس شر سے جو دلوں میں چھپاتے ہیں طرف اس نیر
 کے جس کا مالک نہیں ہو سکتا سوائے تیرے کوئی بھی اے اللہ یہ دعا ہے میری طرف سے
 اور صرف تیری طرف سے ہی ہے قبولیت اس کی اور یہ کوشش ہے میری اور تجھی پر بھروسہ ہے
 اور نہیں طاقت اور قوت مگر ساتھ اللہ عظیم کے اور صلوٰۃ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ
 نبی رحمت اور شفیع امت اور غم و اندوہ دور کرنے والے پر اور اپنی
 تمام مخلوق کے سردار (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر اور ان کے اہتمام آل و اصحاب پر
 ساتھ اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین

آٹھویں منزل

سرور کونین ﷺ نے فرمایا اللہ عزوجل ہر گنہگار کی پیاد پرچی کرے یا اس پر
احسان کرے خواہ کافر ہو، خواہ مسلمان پس اگر کافر ہو گا تو خدا تجھ پر رحم کرے
گا اور اگر مسلمان ہو گا تو اس کا ثواب تو بیان سے باہر ہے۔

ذات ہونے کی انتخاب، وصف ہونے کا جواب

تمام ہوا مصطفیٰ کی تم نے کر دو اور ان درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا بَدِيعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي قَطْرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَاللَّهُ وَمَا لَكُمْ لِيَا كَثِيرًا كَثِيرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُتُبَ الْكُتُبَ الْكُتُبَ
عِنْدَ ذِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

ثَبَاتٍ

العقائد

عقائد و نظریات کے

ثبات و دوام

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

صاحب

العوائد

مترتب منافع کے مالک

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

الذی

نعمته

محمد

جن کی نعت محمد ہے

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

صاحب العقائد

پختہ عقیدے والے

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

الحامد بجمیع الحامد

کلمات ثنائیہ کے ساتھ تعریف فرمایا لے

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

صاحب الشراہد

گواہوں والے

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

حلوا المشاہد

مراتب کی مٹھاس

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

صاحب المحافل

الحلیلۃ والمشاہد

عظیم مراتب و محافل والے

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

بنیال الفوائد

فوائد کے پائے جانے پر ذریعہ امید

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

لدفح الشدائد

جس سے بچاؤ و امید البتہ ہے شدتوں کی دوری کی

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

تتمام الفوائد

فوائد کے سراپا تکمیل

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

الذی

اسمہ

احمد

جن کا نام احمد ہے

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

الذی

خصالہ

محمود

جن کی عادت پسندیدہ ہیں

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

الذی

ہممنہ

أفرد

جن کا عزم منفرد ہے

عَلَيْهِ السَّلَام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
وَتَدِ
الْاَوْتَادِ
اوتاد کے مرکز

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي صَفَنَهُ اَجْدُ
جن کی خوبیاں برتر ہیں

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي حَقَّقْتَهُ وَاَجِدُ
جن کی حقیقت واحد ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْمُنْصَبِ الْاَقْعَدِ
عظیم منصب والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ السَّمِّ وَالْاَمْعَدِ
بلند بزرگی والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُعَدِّكَ الْعَبَادِ
عابدین کا سرچشمہ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُرَبِّعِ الْبِلَادِ
بلاد کی بہار

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُعَدِّكَ التُّهَّادِ
زاہدین کا سرچشمہ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي هُوَ سِرُّ الْعَبَادِ
جو بندوں کا راز ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُدْهِبِ
الْفَسَادِ
فساد کو دور کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
اَنْجَاكِ
الْاَنْجَاكِ
اونچوں میں اونچے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْفَرَسِ
الْجَوَادِ
عمدہ گھوڑے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
وَاَجِدِ
الْاَحَادِ
یکتاؤں میں سے ایک

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
اَحَدِ
الْاَحَادِ
یکتاؤں کے یکتا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي مَهَّدَ اللَّهُ
لَهُ الْبِلَادَ
اللہ نے پھیلا دیا جن کی
حکومت کو ملکوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُخْزِنِ
الْأَمْدَادِ
امداد کے مخزن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كِفَايَةِ
الْأَسْعَادِ
نیک نختوں میں سراپا
کفایت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِ الْأَسْيَادِ
آقاؤں کے آقا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْوَدَادِ
انس و محبت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نَفْسِ الْوَدَادِ
مجسم مودت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نَفْسِ الْإِيْجَادِ
عین ایجاد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيْرِ الْوَدَادِ
راز مودت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَسُولِ الضَّادِ
ضاد کے رسول

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَوَيْدِ الْأَكْبَادِ
بہادر دل و گردہ والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَمِيمِ الْفَوَادِ
مضبوط دل والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيْرِ
الْمُتَعَادِ
مساد و قیامت
کے راز مخفی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
شَمْسِ
أَفْقِ الْعِبَادِ
افق عباد کے
روشن آفتاب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُفْرِجِ
كُرْبِ يَوْمِ
الْمُعَادِ
روز قیامت کے درد و آلام
کے دور کرنے والے

أَفْصَحَ
مَنْ نَطَقَ
بِالضَّادِ
ضاد کا مخرج ادا کرنے والوں میں
سب سے زیادہ
وضاحت والے

صَاحِبِ الرَّحْمِ بِالْعِبَادِ
اپنے غلاموں پر رحم فرمانے والے

نَشَأَةُ الْأُمْدَادِ
امداد کا ذریعہ

رَفِيعِ الْعِمَادِ
بلند مقام والے

نَقَطَتِي
دَائِرَةُ الْإِسْتِوَاءِ
وَالرِّشَادِ
مرکز میں استواری اور جہلاتی
کے دائرہ کا

الْأَيَّةِ الْكُبْرَى
لِلْمُعْتَبِرِينَ
مِنَ الْعِبَادِ
بندوں میں نصیحت ماننے
والوں کے لئے
بہت بڑی آیت

سِرَاجِ الرَّشَادِ
ہدایت کے سورج

نَهَايَةِ الْأُمْدَادِ
مددوں کی انتہا

النِّعْمَةِ الْعُظْمَى
لِلْمُعْتَبِرِينَ
مِنَ الْعِبَادِ
نصیحت ماننے والے بندوں
کے لئے بہت
اچھی نعمت

نَهَايَةِ الْأُمْدَادِ
امداد کی انتہا

نَبِيِّ الْأَسْوَدِ
سیاہ لوگوں کے نبی

الَّذِي كَانَ
حَيْثُ
دَعْوَةُ الْعَبْدِ
جو غلاموں کی دعوت بھی
قبول فرماتے ہیں۔

النَّبِيِّ الْمُمَجِّدِ
بزرگ تر نبی

أَجْهَدِ مَنْ
دَخَلَ
حَوْمَةَ
الْجِهَادِ
جہاد کے معنوں میں داخل ہونے والے
میں سے سب سے زیادہ
جہاد کرنے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نِعْمَ الْعَبْدُ

بہترین بندے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجِدِّ

دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمُتَّحِدِ

تہجد گزار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمُتَوَرِّدِ

حوض پر وارد ہونے والے

الْمُتَوَدِّدِ

دوست رکھنے والے

وَالْاَيْدِ

قوی

الْمُخَلَّدِ

صاحب خلود

وَالْمَوْجِدِ

مضبوط کئے ہوئے

وَالْوَدُودِ الْمُتَوَدِّدِ

محبت فرمانی والے محبت کئے گئے

الْمُتَعَكِّدِ

عبادت کرنی والے

الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ قَاعِدًا

جر بیٹھ کر پانی پیتے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السَّيِّدِ

یدہا راستہ دکھانے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمُوَيَّدِ

نصرت فرمائے گئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمُوَيَّدِ

مدد فرمانے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
المُشَرِّدِ

کافروں کو
سخت سزا دینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
الْوَالِدِ

غنا اور تو نگری والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
الشَّاهِدِ

گواہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
السَّيِّدِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
المُقَصِّدِ

درمیانہ قد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
المُؤَيَّدِ

یاد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
المُسْتَعِدِّ

صاحب استعداد کامل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
العَضُدِ

پختہ جوان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
المُجِدِّ

بزرگی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
الحَامِدِ

اللہ کی تعریف کر نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
النَّارِ اِهْدِ

تارک دُنیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
المُؤَجِّدِ

توحید
بیان کر نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
جِسَدِ

سجدہ کر نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
جامع
المُحَامِدِ

صفاتِ تائش
کے جامع

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْفُتَاخِ
لِكُلِّ شَاهِدٍ
مَجْمُومٍ وَجُودِهِمْ جِهَانٌ
أَفْأَزَ هُوَ أَشَاهِدُكَ

الْمُجَاهِدِ
جِهَادِ كَرْنِ وَالِي

مُخْزِنِ الْمَشَاهِدِ
مَشَاهِدِ كَيْ مَخْزِنِ

الْوَالِدِ
أُمَّتِ كَيْ رُوحَانِي بَابِ

الَّذِي لَا
أَهْلَ السُّودِ
جُورِ رَارِ هُوَ سَيِّدُ بَابِ
سِيَادَتِ كَيْ

الْمُشْكُورِ
فِي
الْمُؤَاوِرِ
شُكْرًا دَاكْتِي هُوَ سَيِّدُ بَابِ
حَيَاتِ أَسِيرِ بَرُوكِرَادِ
هُوَ نُوَالِي مَقَامَاتِ مِي

الْوَاعِدِ
دَعْوَةِ دَفَا

الْعَابِدِ
عِبَادَتِ كَرِ نُوَالِي

الْأَحَدِ
سَبَبِ مَنفَرِدِ

وَاجِدِ
الْفَرِيدِ
الْمُتَفَرِّدِ
يَكْتَابُ جُورِ مَنفَرِدِ (مَقَامِ نُوَالِي)
مِي

رَبِّ
الْوَرْدِ
كَلْبِ كِي هَبِكِ

مُتَّارِكِ الْبَلَدِ
مُبَارَكِ شَهْرِ وَالِي

الْأَجْوَدِ
سَبَبِ زِيَادَةِ سَخِي

الْمُنْعَالِي عَنِ
وَحْدَةِ الْعَدُوِّ
عَدَمِي وَحْدَتِي سَبَبِ بَلَدِ وَالِي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَنْوَارِ

الْمُسْتَجِرِينَ
خالص نور

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
يَا قُوْتَةَ
الْأَبَدِ

ابد کے یا قوت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي لَيْسَتْ
خَلْعَتُهُ
الْحَمَامِدُ

جن کو محاسن و اوصاف کی
خلعت پہنائی گئی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رُوحِ الْمُتَجَسِّدِ
مَجْسَمِ رُوحِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْفَرْدِ الْمُسْتَعِدِّ
صاحب استعداد فرد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كَرِيمِ الْمُحْسِنِ
شریف النسل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَالِكِ أَمْرَمَةِ الْمَجْدِ
مالک ہیں بزرگی کی لگاموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَجْنَحِ السَّحْرِ
نیک بختی کے بازو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُتَوَجِّعِ بِنَاجِ الْمَجْدِ
بزرگی و کمال کا تاج پہننے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رُوحِ أَهْلِ الْمَجْدِ
بزرگی والوں کے لئے روحانیت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَحْمَدَ
سب زیادہ حمد بیان کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَطْيَبِ
الْجَسَدِ
پاکیزہ جسم مبارک والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَسَدِ
کمال استقامت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُبَارَكِ
أَحْمَدَ
بابرکت احمد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
حَاءِ الْحَيَوٰةِ
مُدًّا لَّأَبَدٍ

ابدی حیات کی حاء

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُنْفِذِ

احکام الہی
جاری کرنیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُقْنِصِ

میانہ رومی رکھنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
سِرِّ الْحَدَدِ

اعداد کا راز مخفی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِ الْاَبَدِ

ابد گئے سردار

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْعَاقِبِ وَعَنِ الْعَمَلِ

دائستہ خطاؤں کو مٹا کرنیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
نِظَامِ الْاَبَدِ

ابدیت کا نظام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
تَرْجَمَانِ الْاَبَدِ

ابد کے ترجمان

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مِيْمِ الْمِيْمِ وَالْمُدِّ

ممد و مدد کی میم

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
السَّانِدِ

ہر امر میں سند

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَالِي السَّانِدِ

عالی مرتبت سہارا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُجْتَهِدِ

دین میں پوری
کوشش کرنیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَعْدِ
الْاَسْعَدِ

نیک نختوں
کے نیک بخت

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُجْتَبِ
الْمُجْتَبِ

بہت بزرگ
بزرگی نختنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

إماماً
أَهْلَ الْبَيْتِ

بُزْغِي وَالْوَلِيِّ أَمَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

عَالِي
الْمَجْدِ

مَلْبَسِ بُزْغِي وَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

تَايَسِرِ
النَّهْمِ

بِمِشْرِ تَارِكِ دُنْيَا رَبِّنَا وَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْأَجْمَدِ
شَرِيفِ هَسْتِي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُنْجِدِ
بِهَادِرِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُرْتَدِّ
إِرْشَادِ فِرَانِ وَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْعَبْدِ
بِنْدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْفَرْدِ
مَنْفَرْدِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
حَامِلِ لَوَاءِ الْحَمْدِ
حَمْدِ كَا حَمْدِ أَطْحَانَ وَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
نَاشِرِ لَوَاءِ الْحَمْدِ
لَوَاءِ حَمْدِ كَيْ لِهَرَانِ وَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مَوْجِبِ الْحَمْدِ
حَمْدِ بَارِي تَعَالَى كَيْ مَوْجِبِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُخْتَصِصِ
بِالْمَجْدِ

مُخْتَصِصِ بُزْغِي وَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جَمِيعِ الْجَمِيعِ
فِي مَقَامِ

الْفُرْدِ

مَقَامِ فُرْدِيَّتِي فِي
جَمِيعِ الْجَمِيعِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

فَاتِحِ بَابِ
السَّعَادِ

سَعَادَتِي كَا دَرَاوَزِهِ
كَهَوْلَتِي وَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
ظَنَّ
الْأَنْبِيَاءِ
الْمُرْتَدِّدِ
انبیاء کے لئے
دراز سایہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
حِصْنِ
الْأَنْبِيَاءِ
الْمُشِيدِ
انبیاء کیلئے مضبوط قلعہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
وَاحِدٍ
یکتا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْوُدِّ
محبت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَكَادِقِ الْوَعْدِ
سچے وعدے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
طَلَعَةِ السَّعْدِ
سُبارک ظہور والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
شَكْلِ التَّحْمِيدِ
سراپا تحمید

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْحَفِيفِ الْمَفِيدِ
مفید محافظ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
شَكْلِ التَّمْجِيدِ
سراپا تمجید

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
هَالَةِ التَّكْفُرِ بِدِ
شانِ تفرید کے ہالہ (گھرا)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
لِسَانِ أَهْلِ التَّمْجِيدِ
اہلِ تمجید کے ترجان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِ
الْعَبِيدِ
تمام بندوں کے سرشار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كَأَيَّةِ
التَّوْحِيدِ
توحید کے دائرہ محیط

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
التَّوْحِيدِ
توحید والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
المَّحْبُوبِ
عِنْدَ الْوَدُودِ

ودود کے ہاں
 محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَبْدِ الْوَدُودِ
 ودود کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُعْتَدِ
مِنَ الْغِلَظِ الشَّدَادِ
 (روزِ قیامت) سخت مزاج ملائکہ سے بجا نوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَأْيٍ
 ٹالنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَسُولِ
الصَّكَلِ
 صمد (بے نیاز)
 کے رسول

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
طَالِعِ
الْأَنْبِيَاءِ
السَّحِيدِ
 انبیاء کا سعادتمند
 ستارہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
ظِلِّ الْأَنْبِيَاءِ الْمُدِيدِ
 انبیاء پر دراز سایہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
المَّحْبُوبِ عِنْدَ الْوَحِيدِ
 وحید کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
المَّحْبُوبِ عِنْدَ الْأَحَدِ
 احد کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَبْدِ الْأَحَدِ
 احد کے
 بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
المَّحْبُوبِ عِنْدَ الْوَّاحِدِ
 واحد کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَبْدِ الْحَمِيدِ
 حمید کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
المُّصَكِّي
فِي جَمْعِ
الْجَمْعِ بِأَحْمَدَ
 اچھی تعریف کرنے والے جمع الجمع
 کے مقام میں
 احمد ہو کر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَبْدِ الْوَحِيدِ
 وحید کے
 بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَبْدِ الرَّشِيدِ

رشید کے بندے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَبْدِ الْمُعْتَدِ

معتد کے بندے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

وَدُودِ الْمُحِبُّوبِ

عِنْدَ الشَّهِيدِ

شہید کے
ہاں محبوب

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَبْدِ الشَّهِيدِ

شہید کے بندے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَبْدِ الْمَاجِدِ

ماجد کے بندے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَبْدِ الْمَجِيدِ

مجید کے بندے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَبْدِ الْوَاحِدِ

واحد کے بندے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْحَمِيدِ

حمید کے ہاں محبوب

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الرَّشِيدِ

رشید (اللہ) کے ہاں محبوب

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

وَدُودِ الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْمَاجِدِ

ماجد کے ہاں محبوب

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

وَدُودِ الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْمَجِيدِ

مجید کے ہاں محبوب

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَبْدِ الصَّامِدِ

صمد کے

بندے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَبْدِ الْوَاحِدِ

واحد کے

بندے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

وَدُودِ الْمُحِبُّوبِ

عِنْدَ الصَّامِدِ

صمد کے ہاں

محبوب

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عَبْدِ الْحَمِيدِ

بنو حمید

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الشَّهِيدِ

شہادت پانوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الشَّهِيدِ

زور آور

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عَبْدِ الْمُجِيدِ

بزرگ و بزرگے بندے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

السَّعِيدِ

نیک بخت

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

السَّعِيدِ

پختہ راستے پر چلنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

النَّاسِ أَلْفِي عَنِ الْعِنَادِ

عناد و عداوت سے منع کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الصَّانِدِ

بہادر سردار

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ

اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے

لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا إِنَّكَ

پاس سے رحمت عطا کر بیشک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک

جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

تو لوگوں کو اُس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بیشک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ ۝

(اے اللہ) قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے طفیل۔

سرور کونین رضی اللہ عنہا نے فرمایا! اے ابو ہریرہ! ادب سکھانے کے لئے کسی کو تین سے زیادہ ہرگز نہ مار کیونکہ اگر تو نے اس زیادہ کیا تو قیامت کے دن تم سے قصاص لیا جائیگا۔

نایت و علت سب بہر جہاں تم ہو سب
تم سے پہلا تم پہلا تم پہلا تم پہلا تم پہلا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيْدُ يَا كَرِيْمُ يَا قُدْرُومُ يَا وَدِيْعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِيْنَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُمُوعِ
الْمُعْشُوْقِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِيْنَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِيْنَ وَاللَّهُ وَسَّالِمٌ لِكَثِيْرٍ كَثِيْرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيْمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُتُبَ الْمَكْتُوبَ

عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<p>نِعْمَ الْعَبِيدُ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ کے بہترین بندے</p>	<p>الْمُحَيِّدِ اللہ تعالیٰ کے دوزخ سے دور لے جانے والے</p>
<p>الْفَرِيدِ اللہ تعالیٰ کے یکتا و منفرد موتی</p>	<p>الْحَبِيدِ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو دوزخ سے دور رکھنے والے</p>
<p>الْمُجِيدِ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہستی</p>	<p>دَعْوَةَ التَّوْحِيدِ اللہ تعالیٰ کے توحید کے داعی</p>
<p>الْمُجِيدِ اللہ تعالیٰ کے لاٹانی بہادر</p>	<p>الْحَمِيدِ اللہ تعالیٰ کے تعریف کے لائق</p>
<p>الْمُجِيدِ اللہ تعالیٰ کے بہترین بھلا جانے والے</p>	<p>حَالَةَ الْهَيْكَلِ اللہ تعالیٰ کے مجسمہ سعادت کے ہیکل کا مالک</p>
<p>الْمُجِيدِ اللہ تعالیٰ کے خَيْرِ الْعَبِيدِ اللہ تعالیٰ کے تمام بندگانِ خدا سے بہتر</p>	<p>السَّعِيدِ اللہ تعالیٰ کے السَّعِيدِ اللہ تعالیٰ کے السَّعِيدِ اللہ تعالیٰ کے</p>

مِیْمٌ
الْمَجْدِ وَالْمَجِيدِ

مجد و مجید کی میم

اِمَامٌ
اَهْلَ التَّوْحِيدِ

اہل توحید کے امام

القَائِمِ
فِي الْجَلِيِّ
مَقَامِ التَّجْرِبِ

تجربہ کے واضح مقام
میں قیام پذیر

دَالٍ
لِلدَّوْلَةِ النَّبَوِيَّةِ
وَالْجَلِيِّ

دال ہیں دولتِ غیرفانی کی

مَشْرِئُ
مَصْبَحِ
النُّوَارِ

انوارِ توحید کے چراغ
کے طاق

رُوحِ التَّوْحِيدِ
رُوحِ التَّفْرِيدِ

توحید کی روح
تفرید کی روح

كَامِلِ

عَوَارِفِ التَّحْمِيدِ

وَالْتَمَجِّهِدِ

تمجید و تمجید کی معرفتوں
میں رجب کمال پائیوالے

لِسَاكِ اَهْلِ النَّفْرِيدِ

اہل تفرید کے ترجمان

مَزِيدِ كُلِّ مَرِيكٍ

ہر ارادتمند کو زائد بخشنے والے

الرَّاقِي

اَعْلَى مَرَاتِي

التَّوْحِيدِ

توحید کے اعلیٰ مراتب
پر ترقی پائیوالے

عَيْنِ كُلِّ عَنِيدٍ غَيْنِ كُلِّ عَنِيدٍ

ہر معاند کے لئے حجاب

ہر تابعدار کی آنکھ

<p>بِالْجَامِعِ لِجَمِيعِ أَسْرَارِ تَوْجِيدِ تمام اسرار توحیدِ احدیت کے جامع</p>	<p>مَرِيدٍ كُلِّ مَزِيدٍ ہر کمال میں ترقی کا ارادہ فرمایا لے</p>	
<p>مَحْمُودٍ سب سے گئے</p>	<p>مُونِسٍ كُلِّ وَحِيدٍ تنہا و بیکس کے مونس</p>	<p>الْمُخْفُوكِ مخدوم</p>
<p>الْمَسْعُوكِ نیک بخت</p>	<p>دُورٍ بہت محبت والے</p>	<p>مُشْهُوكِ گواہی دینے گئے</p>
<p>الْمُهْجُوكِ تہجد کے زیادہ نفل پڑھنے والے</p>	<p>السِّرِّ الْمَشْهُوكِ مشاہدہ کئے ہوتے راز</p>	<p>الْمَشْهُوكِ گواہی دینے گئے</p>
<p>رَائِدِ الْمُقَرَّبِينَ بارگاہِ شہود و تمکین کی طرف مقربین کا راہنما</p>	<p>الَّذِي هُوَ كَالْإِمْدَانِ فَهُوَ الْمُحْمَدِيُّ وہ جو حامد ہے پس وہ محمدی ہے</p>	<p>الْمَشْهُوكِ گواہی دینے گئے</p>
<p>الْمَحْشُوكِ جن کی خدمت کے لئے سب تیار ہیں</p>	<p>رَائِدِ الْمُقَرَّبِينَ بارگاہِ شہود و تمکین کی طرف مقربین کا راہنما</p>	<p>الْمَشْهُوكِ گواہی دینے گئے</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَادَةِ أَهْلِ الْجُودِ
الَّذِي سَادَ أَهْلَ الْجُودِ

جو سردار ہوتے اہل جود کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عِمَادِ قَبْلِ الْوُجُودِ
عِمَادِ قَبْلِ الْوُجُودِ

کائنات کے گنبد کے ستون

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ
الْمَقَامِ
الْمَحْمُودِ

مقام محمود والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى طَيْبِ الْعُرُودِ
طَيْبِ الْعُرُودِ

پاک اصل والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَقَامِ
الْحَمْدِ

حمد کو قائم کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى تَاجِ مُفَرِّقِ
الْوُجُودِ
وَلِيِّ
الْمُقَرَّبِ
الْمَسْعُودِ

اللہ کے مقرب و مسعود

وجود وستی کی پھٹی کاتاج

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَوْهَرِ خَانَةِ الْوُجُودِ
جَوْهَرِ خَانَةِ الْوُجُودِ

وجود کی انگوٹھی کا جوہر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَعْدِنِ
فَيْضَانِ
الْجُودِ

فیضانِ جود کی
کان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَنَوَاتِحِ الْجُودِ
فَنَوَاتِحِ الْجُودِ

جود کے آغازات

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي
هُوَ مَعْدِنُ
الْجُودِ


وہ ذات جو سخاوت
کی کان ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي
الَّذِي يُظِلُّهُ الْبَدِيدُ

جن کا سایہ دراز ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي
الَّذِي كُنَ قَبْلَ كُلِّ
وَجُودٍ

جن کو ہر وجود سے
پہلے تخلیق کیا گیا



مَعِينِ الْجُودِ

سخاوت کا سرچشمہ

مُنْبَعِ الْجُودِ

جود و سخا کا سرچشمہ

السَّانِ
عَيْنِ اعْيَانِ
خَلْقِ السَّانِ
فِي الْوُجُودِ

اللہ کی موجود مخلوق کے
اعیان کیلئے آنکھ کی پتلی

مَعْنَى صَدْفِ الْوُجُودِ

صدف وجود کے گوہر پیکت

سَادِجِ
الذَّاتِ
الْحَاطِطَةِ

الْوُجُودِ

سادہ ذات والے جس کا وجود
و محیط (کائنات) ہے

خَانِ الْوُجُودِ طَوْرِ الْجُودِ

وجود کے لئے زیبائش
جود و نوال کے طور

قُطْبِ كَائِرَةِ الصَّعُودِ

ترقیوں کے دائرہ کا مرکز

نَخِيرَةِ
الْمَلِكِ

الْوُدُودِ

نکد دود کے
ذخیرہ (خزانہ برار)

المُسَمِّي
بِرُوحِ ذَاتِ
الْوُجُودِ

ہر موجود کی روح کے
ساتھ موسوم

كُلِّبِ هَالَةَ السَّعُودِ


سعادتوں کے ہالہ کے روشن ستارے

وَأَسْطُودِ الْعَقُودِ الْمَحْمُودِ فِي الْوُجُودِ

محمود ہیں وقت تخلیق سے

موتیوں کی لڑیوں کا
درمیانی قیمتی جوہر

<p>صَاحِبِ الْعَيْنِ الْمَوْعُودِ دعدہ کے گئے چستے والے</p>	<p>سَيِّدِ جِلْدِ الْمَسِيحُودِ مسجد کو سجدہ کرنے والے</p>	
<p>مَانِعِ ممانعت کرنے والے</p>	<p>عَابِدِ الْمَعْبُودِ معبود کی عبادت کرنے والے</p>	<p>مُدَدِ الْوَكُودِ مجت کی مدد فرمانے والے</p>
<p>خَانِمِ الْوَجُودِ انگشتری وجود کے نگینہ</p>	<p>لَذَّةُ صَدِّ الْوَجُودِ وجود کی سپی کا موتی</p>	<p>بَسْمَةُ الْوَجُودِ وجود کا تبسم</p>
<p>عَبَقَرِ الْوَجُودِ وجود کی خوشبو</p>	<p>وَأَسِطَةُ لَذَّةِ الْحَفُودِ ہاروں کے موتیوں کے واسطہ</p>	<p>الَّذِي عَزَبَهُ شَعْبُودٌ جنکے سبب حضرت شیبت علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام نے عزت پائی۔</p>
<p>صَاحِبِ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ طے شدہ عہد والے</p>	<p>لَا عِشْرَ السَّعُودِ ہمیشہ سعادت مند</p>	<p>الَّذِي هُوَ عَيْنُ الْمُقْصُودِ جو عین مقصود ہیں</p>



<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأوَّلِ فِي الْجُودِ سخاوت میں اول</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأوَّلِ فِي الْوُجُودِ وجود میں اول</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَةَ ہر موجود کا قبلہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجِنُّودِ سیرت شکر کے سردار</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلِّ مَوْجُودٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِفَاتِحِ مجسم وجود میں جہاں سے آغاز ہوا ہر مشہود کا</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلِّ مَوْجُودٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ غَايِ افضل ترین ہیں صبح آینالوں سے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلِّ مَوْجُودٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلِّ مَوْجُودٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلِّ مَوْجُودٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلِّ مَوْجُودٍ</p>

<p>خَيْرٌ مُّقْصُودٍ <small>اللهم صل على خير مقصود</small> بہترین مقصود</p>	<p>خَيْرٌ مَوْلُودٍ <small>اللهم صل على خير مولود</small> ازمانہ طفولیت میں بہترین بچے</p>	
<p>الْكَرِيمُ الْمُخْصِصُ <small>اللهم صل على الكريم المخصص</small> محکم ترین مخصوص محمد</p>	<p>طَالِعُهُ السَّعِيدُ <small>اللهم صل على طالع السعيد</small> جن کا طالع سعادت مند ہے</p>	<p>الْمَحْمُودُ بِكُلِّ حَالٍ <small>اللهم صل على المحمود بكل حال</small> ہر حال و استدار کے ساتھ تعریف کئے گئے</p>
<p>مَحْمُودٌ <small>اللهم صل على محمود</small> ہر غیر سے مقدس</p>	<p>سَيِّدٌ كَأَسِيدٍ <small>اللهم صل على سيد كاسيد</small> ہر سردار کے سردار</p>	<p>الَّذِي يُقْصَدُ <small>اللهم صل على الذي يقصد</small> وہ ذات جن کا قصد ہر قاصد کیا</p>
<p>الَّذِي مَاتَ <small>اللهم صل على الذي مات</small> جن کو داؤد علیہ السلام کی سہیلی آواز دی گئی</p>	<p>سَيِّدِكِ وَالِدِ مَوْلُودٍ <small>اللهم صل على سيدك واليد مولود</small> ہر باپ اور بیٹے کے سردار</p>	<p>كُلُّ قَاصِدٍ <small>اللهم صل على كل قاصد</small> وہ ذات جن کا قصد ہر قاصد کیا</p>
<p>أَعْلَى الْأَسْمَاءِ <small>اللهم صل على اعلى الاسماء</small> سب مخلوق سے بلند تر اڑتے احسان کے</p>	<p>الْمُتَّصِلُ بِالْأَوَّلِ <small>اللهم صل على المتصل بالاول</small> متصل ہیں ساتھ اول حقیقی اور قدیم ذات کے اڑتے امداد کے</p>	

<p>اَمْكِنَ النَّاسَ مَجْدًا سب لوگوں سے زیادہ پائیدار مجد والے</p>	<p>اجْمَلَ الْاَنْبِيَاءِ عَهْدًا سب انبیاء سے خوبصورت ترین عہد والے</p>
<p>اصْدَقَ الْاَنْبِيَاءِ وَعْدًا سب انبیاء سے سچے وعدے والے</p>	<p>اَكْثَرَ الْاَنْبِيَاءِ رِفْرًا سب انبیاء سے زیادہ عطیات والے</p>
<p>الَّذِي تَوَفَّاهُ اللَّهُ وہ ذات جنہیں اللہ نے شہید اٹھایا</p>	<p>اعْرَفَ النَّاسَ مَجِيدًا تمام لوگوں سے زیادہ معرفت رکھنے والے</p>
<p>شَهِيدًا وہ ذات جنہیں اللہ نے شہید اٹھایا</p>	<p>اَوَّلَ الْاَشْيَاءِ وَجُودًا تمام اشیاء مخلوقہ سے اول</p>
<p>الَّذِي تَوَفَّاهُ اللَّهُ وہ ذات جنہیں اللہ نے شہید اٹھایا</p>	<p>اٰخِرَ الْاَنْبِيَاءِ وُلُودًا ولادت میں تمام انبیاء سے آخر</p>
<p>نُورِ الشُّهُودِ نور شہود</p>	<p>وَدَّ مَوَدَّ تعریف کئے گئے</p>
<p>تَوْحِيدًا سب لوگوں سے زیادہ توحید کا مسلم رکھنے والے</p>	<p>الَّذِي تَوَفَّاهُ اللَّهُ وہ ذات جنہیں اللہ نے شہید اٹھایا</p>
<p>الَّذِي تَوَفَّاهُ اللَّهُ وہ ذات جنہیں اللہ نے شہید اٹھایا</p>	<p>الَّذِي تَوَفَّاهُ اللَّهُ وہ ذات جنہیں اللہ نے شہید اٹھایا</p>

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُعَاذٍ جاتے تحفظ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَاذُ مَاذُ تعریف کئے گئے</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُؤْنُ مُؤْنُ نجات دہندہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُنْفِذِ دوزخ سے بہائی دلائیل والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُكَلَّانِ پناہ گاہ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُسْتَعِينِ پناہ حاصل کرنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَيْدُ مَيْدُ ستودہ صفات</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ النَّاسِيبِ پھینکنے والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُشْرِئِ کفار کے لشکر کو منتشر کرنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَاحِبِ الْأَمْرِ النَّافِذِ نافذ اور مؤثر حکم والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُخْتَارِ مِنَ الْأَشَاوِدِ تمام عامر والوں سے چُنے ہوئے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الصَّابِرِ صبر والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُنْجِي مِنَ النَّارِ سخت کاموں سے نجات دینے والے</p>	

<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>المُهَاجِرِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>بجرت کرنیوالے</p>	<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>التَّاجِرِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>ڈانٹنے والے</p>
<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>المُكَّابِرِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>وعدہ پورا کرنیوالے</p>	<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>مُرْتِي</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>اکابرین کو منبروں پر جلوہ گری کی طرف ترقی دینے والے</p>
<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>المُكَّابِرِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>ہر نیک و بد کے لئے جائے پناہ</p>	<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>التَّقَائِلِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>جن کا قول ہے کہ "جیا نہیں لاتا مگر خیر"</p>
<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>المُكَّابِرِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>ہر نیک و بد کے لئے جائے پناہ</p>	<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>المُكَّابِرِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْآلِ الطَّيِّبِينَ</p> <p>ہر نیک و بد کے لئے جائے پناہ</p>

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں معاف کر ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا
رَبَّنَا آمِنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا
اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو

مَعَ الشُّهَدَاءِ

ہمیں حق پر گواہی دینے پر رکھ۔

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

(اے اللہ) قبول فرما نبی کریم ﷺ کی عزت کے طفیل

اللَّهُمَّ مَا عَلِمْتُ مِنْ سُوءٍ وَمَا أَرَدْتُ لِي مِنْ خَيْرٍ فَلَوْ
 اے اللہ جو معلوم کی میں نے بُرائی اور جو ارادہ کیا تو نے میرے لئے بھلائی کا پس میں اس کا شکر ادا
 أَشْكُرُكَ وَمَا قَدَّرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرٍ فَلَوْ أَرْضَاهُ وَمَا أَنْجَمْتَ عَلَيَّ
 نہ کر سکا اور جو امر تو نے مجھ پر مقدر فرمایا مگر میں اس پر راضی نہ ہوا اور جو تو نے مجھ پر انعام
 مِنْ نِعْمَةٍ فَعَصَيْتُكَ فِيهِ وَمَا أَوْلَيْتَنِي مِنْ نِعْمَائِكَ فَخَفَلْتُ
 فرمایا پس میں نے نافرمانی کی اس میں اور جن نعمتوں کا مالک بنایا تو نے پس میں غافل ہوا
 عَنْ شُكْرِكَ وَمَا أَوْلَيْتَنِي مِنَ الْآيَاتِ فَلَوْ أَوْدَحْتَهُ وَمَا مَنَنْتَ
 تیرے شکر سے اور جن انعامات کا والی بنایا پس میں نے ان کا حق ادا نہ کیا اور جس نیکی کا تو
 عَلَيَّ مِنَ الْحُسْنَى فَلَوْ أَحْمَدُكَ وَمَا أَجَبَلْتُ بِهِ عَلَيَّ مِنَ النَّظَرِ
 نے احسان فرمایا پس میں نے حمد نہ کی۔ اور جو صلاحیت پیدا فرمائی تو نے تیری ذات پر نظر کی
 فِيكَ فَخَرَضْتُ عَنْهُ وَمَا صَنَعْتُ فِي عُمُرِي بِمَالٍ تَرْضَى وَمَا
 پس میں نے آنکھ بند کر لی اس سے اور جو کیا میں نے عمر بھر ایسے کام جس سے تو راضی نہیں تھا
 وَصَرْتُ مِنْ عَمَلِي فِي رَجَائِكَ وَإِنْ اعْتَمَدْتُ عَلَى سِوَاكَ
 اور جو قصور کیا میں نے عمل میں تیری امید عفو پر اور اگر میں نے بھروسہ کیا غیروں پر شائد میں
 فِي الشَّدَائِدِ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ مِنْ غَيْرِكَ فِي النَّوَائِبِ وَمَا
 اور اگر استعانت کی غیروں سے حوادث میں اور جو میرا
 أَصْلَحْتَ فِي شَأْنِي بِفَضْلِكَ وَرَأَيْتَهُ مِنْ غَيْرِكَ وَإِنْ
 حال تو نے درست کیا اپنے فضل سے اور میں نے اس کو سمجھا غیر کی طرف سے اور اگر
 نَزَلَتْ قَدَمِي عَنِ الصِّرَاطِ بِالسُّوَالِ مِنْ غَيْرِكَ فَشَبِّتَنِي
 لغزش کھائی میرے قدم نے راہِ راست سے غیر سے سوال کی وجہ سے پس ثابت قدمی عطا فرما مجھے (ان تمام امور میں)

دسویں منزل

سرور کو شکر و شکر نے فرمایا اے ابو ہریرہ! اگر تو امیر ہو یا امیر کا وزیر ہو یا
کسی امیر کی مجلس میں جانے والا ہو یا اس کا مشیر ہو تو میری سیرت اور
طریقے سے ہرگز تجاوز نہ کرنا۔ کیونکہ جو امیر یا اس کا وزیر یا اس کا ہم مجلس یا
مشیر میری سنت اور طریقے سے خلاف چلے گا قیامت کے دن جہنم کی آگ
اسے ہر طرف سے گھیرے گی۔

تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات
اصل سے ہے کل بندھا تم پہ کردوں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قِيَامُ يَا بَدِيْعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ
الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَالْأَهْلِ وَسَائِلِ تَحِيَّةِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُنُوزَ الْمَكْتُوبَ

عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْحَاثِرِ اکٹھا کرنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِرِ بتتم فرمانے والے</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ حکم دینے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَشِيدِ الْأَمْرِ احکامِ الشہیہ کو پختہ کرنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ النَّاشِرِ اسلام پھیلانے والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْجَلَالِ الْفَهِرِ جلالِ قاہر و غالب</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُشَاوِرِ اصحابِ کرام رضوان اللہ علیہم سے مشورہ لینے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِ پاک صاف</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ غلبہ پانپوالے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ وَجْهَةٌ كَالسِّرَاجِ الْمُنِيرِ جن کا چہرہ روشن چراغ کی طرح ہے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْفَاكِرِ النَّارِهِرِ روشن چاند</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالِ الرَّاهِرِ سراپا اجمالِ روشن</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْكَرَمِ الظَّاهِرِ غالبِ کرم والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْبَاهِرِ روشن چاند</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ابْنِ النَّصِيرِ قبیلہ نصیر کے دل بزر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الجَسْرِ الطَّاهِرِ پاک جسم والے</p>	

<p>الشُّكْرُ بہت شکر گزار</p>	<p>الْخَيْرُ فیاض و سخی</p>
<p>نِعْمَ الْجَارُ بہت اچھے پڑوسی</p>	<p>إِمَامٌ أَيْمَةٌ الْأَخْيَارِ آئمہ اخیار کے امام</p>
<p>مَقْصُودِ الدِّيَارِ سب آبادیوں اور مسکن کے مقصود</p>	<p>إِمَامٌ أَيْمَةٌ الْأَبْرَارِ آئمہ ابرار کے امام كَثْرَ الْأَخْيَارِ ذخائر کا خزانہ حَامِي الدِّمَارِ خاندانی شرف کی نگہبانی کرنے والا</p>
<p>الذِّكْرُ بہت ذکر کرنے والا</p>	<p>سَيِّدُ الْأَبْرَارِ نیکوکاروں کے سرور هُدًى لِلْإِنصَارِ انصار کے ہتھیاری</p>
<p>شِمَالِ الْجَارِ پڑوسیوں کے سہارا</p>	<p>الْجِبَارُ پہ سالار</p>

<p>السَّاطِعِ الْأَنْوَارِ غالب انوار والے</p>	<p>الْمُصْطَبِرِ الصَّبَّارِ بہت زیادہ صبر و تحمل کرنے والے</p>	
<p>صَوْمِ النَّهَارِ دن کو روزہ رکھنے والے</p>	<p>طَرَانِ حِلَّةِ الْفَخْرِ خلوت و فخر کے لئے باعثِ زینت</p>	<p>مَعْدِنِ الْأَسْرَارِ اسرار کے سرچشمہ</p>
<p>رُوحِ جُثْمَانِ الْأَسْرَارِ اجسامِ اسرار کی روح</p>	<p>الْمُنْفِذِ مِنَ النَّارِ دوزخ کی آگ سے بچانے والے</p> <p>سِرِّ الْأَسْرَارِ اسرارِ الہیہ کا راز مخفی</p>	<p>لَوْحِ صَوْرِ الْأَنْوَارِ روح ہیں انوار کی صورتوں کے اظہار کیلئے</p>
<p>الْمُخْتَارِ پسند فرمائے گئے</p>	<p>أَهْدَابِ الْأَشْفَارِ دراز مرگان والے</p>	<p>النَّالِهِرِ خوب صورت</p>
<p>عَبْدِ الْجَبَّارِ بگڑھی بنانے والے کے بندے</p>	<p>عَبْدِ الْغَفَّارِ غفار کے بندے</p>	

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
خَانِدِقَاتِ الْأَنْوَارِ
 النوار کے ادوار کے خاتم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الْمُقَانِلِ أَوَّلِ النَّهَارِ
 دن کے پہلے حصے میں جہاد کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
بِحَرْبِ الْحَاكِمِ
 سمندروں کے سمندر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كثِيرِ الْخُدَامِ مِنَ الْأَحْرَارِ
 زیادہ آزاد خادموں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
حَامِلِ لَوَاءِ الْوَقَارِ
 وقار کا پرچم اٹھانیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كثِيرِ الْأَسْتِغْفَاةِ
 زیادہ استغفار کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الْمُطَهَّرِ مِنْ شَوَائِبِ الْأَكْدَامِ
 میل و کچیل کی آمیزش سے پاک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
عَنْصَرِ الْأَسْرَارِ
 اسرار خداوندی کا اصل جوہر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
هِدَايَةِ الْأَخْيَارِ
 برگزیدہ حضرات کے لئے ہدایت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مَنْوَرِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَبْرَارِ
 نور بخشنے والے مقربین و محسنین کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
الْمُطَهَّرِ مِنْ رِقِّ الْأَغْيَارِ
 اغیار کی غلامی سے منزه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
فَيْضِ جَدِّ أَوْلَى الْأَنْوَارِ
 انوار کی گھاٹوں کے آبِ فیض

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَبْرُورِ وَالْأَبْرَارِ
 سب لوگوں سے زیادہ قریب نیکیا احسان اور نیکوکاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مُذْهِبِ الْكُفْرِ
 کفر کو دور کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مَغْرِبِ الْأَسْرَارِ
 اسرار الہیہ کے محل اختفاء

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مَشْرِقِ الْأَنْوَارِ
 انوار الہیہ کے محل ظہور

<p>عَنْصُرِ مَوَادِّ الْأَسْرَارِ اصل و عنصر مواد اسرار کا</p>	<p>صَاحِبِ الْأَسْرَارِ مخفی رازوں کے مالک</p>
<p>صَبَابُ الْأَنْوَارِ انوار والے</p>	<p>أَكْرَمٌ مِّنْ أَسْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ اُن تمام سے افضل جن پر دن نے روشنی کی</p>
<p>قَبَسِ الْأَنْوَارِ انوار کا شعلہ</p>	<p>الْمَحِيطِ تمام انواع آثار پر محیط</p>
<p>عَالِمِ الْأَسْرَارِ اسرار کو جاننے والے</p>	<p>بِأَنْوَاعِ الْأَثَارِ تمام انواع آثار پر محیط</p>
<p>مِحْرَابِ الْأَبْرَارِ نیکوں کے میر محل</p>	<p>فَجْرِ الْأَسْرَارِ اسرار کا سویرا</p>
<p>نَظِيرَةِ الْأَنْوَارِ انوار کی جتنے اختفاء</p>	<p>أَحَقُّ الْخَلْقِ بِالْوَقَارِ تمام مخلوق سے زیادہ حق دار بلحاظ وقار کے</p>
<p>إِمَامِ الْمَسَلِكَةِ نیک ملائکہ کے امام</p>	<p>لَوَامِعِ الْأَنْوَارِ انوار کی چمک</p>

نُورِ الْأَبْصَارِ

آنکھوں کا نور

مَلَآنِ أَهْلِ الْأَعْمَاءِ

زمانے والوں کیلئے پناہ گاہ

مِفْتَاحِ
بَابِ الْيَسَارِ

اسانوں کے دروازے
کی چابی

صَاحِبِ الْجُحْفِ الْجَرَامِ

شکر جرار والے

ضِيَاءِ
الْأَبْصَارِ

آنکھوں کی
روشنی

تَرْيَاقِ الْأَعْيَالِ

اغیار کے ترجمان

سَيِّدِ
أُولِي الْعِزِّمِ
الْأَخْيَارِ

اولیٰ العزم
سرداروں کے سردار

الَّذِي
هُوَ نُورُ
الْأَنْوَارِ

جو سب نوروں کی
اصل ہے

الَّذِي
كَانَ يَرْكَبُ
الْحُمَارِ

جو حمار پر بھی سوار
ہوتے تھے

الْمُتَّصِدِرِ
فِي رِحَابِ
الْأَسْرَارِ

رازوں کے جاتے نزل
میں سب سے مقدم

صَاحِبِ
الْوَقَارِ

عظمت والے

صَاحِبِ الْأَخْبَارِ

خبروں والے

الَّذِي هُوَ سِرُّ الْأَسْرَارِ

وہ جو رازوں کے راز ہے

صَاحِبِ الْغَارِ

غار والے

الَّذِي نُورُهُ أَعْلَى الْأَنْوَارِ

وہ ذات جن کا نور بہترین نور ہے

قَبْلَهُ الْأَنْظَارِ

پیشانیوں کا قبلہ

<p>عَبْدُ الْقَهَّارِ زربردست کے بندے</p>	<p>الْبَاطِنِ بِالْأَسْرَارِ اسرار کے محافظ</p>	
<p>الْأَخِيرِ سب انبیاء سے آخری</p>	<p>تَبَّ حَصْرَةَ أُولَى الْبَصَائِرِ ارباب بصیرت کے لئے سامان بصیرت</p>	<p>الظَّاهِرِ بالأنوار انوار میں ظاہر</p>
<p>مُطْلُوبِ الْحَصَائِرِ قدسی بارگاہوں کے مطلوب</p>	<p>ظَاهِرِ الظُّوْهِرِ سب ظاہروں سے ظاہر</p>	<p>خَطِيْرَةٍ الْخَطَائِرِ تمام بلند قدروں سے بلند قدر والے</p>
<p>عَالِيِ الْمُفَاخِرِ اعلیٰ اوصیاء والے</p>	<p>مَدَدِ السِّدَّوَاتِ مراکز انوار کے لئے مدد</p>	<p>مُعَدِّنِ الذَّخَائِرِ ادغام ترک کان</p>
<p>ضَوْءِ الْبَصَائِرِ بصیرتوں کی ضیاء</p>	<p>خَيْرِ الْأَخْيَارِ تمام بہترین لوگوں سے بہترین</p>	

<p>عَنْصُرِ الْعَنْصَامِرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>تمام عناصر کا عنصر</small></p>	<p>الْمُبْصُورِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>بزرگ ترین مبروں کے ساتھ بھیجے گئے</small></p>	
<p>صَفْوَةِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>مابین ناز ہستیوں میں برگزیدہ</small></p>	<p>صَاحِبِ الْقَلْبِ الْخَاشِعِ الذِّكْرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>ڈرنے والے اور ذاکر دل والے</small></p>	<p>الْمُبْصِرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>واضح روشن دلیل</small></p>
<p>مَرْكَزِ احَاظَةِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>ظاہر کے احاطہ کے مرکز</small></p>	<p>سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>انبیاء کرام کے نورانی آقا</small> الزَّاهِرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>بھلائی کی قوت مدرکہ</small> حَاسَةِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>بھلائی کی قوت مدرکہ</small> الْخَيْرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>بھلائی کی قوت مدرکہ</small> </p>	<p>فَذُلِكَ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>دفتر آخر کے خلاصہ</small> دَفْتَرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>دفتر آخر کے خلاصہ</small> الْآخِرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>دفتر آخر کے خلاصہ</small></p>
<p>الذِّكْرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>بھلائی کے</small> خَيْرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>بھلائی کے</small></p>	<p>سَيِّدِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>اولیاء عظام کے نورانی سردار</small> الْأَوْلِيَاءِ الْبَاطِنِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>اولیاء عظام کے نورانی سردار</small></p>	<p>الْخَيْرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>مجسم بھلائی</small></p>
<p>صَاحِبِ الْخَيْرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>خیر والے</small></p>	<p>وَسَائِدِ الْخَيْرِ <small>اللهم صل على محمد وآل محمد</small> <small>خیر کے پیشوا</small></p>	

أَتَقَىٰ مِنْ حَلْقِ رَأْسِهِ وَقَصَرَ

متقی ان تمام سے جنھوں نے سر منڈایا یا بال کٹائے

الْبُرِّ

مجسم نیکی

نُورٍ بِمَا هُوَ سُرٌّ

سراسر نور باوجود راز مخفی ہونیکے

مَا حَى الضَّيْرُ

مزر کو مٹانے والے

الْأَبْرُ

تمام جہان سے پاک

الْحَبِيبِ الْمُعْتَبِرِ

لاائق اعتبار حبیب

الْمُعَزِّزِ

تعلیم کئے گئے

الْأَعْرَى

روشن پیشانی والے

الْكَرْمِ مِنْ صَلَّى وَأَبْرَ

مکرم ترین نماز ادا کرنیوالوں اور محسنین سے

كَثِيرِ التَّفَكُّرِ

زیادہ سوچ بچار کرنیوالے

الْبَبْسِيِّ

بشارت دینے گئے

الْمُمَسِّرِ

دین میں آسانی دینے گئے

الْمُطَهَّرِ

پاک کئے گئے

الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَلَى الْخَلْقِ بِمُصَيِّرٍ

جو نہیں ہیں مخلوق پر سختی کر کے عمل کرنے والے

السُّنُورُ الْأَوَّلُ فِي الظُّهُورِ

نورِ اَوَّلِ ہیں بلحاظِ ظہور کے

المُظْهِرِ

دین کو ظاہر کرنے والے

المُعْطَى

خوشبو والے

الْمُغْبَرِ

کے زیادہ غیر تمند

الْمُسْنِ

الف لام میم را

المُسْنَدِ

مدد کرنے میں غالب

المُسْتَعْفَى

بخشش مانگنے والے

الْمُخْبِرِ

خبر دینے والے

المُغْبِرِ

برے نام بدل دینے والے

بَدْرِ الْبَدْوِ

ماہتابوں کے ماہتاب

المُسْتَنْصِرِ

مدد طلب کرنے والے

النَّبِيِّ الْمُنْذِرِ

متنبہ کرنے والے نبی

الْمُنْهِي

دہرائی پر ڈانٹنے والے

الَّتِي مِنْ كُلِّ جَوْرِ

ہر قسم کے جور و ستم سے پاکیزہ دامن

<p>عَبْدُ الْمَصُورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ الْمَصُورِ</small> مصور کے بندے</p>	<p>الَّذِي شَقَّ الْقَسْمَ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي شَقَّ الْقَسْمَ</small> جس محبوب نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي شَقَّ الْقَسْمَ</small></p>
<p>الْمُخْتَارِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ</small> جو کوئی کیلئے چنے گئے <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ</small></p>	<p>الْمُجِيرِ مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُجِيرِ مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ</small> قبر کی وحشت سے بچانے والے <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُجِيرِ مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ</small></p>
<p>عَبْدُ الْغَفُورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِ الْغَفُورِ</small> غفور کے بندے <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِ الْغَفُورِ</small></p>	<p>الَّذِي فِي الْقَدْرِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي فِي الْقَدْرِ</small> تقدیر میں ہمیشگی والے <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي فِي الْقَدْرِ</small></p>
<p>الْمُجِيرِ مِنَ الشُّبُورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُجِيرِ مِنَ الشُّبُورِ</small> تباہی بچانے والا <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُجِيرِ مِنَ الشُّبُورِ</small></p>	<p>الْأَنْبِيَاءِ الْمُبْرُورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْمُبْرُورِ</small> انبیاء کا مقبول حج <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْمُبْرُورِ</small></p>
<p>ظُفُورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ظُفُورِ</small> بڑے فتح مند <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ظُفُورِ</small></p>	<p>عَبْدِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ</small> اللہ کے عبد اکبر <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ</small></p>
<p>عَبْدُ الصَّبُورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِ الصَّبُورِ</small> صبور کے بندے <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِ الصَّبُورِ</small></p>	<p>وَإِضْحِ النُّورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَإِضْحِ النُّورِ</small> واضح نور والے <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَإِضْحِ النُّورِ</small></p>
<p>سَعَى الْأَنْبِيَاءِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَعَى الْأَنْبِيَاءِ</small> انبیاء کی قابل شکر سعی <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَعَى الْأَنْبِيَاءِ</small></p>	<p>وَأَضْحِ الظُّهُورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَأَضْحِ الظُّهُورِ</small> واضح ظہور والے <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَأَضْحِ الظُّهُورِ</small></p>
<p>مُسَهِّلِ الْأُمُورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُسَهِّلِ الْأُمُورِ</small> تمام امور میں وسیلہ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُسَهِّلِ الْأُمُورِ</small></p>	<p>الْوَسِيلَةَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْوَسِيلَةَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ</small> امور کو آسان کرنے والے <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْوَسِيلَةَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ</small></p>

<p>الَّذِي كَلَامُهُ مُؤْتِرٌ <small>جن کا کلام پُر تاثیر ہے</small></p>	<p>الَّذِي كَلَامُهُ مُؤْتِرٌ <small>جن کا کلام پُر تاثیر ہے</small></p>
<p>الْأَسْنَدُ الْأَنْوَرُ <small>نورانی سند</small></p>	<p>الَّذِي كَلَامُهُ مُؤْتِرٌ <small>جن کا کلام پُر تاثیر ہے</small></p>
<p>عَبْدُ الْغَفَّارِ <small>غفار کے بند</small></p>	<p>مَنْ سَجَدَ لَهُ الْأَشْجَارُ <small>جن کو درختوں نے سجدہ کیا</small></p>
<p>ضَادِ ضَخَاءٍ <small>ضادِ ضحیٰ</small></p>	<p>الْمَسْجِيُّ مِنْ شَرِّ <small>مسیحیوں کے شر سے</small></p>
<p>نُورِ الْأَنْوَارِ <small>نوروں کا نور</small></p>	<p>مُقْبِلِ الْأَعْدَارِ <small>عذر قبول فرمانے والے</small></p>
<p>نُونِ نَعِيمٍ <small>نیم ابرار کی نون</small></p>	<p>الْمُخْتَارِ الْأَسْرَارِ <small>اسرار و رموز کیلئے چُننے گئے</small></p>
<p>مِثْقَالِ الْأَسْرَارِ <small>مواد اسرار و رموز کی میم</small></p>	<p>الَّذِي هُوَ شَدِيدٌ عَلَى الْكُفَّارِ <small>جو کفار پر سخت ہے</small></p>

<p>المُهْدِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</small> نورِ معاف فرمایو الے</p>	<p>المُنْذِر <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</small> متنبہ کرنیوالے</p>
<p>الَّذِي رَفَعَ لَهُ بَيْتَ الْمَعْمُورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</small> جن کے سامنے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا</p>	
<p>الَّذِي كَانَ اللَّهُ لَهُ نَاصِرًا <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</small> وہ ذات جن کی اللہ نے ہر لمحہ مدد کی</p>	<p>أَوَّلِ مَنْ مَخَّاطَبَهُ الرَّبُّ الْغَفُورُ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</small> اُن سے اول جن سے رب غفور (روزِ محشر) مخاطب ہوں گے۔</p>
<p>الَّذِي نَزَّحَ فِي النُّورِ <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</small> جن کو نور میں آراستہ کیا گیا</p>	

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا عَلَيْكَ
 اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنا اے ہمارے رب ہم نے
 تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَاوْا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
 تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف پھرنے والے ہمارے رب ہمیں
 فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي و
 کافروں کی آغوش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ تو میرے اور میرے
 وَبَيْنَ ذَنبِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَنَقِّنِي
 گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ تو نے مشرق و مغرب کے درمیان رکھا ہے اور مجھ
 مِنْ خَطِيئَتِي كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ مِنَ الدَّنَسِ أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
 کو میری خطاؤں سے ایسا پاک صاف کر دے جیسا تو کپڑے کو میل کچیل کے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ
 قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے طفیل۔

اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى وَنَقِّنِي بِالتَّقْوَى وَاعْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ

اے اللہ مجھے راہ دکھلا کمال ہدایت کے ساتھ اور پاک فرما کمال تقویٰ کے ساتھ اور میرے لئے مغفرت فرما

وَالْأُولَى اللَّهُمَّ اسْطِ عَيْنِنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ

آخرت اور دنیا میں۔ اے اللہ ہم پر پھیلا اور عام فرما اپنی برکات اور رحمتیں اور

وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي وَنَصِيرِي بِكَ

فضل اور رزق کو اے اللہ تو ہی میرا دست و بازو اور ناصر ہے تیری

أَحْوَالِي وَبِكَ أَصُولِي وَبِكَ أَقَاتِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

توفیق سے طاقت پاتا ہوں اور تیری توفیق سے ہی عملہ آور ہوتا ہوں اور تیری تقویت کے ساتھ قتال کرتا ہوں اور نہیں قوت

اللَّهُمَّ حَبِّبِ الْإِيمَانَ وَنَرِّينَهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَسِّرْ

طاقت مگر ساتھ تیرے۔ اے اللہ محبوب بنا دے ہمارے لئے ایمان کو اور اسے مزین فرما ہمارے قلوب میں اور ناپسندیدہ

إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ

بنا ہمارے نزدیک کفر و فسق اور نافرمانی کو اور ہمیں سیدھی راہ والوں سے بنا۔

وَتَوْفِنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقُّنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا

اور ہمیں وفات دینا حالت اسلام پر اور لائق فرما صالحین کے ساتھ درآں حالیکہ نہ رسوا ہو نہ خزانے ہوں اور

مَفْتُونِينَ لَا اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ

دفتنہ میں مبتلا۔ اے اللہ! بیشک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری باندی

أُمَّتِكَ نَأْصِيتِي بِيدِكَ مَا ضُنَّ فِيهِ حَكْمُكَ

کا بیٹا۔ میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے اور

عَدْلُكَ فِي قَضَائِكَ ط

میرے حق میں تیرا ہر فیصلہ سراسر عدل ہے۔

گیا وہیں منزل

اے اللہ ہریرہ مال پنے ماتحتوں پر احسان کر کیونکہ جس نے ان سے برا سلوک
کیا وہ اس کو پل صراط پر روک لیں گے اور اس سے چمٹ جائیں گے۔ پس
بہت سے ایمان دار پل سے قصاص کے لئے واپس کر دیے جائیں گے

تم ہو حقیقہ و معنیٰ، کیا ہے وہ دشمن خبیث
تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيدُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا وَهَّابُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُورَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُورَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِحَالِ الْأَحْوَالِ الْمُعْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِقِينَ وَالْأَهْلِ وَسَائِرِ الْعَالَمِينَ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُتُبَ الْكُتُبَ الْكُتُبَ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُؤَقِّرِ</p> <p>باقار</p> <p>ﷺ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَنْظِرِ</p> <p>انتظار کرنے والے</p> <p>ﷺ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَنْظِرِ</p> <p>انتظار کئے گئے</p> <p>ﷺ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي أُعْطِيَ</p> <p>تَزَكِيَّةَ أُمَّتِهِ</p> <p>فِي الْمُحَشِّرِ</p> <p>جن کی امت کو محشر میں پاکیزگی عطا کی گئی۔</p> <p>ﷺ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّيِّدِ الْمُطَهَّرِ</p> <p>پاک کر نیوالے سردار</p> <p>ﷺ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُدَّتِّرِ</p> <p>چادر میں لپٹنے والے</p> <p>ﷺ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسَيِّرِ</p> <p>آسانی پیدا کر نیوالے</p> <p>ﷺ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسَنِّوْرِ</p> <p>دلوں کو روشن کر نیوالے</p> <p>ﷺ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُبَشِّرِ</p> <p>بشارت دینے والے</p> <p>ﷺ</p>
	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُقَصِّرِ</p> <p>بال ترشوانے والے</p> <p>ﷺ</p>	

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُذَكِّرِ

نصیحت کرنیوالے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُشَاوِرِ

مشورہ لینے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْأَخِيرِ

بہت زیادہ اچھے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُسَخِّرِ

تفخیر لگانے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُكْتَرِ

اللہ کی بڑائی بیان کرنیوالے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُشِيرِ

مشورہ دینے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْبَسَائِدِ

سبقت لیجانے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُسَبِّرِ

اسد الشد

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْجَسَّارِ

بہت دلیری کرنے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُسَقِرِ

شریعت مقرر کرنیوالے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْبَسَّارِ

شمشیر بران

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُبْصِرِ

نگہبان

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَفْخَرِ

لائقِ فخر

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
التَّابِشِيرِ
خوشخبری

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي جَلَبَتْ عَلَيْهِ الظُّهُرُ
جن پر آشکار کی گئی صلوةِ ظہر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْكُبَّارِ

بڑائی والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
بَدْرِ الْمُحْشَرِ

روزِ محشر کے ماہِ تمام

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبُرْجِ الْأَكْبَرِ
بہت بڑا واسطہ
(خالق و مخلوق میں)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَكْبَرِ

بڑے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَطْهَرِ
بہت پاکیزہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُدْرِ
الْأَزْهَرِ

نورانی موتی

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَزْهَرِ
سفید رنگ والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
السِّرَاجِ الْمُنِيرِ
الْأَزْهَرِ
روشن چمکنا ہوا چراغِ نور

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُدْرِ
الْأَبْهَرِ
روشن ترین جوہر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُظَفَّرِ

کامیاب

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ

یا قوتِ سُرخِ

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

السِّرِّ الْأَكْبَرِ

بڑا راز

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الذِّكْرِ

ماحبِ شرفِ

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْبَيْتِ الْحَوِيَّةِ

الْكَفْرِ

جن کے طفیل کفر کو مٹایا گیا

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

رَيْسِ الْمَشْرِقِ

روزِ مشرق کے رئیس

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُظَهَّرِ سِرِّ الضَّمِيرِ

دلوں کے مخفی اسرارِ ظاہر کرنے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الَّذِي

شَرَّحَ

صَدْرَهُ

وہ ذات جن کا سینہ کھولا گیا

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَحْمَدَ هَذَا

الْعَالَمِ الْكَبِيرِ

وَالصَّغِيرِ

اس عالمِ کبیر و صغیر میں سب سے زیادہ حمد کرنی والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ الْحَصِيرِ

چٹائی پر بیٹنے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَحَقَّ لِلْخَلْقِ بِالنُّوقِيرِ

سب مخلوق سے زیادہ حقدار بلحاظ توقیر

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُتَوَجِّعِ

بِالنُّورِ

انوارِ الہیہ کا تاج پہننے والے

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الرَّأْيِ
الْمُنْصُورِ
تاہد کی گئی راتے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِ أَهْلِ الشُّعُورِ
اہل شعور کے سردار
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَسْبَابِ السَّرُورِ
خوشی کے اسباب

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْبُحَيْشِ
الْمُنْصُورِ
مدکنے گئے لشکر والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
اللسَّانِ
الشُّكُورِ
شکر کرنے والی زبان والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُشْرِقِ الْجَنَّةِ وَالنُّورِ
تجلی و نور کے مشرق
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْبَدَنِ الصَّبُورِ
بہت بردبار بدن والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
بَاهِرِ
الْوُضَاءِ
وَالظُّمُورِ
ریشنی اور ظہور میں بالکل واضح

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْقَلْبِ
الْمُشْكُورِ
لا تبق شکر دل والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْأَسْمِ الْمَذْكُورِ
ہر زمان و مکان میں ذکر
کئے جانے والے نام والے
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْقُصُورِ
محلّات والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْعَالَمِ
الْبَشُورِ
مشہور پرچم والے

اللہم صل علی
مُبَارَكِ
النُّورِ
با برکتِ روشنی والے

اللہم صل علی
غُرَّةِ النُّورِ
نور و ضیاء کی واضح علامت
رَاكِبِ عَفْوَرٍ
یعفور کے سوار

اللہم صل علی
مُدَبِّرِ
الْأُمُورِ
امور کی تدبیر فرمانے والے

اللہم صل علی
شِفَاءِ
الصُّدُورِ
سینوں کے لئے شفا

اللہم صل علی
رَحِيمٍ بِالطَّيُورِ
پرندوں کے ساتھ پیار کر نیوالے
قُرَّةِ عَيْنِ الصُّدُورِ
دلوں کی آنکھوں کے لئے

اللہم صل علی
فَوَائِحِ
النُّورِ
چھپے نور کے کھولنے والے

اللہم صل علی
صَدْرِ
الصُّدُورِ
صدروں کیلئے صدقہ

اللہم صل علی
زُورِ السُّرُورِ
سرور کی بلند چوٹی
صَاحِبِ الطُّهُورِ
پاکی والے

اللہم صل علی
الْمُؤَيَّدِ
بِالسُّورِ
قرآنی سورتوں کے ساتھ
تائید کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَكْبَرِ

بڑوں کے سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَسَنِ الْفِعَالِ الْأَنْوَرِ

اچھے روشن اعمال والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَمْرِ

چھوٹوں کے سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَوَّلِ النَّاسِ قِيَامًا لِلْمُحْشَرِ

سب لوگوں سے پہلے اٹھنے والے محشر کے لئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمَغْفِرِ

مغفروالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْيَوْمِ الْأَزْهَرِ

روشن ترین دن والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّافِعِ فِي الْمُحْشَرِ

روزِ محشر حق شفا دیتے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى زَيْنِ الْمُحْشَرِ

میدانِ محشر کی زینت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْصُوصِ بِالْكُوثَرِ

جو مخصوص ہیں کوثر کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَأْفِ الْمُنْبَرِ

منبر پر قدم مبارک رکھنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْقَامِ عَلَى الْمُنْبَرِ

منبر پر خطبہ دینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمُنْبَرِ

منبر والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِبِ
الْمَشْحَرِ

مزدلفہ میں ٹھہرنے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِبِ الْمَشْرِ

مشر والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نَبِيِّ الْأَحْمَرِ

سفید لوگوں کے نبی

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِبِ
الْمِئْزَرِ

تہہ بند والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

شَاقِ
الْقَسْرِ

چاند کو ٹکرے کر نیوالے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نَبِيِّ الْمِنْبَرِ

منبر والے نبی

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رَحَبِ الصَّكْرِ

فراخ سینے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الْمُنْقِدِ
مِنَ السَّقْرِ

آگ سے بچانے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِبِ
النَّحْمِ

موتیر نصیحت

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِبِ الْجَبِينِ الْأَزْهَرِ

روشن پیشانی والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

أَسْبَابِ الْيُسْرِ

آسانی کے اسباب

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِبِ
النَّهْمِ
عَنِ الْمُنْكَرِ

نبی عن منکر

ﷺ

<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى كَائِمِ الذِّكْرِ</p> <p>ہمیشہ ذکر کر نیوالے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى كَائِمِ الْبَشْرِ بہمیشہ خوش رہنے والے</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى جَمِيلِ الذِّكْرِ جمیل ذکر والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى كَائِمِ الْفِكْرِ</p> <p>ہمیشہ سوچ (مراقبہ) میں رہنے والے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْحَوْضِ وَالْكُوْثَرِ</p> <p>صاحب حوض و کوثر</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اَطْيَبِ الذِّكْرِ پاکیزہ ذکر والے</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْكُوْثَرِ حوض کوثر والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعْطَى الْكُوْثَرِ</p> <p>حوض کوثر دیئے گئے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُفْتَخِرِ بِنِدَاءِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ</p> <p>انا اعطيتك الكوثر کی نداء کے ساتھ فخر کئے گئے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَفِيْعِ الذِّكْرِ بلند ذکر</p> <p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اَنْسِ الْخَفْرِ شرمیلے، چادار کے انس</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمَسْبُورِ</p> <p>اناج والے خوراک والے</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ
الْمِعْرَاجِ
الْأَكْبَرِ

بڑی معراج
والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ لِحْظِ الْأَوْفَرِ

دافر جھٹے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي كَانَ حَادًّا الْبَصَرِ

جو بہت تیز نظر والے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ
الطَّرْفِ
الْأَحْوَرِ

سرگیں
آنکھوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بَشَرٍ
لَا كَالْبَشَرِ

ایسے جن کی مانند اور کوئی
بشر نہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي كَانَ مُعْتَدِلًا
الْأَمْرِ

جو میسرانہ روی اختیار
کرنے والے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مَوْجِبِ الشُّكْرِ

شکر باری تعالیٰ
کے موجب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ
الْبَشْرِ

بارونق چہرے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي
صُوِّرَتْ
أَحْسَنُ الصُّوْرِ

وہ ذات جن کی صورت تمام
صورتوں سے
بہتر ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ الْوِثْرِ

یکتائی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ جَهَةِ الْأَنْوَارِ

چمکتے چہرے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الْمَخْصُوصِ
بِالْفِطْرِ

عید الفطر کے ساتھ مختص
کئے گئے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
نَاجِ أَهْلِ
الْحَضْرَةِ

حضورِ کریموں میں
سرگوشی کر نیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُنَزَّةِ مِنَ الْقَدْرِ

ہر نامناسب چیز سے پاک

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
جَالِي الْكُفْرِ

کفر کو دور کر نیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
كَافِرِ
الْكُفْرِ

کفر کو دور
کر نیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
بَدْرِ
الْهَلِ
الْحَضْرَةِ

حضورِ والوں کے
ماہِ تمام

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُذْهِبِ الْعُسْرِ

تنگ دستی کو دور کر نیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
كَانُوا السِّرِّ

راز کو چھپانے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُذْهِبِ الْفَقْرِ

تنگی کی دور کر نیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُجَمِّلِ
السِّرِّ

باطنِ خلق کو
سین بنانیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
خَائِنِ السِّبْرِ

نیک کی انتہا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
كَاشِفِ السِّرِّ

پردہ اٹھانے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
سِرِّ
مَكِّ سِرِّ

ہر راز کا راز

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

قَائِدِ الْغُرِّ

پنج کلیانوں کے پیشوا

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

النَّذِيرِ

ڈرانے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

السَّراجِ

الْمُنِيرِ

روشن چراغ

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

صَاحِبِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ

خیر و احسان والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

زِعْمِ الْمَجْبُرِ

بہت اچھے پناہ دینے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُنِيرِ

سُورِ كَرِيمِ

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْخَبِيرِ

خبر رکھنے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْبَصِيرِ

دیکھنے والے اجمال حقیقی کو

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْبَشِيرِ

بشارت دینے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُجْبِرِ

اچھے عظیم والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْأَجْبِرِ

پناہ دینے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الْمُسْتَجِيرِ

پناہ پکڑنے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي كَبِيرٌ
مُعْتَمِرٌ

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي شَرَفَهُ

جن کی بزرگی
پاک ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي نُوْرُهُ بَاهِرٌ

جن کا نور چمک رہا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي شَبِيرٌ
نَصِيحَتِ كَرِيْمٍ

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي مُجِبِرٌ
پِنَاهِ دِيْنِي وَالِي

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي نُوْرٌ بِمِثْلِ هُوْبِيْرٍ
پوشیدہ کی وضاحت

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي سِرَاجِ الْمَلِكِ الْخَضِرِ
اہل حضور کے چسراغ

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي سِرِّي بِمِثْلِ هُوْنُوْرٍ
رازِ مخفی ہیں باوجود نور ہونے کے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي اَعْلَامُهُ مَنشُوْرٌ
جن کے جھنڈے لہرا رہے ہیں

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي نِعْمَ
النَّصِيْرُ

بہترین
مددگار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي نِعْمَ
الْاَمِيْرُ

بہترین مددگار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي مَجْلِسُهُ
مَحْضُوْرٌ

وہ ذات جو حضور
مجلس والے ہیں

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عَبْدِ النُّوْرِ

نور کے بندے

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الْمُحَبُّوْبِ عِنْدَ الْقَادِرِ

قادر کے ہاں محبوب

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
عَبْدِ الْاٰخِرِ

آخر کے بندے

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عَبْدِ الشُّكْرِ

شکور کے

بندے

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مُشْرِقِ
الضُّوْاِهِرِ

روشن ظواہر والے

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الْمُحَبُّوْبِ الظَّاهِرِ

ظاہر کے ہاں محبوب

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اَحْمَدَ هٰذَا الْعَالَمِ
الصَّخِيْرِ

اس عالمِ صغیر میں سب سے زیادہ
حمد کر نوالے

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عَبْدِ الظَّاهِرِ

ظاہر کے بندے

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الْمُحَبُّوْبِ

عِنْدَ الْكَبِيْرِ

کبیر کے ہاں محبوب

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اَحْمَدَ هٰذَا الْعَالَمِ
الْكَبِيْرِ

اس عالمِ کبیر میں سب سے زیادہ حمد کر نوالے

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
عَبْدِ الْبَصِيْرِ

بصیر کے بندے

ﷺ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مَنْ شَكَى
اِلَيْهِ الْبَحِيْرُ

جن کی بارگاہ میں اونٹ
نے شکایت کی

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

عِنْدَ الْخَبِيرِ
خیرا اللہ کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

عَبْدِ الْجَبَّارِ
جبار کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

عَبْدِ الضَّارِّ
ضار کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

مَنْ سَلِمَتْ عَلَيْهِ الْأَجْزَامُ
جن کو پتھروں نے سلام کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

عِنْدَ الضَّارِّ
ضار کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

زَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْإِخْيَارِ
چنے ہوئے رسولوں کی زینت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

عِنْدَ الْفَهَّارِ
تہار کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

عَبْدِ الْقَهَّارِ
تہار کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

عِنْدَ الصَّبُورِ
صبور کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

عِنْدَ الْخَفُورِ
خفور کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَالْحَبِيبِ
وَالْمُحِبُّوبِ

عِنْدَ الشُّكُورِ
شکور کے ہاں محبوب

نَصْرٍ
مُؤَزَّرٍ

مطلق امداد

اللہ تعالیٰ

الْعَاصِمِينَ الْأَنْوَارِ

روشن آنکھ

اللہ تعالیٰ

الَّذِي جَاءَ بِالسُّورِ

جو قرآنی سورتوں کے ساتھ تشریف لے کر آئے

اللہ تعالیٰ

الْكُوكِبِ

النَّكَائِرِ

نورانی ستارے

اللہ تعالیٰ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا

اے ہمارے رب
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
تیرے رحمت و علم میں پہنچے
رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
کو سمائی ہے تو انھیں
لِلَّذِينَ تَابُوا
بخش دے جنھوں نے توبہ کی

الَّذِي جَعَلَتْ
لَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

جن کے لئے سورج اور چاند کو بنایا گیا

اللہ تعالیٰ

وَالْمُخْلِصِينَ لِلَّهِ بِالشَّهَادَةِ
وَالْإِقْرَارِ

جو مخلص ہیں اللہ کے لئے گواہی و اقرار کے ساتھ

اللہ تعالیٰ

وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

اور تیری راہ پر چلے

وَقِهِمْ عَذَابَ

اور انھیں دوزخ کے

الْجَحِيمِ

عذاب سے بچالے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں جہنم کے عذاب سے

وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

اور قبر کے عذاب سے اور زندگی و موت کے فتنوں سے

وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

اور کانے دجال کے فتنے سے۔ (اے اللہ) قبول فرما نبی کریم ﷺ کی عزت کے طفیل۔

بارہویں منزل

سرور کونین ﷺ نے فرمایا! اے ابو ہریرہ! جن مومنوں نے صغائر اور
کبار گناہ کئے ہیں انہیں کہہ دے کہ ان میں سے کوئی ایک ایسے حال میں نہ
مرے کہ ان گناہوں پر مُصر اور پختہ ہو گیا ہو کہ جس نے اس حال میں خدا
سے ملاقات کی کہ وہ گناہوں پر مُصر ہے تو اسے صغیرہ گناہ کی سزا اس طرح
دی جائے گی جیسے کبیرہ کی جس پر وہ مُصر رہا ہو۔

۵۹ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج

کوئی بھی ایسا ہوگا تم سے کہ دروں دروں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبِي يَا قَوْمِي يَا بَيْتِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا كَلِمَةَ الْكَلِمَاتِ وَالْأَكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِقِينَ وَآلِهِ وَمَسْأَلَةِ تَعَالَى الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَكَرَامَةً الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ
عَمَّا كَرِهَ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

النَّاصِرِ مددگار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْكَمَالِ الْفَاخِرِ سراسر کمالِ فخر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْأَخِرِ سب نبیوں کے بعد آنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

خَيْرِ الْأَوَاخِرِ بہتر و برتر ہیں اواخر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْفَاخِرِ صاحبِ فخر نبی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَوَّلِ خَلِيفَةٍ لَهٗ فِي الْعَالَمِ الْعَنَّاصِرِ عالمِ عناصر میں خلیفہ اول

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُشَاكِرِ شکر گزار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

عَبْدِ الْفَائِدِ قُدْرَتِ وَالے کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الذَّاكِرِ ذکر کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُبِيدِ الْمُتَنَاكِرِ بُرائیوں کو تباہ کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

حَبِيبِ اللِّسَانِ الصَّادِقِ الشَّاكِرِ سچی شکر گزار زبان والے

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْحَانُومِ السُّورِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْمَعَاشِرِ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ آخری ہیں اشخاص (انبیاء کی رو سے) قُدْوَةٌ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ جماعتوں کی زینت أَوَّلِ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِّ سَائِكٍ وَسَائِرِ</p> <p>ہر سالک اور رہرو کے پیشوا</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الرَّسَلِ الْمُدَّتِرِ</p> <p>رسولوں میں پہلے مدثر</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ جَابِرِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا حَبِ حَايِدِرِ</p> <p>حیدر رضی اللہ عنہ کے مصاحب</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِّ كَسْبِرِ</p> <p>ہر بے سروسامان کے ذخیرہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ دَائِلِ كُلِّ تَائِهِ وَحَايِرِ</p> <p>دلیل میں ہر حیران و سرگرداں کے لئے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مُهَاجِرِ مَوْلِدِ مُعِ ابْنِ بَكْرٍ</p> <p>ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَا طِنِ بِطَا هِرِ</p> <p>ہر ظاہر کا باطن</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَاكِبِ عَفِيرِ</p> <p>عفیر کے سوار</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَبْرِ انْصَارِ</p> <p>بہترین معاون</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ اللُّوَاءِ
المُنِيرِ
 روشن جھنڈے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

هَيَوَالِي التَّسْفِيرِ
 تقدیر کا اصل جوہر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نُورِ قَبْلِ
كُلِّ نُورٍ
 ہر نور سے پہلے کے نور

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَالْتَقَطِيرِ
 تھلین و بسطِ غلاتق
 کا مادہ اولین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مَنْقَرِ
كُلِّ نُورٍ
 نور کو منور کر نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

المُذَكَّرِ
 ذکر کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الصَّبُورِ
 بڑے صبر والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الغُفُورِ
 معاف کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الظُّهُورِ
 پاک صاف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الظُّفُورِ
 فیروز مند

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الغُفُورِ
 بخشنے والے

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الشُّكُورُ</p> <p>بہت شکر گزار</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْغَيُورُ</p> <p>غیر منس</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>النُّورُ</p> <p>نور</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْوَقُورُ</p> <p>باوقار شخصیت</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>المُسَيَّرُ</p> <p>پاک دامن</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>المُسَبِّتُورُ</p> <p>جس پر حسد کیا گیا ہو</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>المُنْصُورُ</p> <p>مدد فرماتے گئے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>فِكَالِ الْأَسْبَرِ</p> <p>ایران (نفس و شیطان) کیلئے سببِ نجات</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>رَحِّ الْأَنْبِيَاءِ</p> <p>المُسَبِّرُ</p> <p>انبیاء کا مقبول حج</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>

اللہ تعالیٰ

السَّيِّدِ الْهَبْرُ

بہت زیادہ مشہور

اللہ تعالیٰ

اللَّامِتِّهِ

اپنی امت کو آگ سے بچانے والے

اللہ تعالیٰ

الَّذِي كَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ

جن کا چہرہ مبارک گول تھا

اللہ تعالیٰ

الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ الْأَبْرَارَ

جن کے اصحاب کو اللہ نے نیک بنایا۔

اللہ تعالیٰ

حَسَنِ الثَّغْرِ

خوبصورت دانتوں والے

اللہ تعالیٰ

قَابِلِ الْعُدِّ

عذر قبول کرنے والے

اللہ تعالیٰ

فَوَاحِشِ السُّورِ

سورتوں کے شروع میں جنہیں مخاطب کیا گیا

اللہ تعالیٰ

مُبَارِكِ الذِّكْرِ

بارک ذکر والے

اللہ تعالیٰ

صَاحِبِ السَّائِرِ

خوش حصال

اللہ تعالیٰ

رَجَلِ الشَّعْرِ

ہلکے گھنگھریالے بالوں والے

اللہ تعالیٰ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ بَرِّءٌ مِنْ الْكُفْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَكْتَبَةُ الذِّكْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>سِرِّ أَوَائِلِ السُّورِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَوْجِبَاتِ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الَّذِي يُدِّدُ بِالآيَاتِ وَالسُّورِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>رُوحِ أَرْوَاحِ الصُّورِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>		
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مُخَزِّنِ نِكَاتِ مُقَطَّعَاتِ السُّورِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَعْبِدَ مَنْ قَامَ اللَّيْلَ حَتَّى السَّحْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>خَيْرِ الْبَشَرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>شَافِي الْفَسْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَجْمَلِ الْوُجُودِ وَالصُّورِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>بِهَيْرِ الْبَشَرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

قَاسِمِ النَّاسِ
کجھوین تقسیم کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَالْبَشِيرِ
انسان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُنْقِدِ مِنَ السَّقَرِ
جہنم سے بچانیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْفُطْرِ
پاند

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الذَّخْرِ
ارحمتوں کے ذخیرہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَنْ ذَا بَحٍّ وَنَحْرٍ
تمام ذبح اور نحر کرنیوالوں سے عظیم تر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَفْضَلِ مَنْ أَعْتَمَرَ
تمام عمرہ کرنیوالوں سے افضل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَرْوَاحِ مُضَرَ
بنی مضر کی بارعب شخصیت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

السَّيِّدِ الْبَدْرِ
وہ سردار جو چودھویں کے چاند ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

النَّاصِرِ
بارونق چہرے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ عِلْمٍ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مصاحب

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فَوَائِحِ النُّورِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الظَّفَوْرِ</p>
<p>نورِ ہدایت کی شروعات</p>	<p>بہت زیادہ کامیاب</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ و ۶۷ الْبَدْرِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَبِرِ</p>
<p>چودہویں رات کا چاند</p>	<p>قائم رہنے والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْبُجَاهِدِ لِأَهْلِ الْكُفْرِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَرِيضِ الْمَسْكَدِ</p>
<p>کفر کرنے والوں کے خلاف جہاد فرمانے والے</p>	<p>کٹادہ سینے والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْبُجْرِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمَخْصُومِ بِالنَّحْرِ</p>
<p>بحرِ سیکراں</p>	<p>جو مخصوص ہیں اذیتوں کی قربانی کے ساتھ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَسِيعِ الصَّدِّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْفَخْرِ</p>
<p>وسیع سینہ والے</p>	<p>سراپا فخر</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جَلِيلِ الْقَدْرِ
جلیل القدر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سَلِيمِ الصَّدْرِ
(کینہ وغیرہ سے محفوظ و سالم)
سینہ والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُطَّلِعِ الْفَجْرِ
مطلع فجر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

دَائِمِ الصَّبْرِ
ہمیشہ صبر کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

عَبَقَةِ الذَّهْرِ
پھول کی بہک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُبَارِكِ الْأَمْرِ
بابرکت حکم والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

عِطْرِ الذَّهْرِ
پھول کی خوشبو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَاشِفِ الظُّهْرِ
پیٹھ مبارک نکلی کرینوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُبَارِكِ الْقَبْرِ
بابرکت قبر والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُرَشَّشِ الْقَبْرِ
چھڑکاؤ والی قبر والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

أَبِي الطَّاهِرِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ابو طاہر

الْمَحْبُوبِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الَّذِي هُوَ شَاهِدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَلَى الْأَنْبِيَاءِ

جو انبیاء پر گواہ ہیں

عَبْدِ الْكَبِيرِ

کبیر کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَبْدِ الْخَبِيرِ

خبیر کے بندے

عِنْدَ الْبَصِيرِ

بصیر کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ بَجِي
مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَالْكَشْرِ

قبر و حشر کے فتنہ سے نجات
دینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِبِ

الْمُنَاشِيرِ

منشوروں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الْمُجِيرِ مِنْ

كُرْبَةِ الْكَشْرِ

قیامت کی پریشانی
تے بچانے والے

مِنْ تَفَيُّتٍ

مِنْ نُورِهِ الْأَزْهَارِ

جن کے نور سے کلیاں چٹھیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الَّذِي مِنْ

عَرَقِ وَجْهِهِ

خُلِقَ الْقَسْرُ

جن کے چہرے کے پسینے
سچا ند پیدا کیا گیا

الْمَحْبُوبِ

عِنْدَ الْمُؤَخَّرِ

مؤخر کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

المُحِبُّونَ عِنْدَ الْمُصَوِّرِ
مصور کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

عِنْدَ الْمُقْتَدِرِ
مقتدر کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

بِالْمُعَايِنَةِ
بِالْبَصَرِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

عِنْدَ الْمُتَكَبِّرِ
متکبر کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

عِنْدَ الْمُجُتَبِّبِ
آخر (اللہ) کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

عِنْدَ الْمُتَكَبِّرِ
متکبر کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

عَبْدِ الْمُؤَخَّرِ
مؤخر کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

الَّذِي نُورُهُ
مِنْ قَبْلِ كُلِّ نُورٍ
جن کا نور ہر نور سے پہلے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

المُحِبُّونَ عِنْدَ الْبَرِّ
بر (اللہ) کے ہاں محبوب

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْقَدْرِ</p> <p>لَيْلَةُ الْقَدْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْقَدْرِ</p> <p>لَيْلَةُ الْقَدْرِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَهْلِ</p> <p>السَّيِّدِ الْأَحْضَرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَهْلِ</p> <p>شہریوں کے سردار</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَمْرِ</p> <p>كُلِّ الْأَمْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَمْرِ</p> <p>ہر امیر کے امیر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ نُورِ الْبَدْرِ</p> <p>نُورِ الْبَدْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ نُورِ الْبَدْرِ</p> <p>نور بدر</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْفُقَرَى</p> <p>صَاحِبِ الْفَقْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْفُقَرَى</p> <p>صاحب فقر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْفَخْرِ</p> <p>فَخْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْفَخْرِ</p> <p>صاحب فخر</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>بَدْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>بدر میں نماز پڑھنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>ہر زمانے کے سردار</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>كُلِّ دَاهِيَةٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>ہر زمانے کے سردار</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>عَصْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>ہر زمانے کے سردار</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>كُلِّ دَاهِيَةٍ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>ہر زمانے کے سردار</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>عَلَى</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَدْرِ</p> <p>سب انبیاء سے اسنلی قدر والے</p>

أَفْذِلْ خَلْقٍ أَمْرًا اللہ تعالیٰ
 سب مخلوق سے زیادہ نافذ حکم والے اللہ تعالیٰ

أَعْمُرِ الْمُرْسَلِينَ اللہ تعالیٰ
 رسولوں میں سے زیادہ خوشخبریاں عام کرنے والے اللہ تعالیٰ

أَنْفِذِ خَلْقٍ اللہ تعالیٰ
 مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر امر و نہی کو نافذ فرمائیے والے اللہ تعالیٰ

أَشْرَفِ النَّاسِ فَخْرًا اللہ تعالیٰ
 سب لوگوں سے اشرف از روئے فخر کے اللہ تعالیٰ

أَرْفَعْ النَّاسِ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى ذِكْرًا اللہ تعالیٰ
 سب لوگوں کو بلند تر ملاءِ اعلیٰ میں از روئے ذکر کے اللہ تعالیٰ

أَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا اللہ تعالیٰ
 سب لوگوں سے اعلیٰ قدر والے اللہ تعالیٰ

أَعْظَمِ النَّاسِ فَخْرًا اللہ تعالیٰ
 سب لوگوں سے عظیم تر از روئے فخر کے اللہ تعالیٰ

أَكْمَلِ النَّاسِ نُورًا اللہ تعالیٰ
 سب لوگوں سے کامل ترین از روئے نورانیت کے اللہ تعالیٰ

أَعَزِّ النَّاسِ تَفَرُّدًا اللہ تعالیٰ
 عزیز و غالب جماعت والے اللہ تعالیٰ

خَيْرَ الْعَالَمِينَ

مَطْرًا

سب جان سے افضل

الَّذِي رَأَى
الْحِجَابَ الْأَعْظَمَ

وَالنُّورَ جُفُونَ

حجابِ اعظم اور نور کو دیکھا

أَجْرًا

النَّاسِ صَدًّا

تمام لوگوں سے زیادہ جرأت مند

الْمُتَّصِلِ

بِالْأَوَّلِ مَطْرًا

متصل ہیں ساتھ اول حقیقی اور

قدیم ذات کے اردئے

نظر عنایت کے

أَوْجَمِلِ النَّاسِ

صَبْرًا

سب لوگوں سے جمیل ترین صبر والے

أَحْسَنِ

النَّاسِ خَيْرًا

سب لوگوں سے حسین خیرات والے

أَعَزُّ الْأَنْبِيَاءِ سِرًّا

سب انبیاء سے عزیز تر سہولت والے

أَجَلِّ

النَّاسِ قَدْرًا

سب لوگوں سے اجل قدر والے


الْمُرْتَجِرِ

رَجْزٍ طَهْنِ وَالِ

أَسْبَرِ الْأَنْبِيَاءِ

فَاخِرٌ

سب انبیاء سے قابلِ فخر سیرت والے



<p>صَاحِبِ الْجَاهِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>صاحبِ الجاہ</p>	<p>صَاحِبِ اللَّفْظِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>صاحبِ اللفظ</p>
<p>الْجَرِيْبِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>جریب</p>	<p>الْوَجِيْزِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>وجیز</p>
<p>أَظْهَرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>اظہر</p>	<p>فَوَائِحِ الْفَوَازِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>فوائِحِ الفواز</p>
<p>الْمَخْلُقِ عِزًّا</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>المخلوقِ عزًّا</p>	<p>سَبَبِ الْفَوَازِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>سببِ الفواز</p>
<p>جَوَادِ السَّبْرَانِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>جوادِ السبران</p>	
<p>فَاتِحِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>فاتح</p>	<p>طِرَانِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>طران</p>
<p>مِغْلَاقِ الرَّمْرِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مغلاقِ الرمر</p>	<p>الَّذِي لَيْسَ ثِيَابَ الْعِزِّ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>الذی لیس ثیابِ العز</p>
<p>صَاحِبِ النَّزَارِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>صاحبِ النزار</p>	<p>جَوَادِ الْبَرَّازِ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>جوادِ البراز</p>

رُوحِ كَوَائِدِ

العَزِيزُ

عَالِمِ

الرَّمُوزِ

رموز کو جاننے والے

مَحَلِّ الرَّمْزِ

محل رمز

عَيْنِ العَزِيزِ

عزت کا نشان

بِكُنُوزِ الكُنُوزِ

سب خزانوں کا مخزن ہونے کے اعتبار سے عظیم تر

سِرِّ الرَّمُوزِ

تمام رموز کا راز نہاں

المُتَخَصِّصِ

بِالعَزِيزِ

مخصوص عزت والے

كُنُوزِ الكُنُوزِ

خزانوں کا خزانہ (معدن)

اللَّهُمَّ رَبَّنَا افرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِقًا وَسَلَامًا
 اے ہمارے رب ہم پر صبرِ اندیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَةً وَعَمْدِي
 اے اللہ تو میری نادانی سے اور جان بوجھ کر کئے ہوئے (بڑے کاموں) کو معاف فرما۔

أَمِيرِ بَجَاهِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ
 (اے اللہ) قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے طفیل۔

اللّٰهُمَّ اِذَا سَأَلَ مُحِبُّ بِاسْمِكَ مُحِبًّا وَ لَهُ قُوَّةٌ اَعْطَاهُ

اے میرے اللہ جب سوال کرے کوئی محب محب کے نام پر محب سے اور اسے طاقت عطا کی بھی ہو تو وہ مزدور عطا

فَلْيَعْطِهِ وَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ كَمَا يَنْبَغِي لِكَمَالِهِ

کرتا ہے اور محمد ان پر صلوٰۃ و سلام ہو جیسے کہ ان کے کمال کے لائق ہے تیری طرف

مِنْكَ وَ جَمِيعِ عِبَادِكَ مُحِبِّكَ وَ حَبِيبِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ اَسْأَلُكَ

سے اور تیرے تمام بندوں کی طرف سے "تیرے محب بھی ہیں اور حبیب و رسول بھی اور

بِاسْمِهِ فَاعْطِنِي يَا اَللّٰهُ مَا اَسْأَلُكَ وَ اقْضِ حَاجَاتِي كُلَّهَا وَ لَهْبُ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے نام کے وسیلہ سے پس عطا فرما مجھے اے اللہ جو میں مانگتا ہوں

لِي اِيْمَانًا دَائِمًا وَ يَقِيْنًا صَادِقًا لَيْسَ بَعْدَهُ الْكُفْرُ بِحَقِّ

اور پوری فرما میری تمام حاجات اور مجھے عطا فرما دائمی ایمان اور خالص یقین جس کے بعد کفر کا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ قَمَلَتِ

امکان نہ ہو بظہیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اے میرے اللہ تو نے اپنے فضل

بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَ اِحْسَانِكَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي

اور احسان کامل سے فرمایا ہے جب سوال کریں تم سے میرے بندے میرے متعلق تو میں

قَرِيْبٌ اَجِيْبُ دَعْوَةَ الدّٰعِي اِذَا دَعَانِ فَاِنِّي عَبْدُكَ الدّٰعِي

قریب ہوں۔ قبول کرتا ہوں دعا کرنے والوں کی دعائیں جب بھی مجھ سے دعا کریں تو میں بھی

اَلْاَن اِلَيْكَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ

تیرا بندہ ہوں جواب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ ہمیں راہِ راست پر چلا راہ ان لوگوں کی جن پر

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضّٰلِّيْنَ

تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ بھٹکے ہوؤں کی۔ آمین۔

اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْهٰنِئِيسُ لَنَا اَحَدٌ اِلَّا اَنْتَ وَ حَبِيْبُكَ

اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے نہیں ہمارے لئے کوئی بھی سوائے تیرے اور تیرے

وَ اَنَا لَكَ وَ اَنْتَ لَنَا وَ اَنْتَ وَ كَيْلُنَا كَافٍ وَ كَفَى بِاللّٰهِ وَ كَيْلَاطُ

حبیب کے اور میں تیرا ہوں اور تو ہمارا ہے اور تو ہمارا کفایت فرمائے والا کیل ہے اور کافی ہے اور بطور کار سزا کے

تیرہویں منزل

سرور کونین ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص صیام پر رات کے پیٹ
میں نماز ہے اگر چہ بکری دہنے کی مقدار ہی ہو تاکہ جس نے عرضاے الہی
کے لئے رات کے اندر نماز پڑھی خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور
میں نے عرض کی کہ رات کے کون سے حصے میں نماز افضل ہے آپ نے
درمیانی رات فرمایا ہے

تم سے کھلا باپ جو دہتم سے ہے سب کا وجود
تم سے ہے سب کی بقا تم پہ گردوں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيدُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ
الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ
شَرَفِهَا وَتَكْرِيمِهَا وَأَنْزِلْهُ الْكُتُبَ الْمَكْرُوبِ
عِنْدَ كَيْدِ كَوْمِ الْفِي كَامَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُجَالِ النَّاسِ

لوگوں کے لیے پناہ گاہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
فَاتِحِ الْكُنُوزِ

خزانوں کو فتح کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَمَزِ الرُّمُوزِ

تمام رموز کا راز

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
خِيَارِ النَّاسِ

لوگوں میں سب سے بہتر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُنَزَّهِ مِنَ
الْوَسْوَاسِ

دوسوں سے پاک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُبَشِّرِ مَا أَرْسَلْنَاكَ
الْأَكَاثِرَةَ لِلنَّاسِ

جن کو بشارت دی گئی کہ تم نے نہیں بھیجا مگر سب انسانوں کے لئے آپ کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَبْجَدِ النَّاسِ

سب سے زیادہ شریف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَنْفَعِ النَّاسِ

سب سے زیادہ نفع رساں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَوْصَلِ النَّاسِ

سب سے زیادہ صلہ رحمی فرمانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
إِمَامِ النَّاسِ

تمام لوگوں کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
إِمَامِ جَامِعِ
الْأَنْسِ وَالنَّاسِ

انس و انسان کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَمْنَحِ النَّاسِ

سب سے زیادہ بارعب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

مُرَكَّبِي النَّفُوسِ
مِنَ الْأَدْنَى نَاسِ
میلوں کچیلوں سے نفوس کو پاک
کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

عَيْنِ النَّاسِ
کائنات کا نچوڑ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَكْرَمِ النَّاسِ
تمام لوگوں سے زیادہ معزز

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَفْصَحِ
النَّاسِ
سب سے زیادہ
فصاحت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَفْضَلِ
النَّاسِ
تمام مخلوق سے افضل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَكْبَرَ النَّاسِ
تمام لوگوں سے بڑے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَصْبَرَ
النَّاسِ
سب سے
زیادہ صابر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَعْدَلِ
النَّاسِ
سب سے زیادہ
انصاف کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَعْفَى النَّاسِ
جہان سے زیادہ پاک دامن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

الرَّئِيسِ
مستحکم سرداری والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَشَدَّ جَعِ
النَّاسِ
سب سے
زیادہ بہادر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَشْرَفِ
النَّاسِ
تمام لوگوں سے
زیادہ شریف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
السَّخِي النَّاسِ
سب سے زیادہ سخی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
أَرْحَمِ النَّاسِ
سب سے زیادہ رحیم

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُتَوَجِّجِ بِنَاجٍ
وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ
مِنَ النَّاسِ جَنُّو
(واللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنْ نَاسٍ كَاتِبٍ جَبْنِيَا كِي)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
أَرْوَمِي النَّاسِ
سب سے زیادہ تیر انداز

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُطَهَّرِ
مِنَ الْأَرْجَاسِ
پلیدیوں سے پاک کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
أَزْهَدِ النَّاسِ
سب سے زیادہ زہد والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
النَّاسِ أَحْلَى
تمام لوگوں سے زیادہ
شیریں زبان والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
أَجْوَدِ النَّاسِ
تمام جہانوں سے سخی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
النَّاسِ
برگزیدہ ہستی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
أَحَبِّ النَّاسِ
تمام لوگوں سے پیارے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
أَرْوَفِ النَّاسِ
سب سے زیادہ نرم دل اور مہربان

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
أَحْسَنِ النَّاسِ
تمام لوگوں سے زیادہ
خوب صورت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
أَبْرَ النَّاسِ

تمام لوگوں سے
نیک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
أَنْقَى النَّاسِ

تمام لوگوں سے زیادہ
پربیزگار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
أَثْبَتَ النَّاسِ

تمام لوگوں سے زیادہ
ثابت قدم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
خَيْرِ النَّاسِ

لوگوں میں سے
افضل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
أَحْلَمِ النَّاسِ

سب سے زیادہ
بردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
أَبْدَلِ النَّاسِ

تمام لوگوں سے زیادہ
سخت کر نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مِنَ الْمُعْصُومِ
مِنَ الْإِنْسَانِ

گناہوں سے معصوم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مِنَ الْمُعْصُومِ
مِنَ النَّاسِ

سب لوگوں میں سے معصوم و
محفوظ (ذو بے)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
كَافَّةً لِلنَّاسِ

تمام لوگوں کے لئے
کافی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
كَثِيرِ الْخُرَاسِ

زیادہ پہریلوں
والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مُطَهِّرِ الصُّدُورِ
عَنِ الْأَرْجَاسِ

نجاتوں سے سینوں
کو پاک کر نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
أَنْفَسِ

نفس ترین ہستی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

مُظَهَّرِ الْبَيْتِ
مِنَ الْأَنْجَاسِ
وَالْأَرْجَاسِ
باطنی نجاستوں سے پاک کر نیوالے
بیت کو
ظاہری و

جَعَدَ النَّاسُ
گھونگھریالے بالوں
طالے

النَّاسِ
تمام لوگوں کے
سردار

الْمُحْفُوظِ مِنْ
مَلَاخِطَةِ الْأَرْجَاسِ
پلیدیوں کی طرف دیکھنے
سے محفوظ

صَاحِبِ هِدَايَةِ
الْأَنْسِ
انسانوں کے
ہادی

مُعَطَّرِ الْوُجُودِ
بِالْأَنْفَاسِ
مسطر وجود والے بسبب
انفاسِ قدسیہ کے

سَلْطَانِ
سَلَاطِينِ
الْأَنْسِ
انسانوں کے شہنشاہ

السَّيِّدِ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
جن دانس کے سرکار

الْمُنْفِقِ
نَمِ دُورِ كَرِيمِ
نم دور کر نیوالے

الشَّمْسِ
سُورِجِ

رُوحِ الْقُدْسِ
پاکِ رُوحِ

الْمُتَلَمِّسِ
حَقِّ كَيْ تَلَّشْ
کر نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
عَفِيفِ
النَّفْسِ

پاک باز نفس والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
بِالنَّفْسِ
الْمُجَاهِدِ

نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
رَجِلِ الرَّأْسِ

کنگھی کتے گئے سر مبارک والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْغَامِسِ

ٹھنڈے پانی میں ہاتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ڈبوئے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
زُرَيْيْنِ الصَّدْوِ
وَالْمَجَالِسِ

مدروں اور مجالس کے لئے زینت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْبُسَائِسِ

سکین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُعْظَمِ
فِي النَّفُوسِ

نفوس میں عظیم تر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
عَبْدِ الْفَدْوِ
مُوسَى

قدوس کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْغَارِسِ

پودا لگانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
هَادِي
النَّفُوسِ

نفوس کو ہدایت دینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
بَهْتِجَةِ
الطَّرُوسِ

صاف شدہ صیغوں کی سرسبز رونق دہنار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مَهْدِي
النَّفُوسِ

نفوس کو ہندب بنانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
مُحَبَّبٍ
وَالْمَلِكِ
وَالْمُقَدَّسِ
 ملکِ دس کے محبوب
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
الرَّئِيسِ
 سردار
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
زَوْهَرَةٍ
النَّفُوسِ
 نفوس کیلئے سامان
 تفریح
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
هَدْيِيهِ النَّفُوسِ
 نفسوں کی ہدایت
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
نَفْسٍ
النَّفُوسِ
 تمام نفوس کی
 جان
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
حَيَاةِ النَّفُوسِ
 نفسوں کی زندگی
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
قَابِ جَلَالِ
الْعُظْمَىٰ
الْاَقْدَسِ
 و تربیہ
 جلال و عظمت
 مقدسہ کے
 دائرہ کا۔
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
الْمُقَدَّسِ
 پاک کرنیوالے
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
الْمُصَلِّيِ
اِلَىٰ بَيْتِ
الْمُقَدَّسِ
 بیت المقدس کی طرف منہ
 کر کے نماز پڑھنے والے
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
كَيْسٍ
 صاحبِ عقل و نبرد
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
ضَخْمِ
الْكُرَّادِيِّسِ
 کندھوں کی عظیم
 ہڈیوں والے
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
طَلْسُوفِكَ
الْاَطْلَسِ
 فلک اطلس کے طلسم
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

بُرُقِعِ الْجَمَالِ
الْوَجْهِ الْمُقَدَّسِ
جو برقع میں ذاتِ مقدرہ
کے جمالِ مطلق کا

الْبُرُقِ قَلِيطِسِ
حق و باطل کے درمیان
فرق کرنے والے

طَاوُوسِ
الْمَلِكِ
الْمُقَدَّسِ
ملکِ مقدس کے
طاووس

الْبُرُقِ قَلِيطِسِ
بڑی عظمت
والے

الْمُقَدَّسِ
مقدس و پاک

خَلِيطِسِ
التسک کی اطاعت
جلدی کرنے والے

خَيْرِ النَّاسِ نَفْسًا
اپنی ذات میں سب لوگوں
سے پاکیزگی والے

الْمُرَجَّوِي
صَحْفِ الْأَنْبَاسِ
ترش روؤں کی زبان
پر تعریف کئے ہوئے

طَسِ
طسین

الْأَنْبَسِ
الْمَوَانِسِ
انس و جنات والے

يَسِ
یسین

الطَّيِّبِ الْخَلْقِ نَفْسًا
سب سے پاکیزہ ترین
از روئے نفس کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
فَارِسِ
الْفَوَارِسِ

شہسواروں
کے شہسوار

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَنْفَسِ
النَّسْفَانِسِ

پاکوں میں سے
زیادہ پاک

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرَّيِّبِ
الْأَكْبَسِ

سب سے بڑے
سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُوَانِسِ

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

انس
کے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُنْكَرِفِ
الشَّمْسِ

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

سورج کو واپس
موڑنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي لَمْ يَكُنْ
عَلَى بَابِهِ حَرَّاسٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

جن کے دروازے پر کوئی
چوکیدار نہیں تھا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَسْطَقِسِ

اسل و عنبر
مادہ

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُرْهَبِ
الْفَارِسِ

رعب ڈالنے والا
شہسوار

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَنْسِ

انس
رکھنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
يَاسِ

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

یاسین والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ الرَّيِّبِ

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

سردار نبی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
إِبْنِ مَدْرِكَةَ
بْنِ الْيَاسِ

اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

مدرکہ بن الیاس کے
نخت جگر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

الْأَنْوَسِ
بہت افسوس والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

الرَّائِسِ
حاکم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

صَاحِبِ
الْفِرْدَوْسِ
فردوس کے مالک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

الرَّئِيسِ
سربراہ قوم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

ذِي الْخَلْقِ
النَّفِيسِ
عمدہ اخلاق والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

الْحَلْبَسِ
بہادر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

الَّذِي أُعْطِيَ
طَاعَةَ يُونُسَ
جن کو یونس علیہ السلام کی طاعت عطا کی گئی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

صَاحِبِ الْمَحَنَةِ
الْمُتَمَرَّةِ فِي النُّفُوسِ
نفوس میں محبت کا پھل دینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

الْبُرْعِيِّسِ
سختیوں پر صبر کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

صَاحِبِ
النَّامُوسِ
عزت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

الْإِلْمَاسِ
نایاب موتی دہیرا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

الْحَبْلَسِ
بہادر شیر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّيهِ وَسَلَّمَ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
الْمُحِبُّونَ
الْمُقَدَّسِينَ
محبوب مقدس

الَّذِينَ يَدْعُونَ
الْمُؤْنِسِينَ
انس دینے والے

الَّذِينَ يَدْعُونَ
الْأَنْيْسِينَ
جس سے انس
حاصل ہو

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
مُدْهَبِينَ
الْأَبْسِينَ
تھپ سالی کو دور
کرنے والے

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
النَّكْفِينَ
الْأَنْفُسِينَ
تمام نفسوں میں
سے عمدہ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
الَّذِي رَفَعَ اللَّهُ
بِهِ الْبَاسَ
جن کے سبب اللہ نے
عذاب کو دور کیا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
الطَّهَّورِينَ
مِنَ الرَّجْسِ
نجاست پاک

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
ذِي الْقُوَّةِ
وَالشُّجَاعَةَ
وَالْبَاسِ
توت شجاعت
اور بہادری والے

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
صَاحِبِ
تَزْكِيَةِ النَّفْسِ
تزکیہ نفس والے

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
طَيْبِ الْمَغْرَسِ
پاکیزہ بیرابی
والے

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
طَيْبِ الْغَرَسِ
پاکیزہ بارش
والے

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
طَيْبِ الْمَغْرَسِ
پاکیزہ بارش

صَادِيْدٌ
وَالْقُرَيْشِيُّ

قریش کے سردار

أَشَدُّ النَّاسِ
بَأْسًا

سب زیادہ جنگ جو

شَرِيْفُ النَّفْسِ

اعلیٰ ہستی

صَاحِبِ الْوَجْهِ
النُّورِ

غالب قوی چہرے
والے

كَفْوَةٌ قُرَيْشِيٌّ

قبیلہ قریش
سے چنے ہوئے

خَبْرٌ قُرَيْشِيٌّ

قبیلہ قریش
سے بہتر

جَلِيْلُ الْمَشَا

طہریوں کے مضبوط چروٹوں
والے

الْمَذْكُوْرِيْنَ
سَطُوْحِ الْاَنْبِيَا

جن کا ذکر جنگوں کی فضاؤں
میں ہے۔

صَاحِبِ الْخُلُقِ
الْمَشُوْشِ

خندہ خلق والے

طِيْبِ الْمَعَاشِ

پاکیزہ روزی
والے

صَاحِبِ الْوَجْهِ
الْمَاشِ لِبَاشِ

مستبسم چہرے والے
ہنس مکھ

الْمَسِيْلِ
بِصَلَاحِ الْمَعَا

دنیوی (دوا خوردی) زندگی کی
بتی کے لئے بھیجے گئے

صَاحِبِ الْعُدْلِ
فِي الْبَطْشِ
سختی میں عدل فرمانے والے

سِرِّ الْعَرْشِ
عرش کا راز

مِلَاءِ الْعَرْشِ
وَالْفُرْشِ
فرش و عرش کی زینت

بَاطِنِ الْبَطْشِ
سخت گرفت
کے باطن

الْمُكَنِّهِ
مِنَ الْغَشِّ
ملاوٹ سے پاک

نُورِ الْعَرْشِ
عرش اعظم
کا نور

صَاحِبِ
تَاجِ الْإِخْلَاصِ
اخلاص کا تاج پہناتے جانے والے

رُعَا الْخَوَاصِ
خواص بارگاہِ خداوندی
کی مجسم دعائیں

إِمَامِ الْخَوَاصِ
خواصانِ خداوندی کے امام

مِمَّ يَدُوبُ الْبَشَرِ
بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ
مردود و قصاص کے ساتھ انسانوں
کو تہذیب سکھانے والے

النَّكَاهِي
عَنِ الْفَحْشِ
برائی سے بچانے والے

إِمَامِ أَهْلِ
الْإِخْلَاصِ
اہلِ اخلاص کے امام

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ اخلاص کے کلمہ والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخَصَائِصِ وَإِخْلَاصِ خصوصیتوں اور خلوص والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُعَزِّ بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ کلمہ توجیہ کے ساتھ عزت دیتے گئے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُعْرُوفِ بِأَجْمَلِ الْخَصَائِصِ جلیل ترین خصوصیتوں کے ساتھ مخصوص</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَاضِي سیدھی راہ والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْحَاضِمَةِ بِكُلِّ عَاصِي عاصی کیلئے رحمت</p>

اللَّهُمَّ هَمَّ رَبِّنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّا تَخْفِرْنَا
اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ
وَتَرَحَّمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ
فرمائے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوتے۔ اے اللہ تو میرے
فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا
دل میں نور پیدا کر دے اور میرے کانوں میں بھی نور اور آنکھوں میں بھی نور پیدا کر دے
اللَّهُمَّ شَرِّحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي وَأَمْرِي
اے اللہ تو میرا سینہ کھول دے اور میرا ہر کام میرے لئے آسان کر دے
أُمِّينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
(اے اللہ) قبول فرما نبی کریم ﷺ کی عزت کے طفیل۔

پودہوں میں منزل

سرور کونین ﷺ نے فرمایا اے اللہ ہریرہ اپنے گمراہوں کو نماز کا حکم کر
تھے بے گناہ روزی ملے گی اور تیرے گمراہ میں شیطان کو راہ نہ ہوگی۔

اللہ

گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو وہ عفو

بخش دو جرم و خطا تم پہ کردوں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قَرِيبُ يَا كَرِيمُ يَا مُبِينُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ
الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ إِحْوَالِ الْمُحْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَالْإِهْمِ وَسَكْرَتِهَا الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكَلِمَةَ الْكَلِمَةَ
عِنْدَ كَلِمَةِ رَبِّكَ آمِينَ

عَيْنِ كُلِّ مَنْ هُوَ فِي الْحَضْرَةِ مُنْصَوِّصٌ

سرچشمہ میں ہر اس ذات کا جو بارگاہِ خداوندی میں مخصوص ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

الْمُتَرَبِّصُ
منتظر

مَطْلُوبِ الْخُصُوصِ
مطلوبِ خصوصیات

الْمُخَالِصُ
اخلاص والے

الْمُخْصُوصِ الْمَخْتَصِ

خاص الخاص

خاص الخاص

الْمُرَخَّصِ

رخصت فرمانے والے

الْمُتَرْبِّصِ
منتظر

الْمُخَالِصِ
نجات دہندہ

الْمُخْلِصِ
الشدکی خالص عبادت کرنیوالے

الْمُقْتَمِصِ

قیص پیننے والے

الْمُسْتَدْرَجُ فِي مَحْكَو النَّصْرِ

محکم آیتوں میں جن کی تعریف کی گئی

حَرِيصٌ

مؤمنوں پر حریص

السَّائِمُونَ مِنَ النَّسَائِمِ

سلامت

نقائص

الْمُقَصِّصُ

قصاص دنیوالے

الْمُسْتَخْلَصُ كَهَيْعَةٍ

کھپتے

خلاصی کرانے والے

صَاحِبِ الْقَمِيصِ

قمیص پہننے والے

الْمُتَلَوِّ


پڑھنے والے


الْأَبْرَصِ

روشن چاند

صَاحِبِ الْقُصَصِ

بہترین قصوں والے





إِبْتِسَامُ الزَّهْرِ فِي الرِّيَاضِ

گستاخوں میں پھولوں کا تبسم

الْوَاسِطُ

عزیز اور غنڈل پر قائم

أَوَّلُ مَنْ تَنَشَّقُ عَنْهُ الْأَرْضُ

جن کی قبر سے پہلے کھلے گی

الدُّحَايِطُ

گھل بکریں والے

الْمُرَابِطُ

جہاد کی تیاری کرنے والے

مُرُوجُ الْفَرَائِضِ

فرائض کو رواج دینے والے

الضُّكْبِطُ

یاد رکھنے والے

السَّاقِي النَّاسِ

الْمُقْسِطُ

انصاف کرنے والے

السَّاقِي النَّاسِ

لوگوں کو حق سے

فرضی عبادت والے

الضُّكْبِطُ

السَّابِطُ

کنگھی ہوئے ہاروں

صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ عِنْدَ الْكَوْضِ

شفاعت کرنے والے حوض کوثر کے پاس

الشَّفَاعَةُ عِنْدَ الصِّرَاطِ

پہل صراط کے پاس شفاعت کرنیوالے

فَارِقِطٍ

حق والے

الْعَدْلِ وَالْقِسْرِ

انصاف والے

الْمُتَوَسِّطِ

میان روی اختیار کرنیوالے

التَّكْفِيطِ الْبَارِقِطِ

حق و باطل کے درمیان فرق کرنیوالے

التَّكْفِيطِ

اسل کان کا سونا

التَّكْفِيطِ

تقسیم

الْفَرَطِ

میر سامان

السَّابِطِ

کنگھی کتے گتے بالوں والے

صَاحِبِ الْحُكْمِ بِالْقِسْطِ
انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے

تَمْرٍ لِّفِي الرَّهْرِ حِرَا
سنہرز خاندان والے

بِاطِنِ الْغَطِّ
قبض کے باطن

رُوحِ الْقِسْطِ
روح عدل

دَافِعِ الْفُحْطِ
فحط کو دور کرنے والے

الَّذِي لَيْسَ فِي حَبِّهِ تَفْرِيْطٌ
جس کی محبت میں کمی نہیں کی جاسکتی

الَّذِي يَرْفَعُ بِحَاكِهِ السَّخَطُ
جن کی وجہ سے سختیاں دور کی جاتی ہیں

مُظْهِرِ الْبُسْطِ
کشادگی کا مظہر

الْحَاكِمِ الْاَوْسَطِ
انصاف کرنے والے

الَّذِي عَطِيَ حِكْمَةً لَّوْطٌ
جن کو لوط علیہ السلام کی حکمت عطا کی گئی۔

خَيْرٌ مِنْ أَوْتَى الْمَوَاعِظَ

اُن سب سے بہتر جنہیں مواعظت عطا فرمائی گئی

وَالْوَاعِظُ

داعظ کرنیوالے

نَفَائِسِ الْمَوَاعِظِ

نصیحتیں فرمانے والے

وَالْحَافِظُ

حافظ

عَظِيمِ الْكَلِمِ

بہت زیادہ حصہ پائیوالے

أَفْضَلِ

اچھی نصیحت قبول فرمائیوالے

أَبْلَغِ وَاعِظِ

بلیغ ترین داعظ والے

سَلْطَانَ سَمْرِ الْقَائِمَاتِ

حفاظت کرنے والے

وَالْمُحْفَظُ


حفاظت کئے گئے

وَالْمُحْفَظُ

حفاظت کئے گئے

وَالْمُصَارِعُ

مقابل کو چت کرانے والے



الْبُرْهَانُ الظَّاهِرُ القَاطِعُ

شکوہ و شبہات کے لئے قاطع دلیل ظاہر

اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ

الرَّاضِعُ

دودھ پینے والے

الْأَلْفِ الْجَامِعِ المَبْجُوعِ

جو سب کے ساتھ مجتمع اور متفق ہیں

السَّارِعُ

رکوع کر نیوالے

الْأَمْرِ بِاتِّمَامِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ

سجود و رکوع کے تمام احکام دینے والے

النُّورِ السَّاطِعِ

مبند شان نور

النَّبِيِّ الطَّائِعِ

تابع فرمان نبوی

الْمُخْلِطِ السَّامِعِ

الْمُخْلِطِ السَّامِعِ


اللہ کے خوف سے کانپنے والے

الْوَاضِعِ

بوجھ اتارنے والے

الدَّامِعِ

باطل کو مٹانے والے



كُنُزُ اللّوَاِمِعِ
 روشن صفات کا خزانہ

كَلَامُ التَّوَاَضِعِ
 آنحضرت کے دلے

السَّمِيعِ
 سنیے والے

السَّفِيعِ
 سفارش کرنے والا

بُرْهَانِ
 سعادت مندوں کی دلیل کاملہ

مُصْبِحِ
 فقہائے طلوع کے چراغ

الْمُطَالِعِ

وَصَّاحِ الْمَشَارِعِ
 شرعی احکام واضح کرنے والے

بِجَاءِ الشُّرُوفِ

الْمُطِيعِ
 فرمانبردار اللہ تعالیٰ کے

بِجَاءِ الْبَدِيعِ
 مجسم حسن و جمال

صَاحِبِ الْقِنَاعِ
 سر مبارک ڈھانپنے والے

صاحبِ التَّشْرِيعِ

احکامِ شرع کو نافذ کرنے والے

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل

وَالْمَرْبُوعِ

درمیانہ قد

صاحبِ العِزِّ المُنِزِعِ

عزوجلہ والے

محفوظ

کثیر الجوع

زیادہ بھوکا رہنے والا

الْوَاسِطِ

لِجَمِيعِ

تمام مخلوق کے لئے وسیلہ

صاحبِ القَلْبِ

الْخَشُوعِ

خشوعِ قلب والے

وَالْمُتَجَمِّعِ

جمع کرنے والے

صاحبِ القَلْبِ القَوِيعِ

خضوعِ قلب والے

میں درازی

درانِ الشان

وَالْمُشْفِوعِ

شفاعت قبول کرنے والے

صاحبِ التَّوْفِيعِ

توفیق دینے والے

وَالْمُرْفُوعِ

اوپر شان والے


صاحبِ القَلْبِ الخُضُوعِ


خضوعِ قلب والے

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل





اللہ تعالیٰ
أَشْرَفِ مُتَّبِعِي
 سب متبوعین سے بزرگ تر

اللہ تعالیٰ
الْمُتَّبِعِينَ الْمَسْبُوعِينَ
 مشکلم جن کا کلام سنا جاتا ہے

اللہ تعالیٰ الْمُسْتَرَعِ قرء اندازی فرمانے والے	اللہ تعالیٰ الْمُسَبَّوحِ محفوظ
---	--

اللَّهُمَّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
 اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی

قَسْرَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
 ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اے اللہ! جو تو

بِمَا رَزَقْنِي وَبَارَكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ
 نے مجھے روزی عطا کی اس پر مجھے قناعت اور اس میں میرے لئے برکت بھی دے اور جو میری نظروں سے

غائب ہے اس پر تو خیر و برکت کے ساتھ میرا محافظ بن جا۔

أُمِّينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
 اے اللہ! قبول فرما نبی کریم ﷺ کی عزت کے طفیل

پندرہویں منزل

سردار کوٹھن نے فرمایا: اگرچہ پرکوی انسان ظالم کرے تو
اس کی شکایت مت کر اور لوگوں کو سنا اور جتا اور تو اور وہ ہمارے گئے

تم ہو شہید و بصیر اور میں کبہ چہ دلیر
کھول دو چشم چپا تم چہ کردوں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا قَيُّوْمُ يَا ذِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِفِينَ وَآلِهِ وَسَائِرِ تَلَمِيذِهِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُرْزَةَ الْمَكْرُوبِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُقْنِعِ (دعا کیلئے) سرگواٹھانوالے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ الْوَرِيعِ پرہیزگار صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُقْطِعِ جاگیر بخشنے والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُتَسِّعِ احکام خداوندی کی پیروی کرنیوالے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُتَّبِعِ پیروی کراتے گئے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ الترتيع کثرت سے ذکر کرنے والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُشْفِعِ شفاعت قبول کئے گئے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُسْتَرْجِعِ مصیبت میں اناشد پڑھنے والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُتَخَضِرِ گڑ گرانے والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُضْطَبِعِ اضطباع کر کے طواف کرنیوالے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُظْلِعِ الشد کی طرف سے اطلاع کئے گئے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ بَابِي لَا تَنْقَطِعْ نہ ختم ہونیوالے معجزات کے ساتھ مخصوص کئے گئے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُشْفِعِ غزلوں کو وداع کرنیوالے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُشْفِعِ شفاعت کرنیوالے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرُّسُلِ المُشْفِعِ شفاعت کرنیوالے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>

<p>زَيْحِي الْفَرَجِ پاکیزہ فرج والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>عَمَادِ الدِّينِ وَالشَّرْعِ دین و شریعت کا ستون صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>أَوَّلِ مُشَفِّعٍ جن کی سفارش سب بیتے قبول ہوگی۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>خَيْرِ أَهْلِ الْوَرَعِ بہتر ہیں اہل ورع سے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>لَطِيفِ الصَّنْعِ پاکیزہ صفت والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>صَاحِبِ الْمَقَامِ الْأَرْفَعِ اوپر کے مقام والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>الْمُتَّصِلِي فِي مِحْرَابِ جَمْعِ الْجَمْعِ نماز ادا کرنے والے مقام جمع الجمع کی عبادت گاہ میں صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>أَكْثَرِ الْأَنْبِيَاءِ اتِّبَاعًا تمام انبیاء سے زیادہ متبعین والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>الْمُعْصُومِ بِالضَّرُورَةِ وَالْقَطْعِ جن کا معصوم ہونا ضروری اور قطعی ہے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>أَظْهَرِ الْأَنْبِيَاءِ فِرْعَانًا سب انبیاء سے پاکیزہ فرج والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>أَظْهَرِ الْأَنْبِيَاءِ شَرْعًا سب انبیاء سے زیادہ ظاہر شرع والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>أَكْثَرِ النَّاسِ تَبَعًا تمام لوگوں سے زیادہ پیروکار صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>صَاحِبِ الشَّرْعِ شریعت والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>مُبَارَكِ الشَّرْعِ بارکت شریعت والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	

<p>السَّارِعِ الْبَاعِ کتابہ ظرف والے <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>	<p>السَّرِيعِ تیز رفتار <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>	<p>السَّرِيعِ تیز رفتار <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>
<p>أَكْرَمِ النَّاسِ طَبْعًا سب لوگوں سے عزیز ترین طبیعت والے <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>	<p>الَّذِينَ الْأَنْبِيَاءُ طَبْعًا سب انبیاء سے زیادہ نرم طبع والے <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>	<p>أَحْسَنِ الْأَنْبِيَاءِ صُنْعًا سب انبیاء سے زیادہ کاریگری والے <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>
<p>أَكْثَرِ النَّاسِ سَمْعًا سب لوگوں سے زیادہ قبولیت والے <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>	<p>أَحْسَنِ النَّاسِ صُنْعًا سب لوگوں سے حسین ترین صنم و عمل والے <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>	<p>أَطْيَبِ النَّاسِ فِرْعًا سب لوگوں سے پاکیزہ ترین فرع والے <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>
<p>صَاحِبِ الْعِزِّ الْجَلِيلِ الْمَمْنَعِ عظیم اور محفوظ عزت والے <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>	<p>بُرْهَانَ الطَّوَالِعِ روشن دلیل <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>	<p>الَّذِي حَسَامَةٌ قَاطِعٌ وہ جن کی تلوار کاٹنے والی ہے <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>
<p>الْمُطَوَّاعِ السُّدِّ كَيْ أَنْتَهَانِي فَرَمَاں بَرَارِ <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>	<p>مُصْبِحِ الْمُطَالِعِ چراغ مطالع <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>	<p>الْمُتَخَشِّعِ خُشُوعٍ وَخُضُوعٍ وَالْمَلِكِ <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small></p>

صَاحِبِ الضَّجَّاعِ

بستر مبارک والے

طَيْبِ الْأَصْلِ
وَالْفُرْعِ

اصل اور فرع کو پاک کرنے والے

يَمِينِ الشَّرِيحِ

شریعت کے دست راست

الْفَيْضِ
وَالْمَكَامِعِ

فیض عام

الْفَجْرِ السَّاطِعِ

روشن
مُبَاحِ

العِزِّ السَّاسِعِ

وسیع غلبہ والے

قَاصِدِ أَهْلِ
الْبِدَاعِ

اہل بدعت کو ختم
کرنے والے

صَاحِبِ الْوَجْهِ
الْمُنِيرِ الْمُشْعَشِعِ

روشن چمکتے ہوئے
چہرے والے

صَاحِبِ الْجَاهِ
يَوْمَ الْفُرْعِ

قیامت کے دن مرتبے والے

حَقِيقَةِ النَّجَايِ
بِالْإِرْتِفَاعِ

جلوؤں کی حقیقت
بلندی کے ساتھ

أَوَّلِ مَنْ لِّلْبَابِ
قَارِعِ

سب سے پہلے دروازہ (جنت) پر
دستک دینے والے

الْجَامِعِ لِشَرِيْعَتِهِ
لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ

وہ جس کی شریعت تمام شریعتوں کی جامع ہے

أَبْجَحِ شَافِعِ

خوش مزاج شفاعت فرمائیے والے

مَطَاعِ

اطاعت
کئے گئے

الْمُتَشَحِّشِ
شعائیں بکھیرنے والے ﷺ

صَاحِبِ الْفَوَلِ
المُسَامُوعِ
سنے گئے قول ﷺ

الَّذِي شَدَّ الْحَجَارَةَ
مَنْ الْجُوعِ
جھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ﷺ

الَّذِي مُقَامُهُ
رَفِيعٌ
وہ ذات جن کا مقام بلند ہے ﷺ

الْفَاهِرِ لِكُلِّ
ظَالِمٍ
ہر کرشمہ پر قہر کر نیوالے ﷺ

مَنْ شَرِّعَتْهُ
نَاسِخُ الشَّرَائِعِ
جن کی شریعت تمام شریعتوں کی ناسخ ہے ﷺ

طُورِ الْأَنْبِيَاءِ
الْمُحَانِعِ
انبیاء کا معاف طور ﷺ

الْبُلْعِ
ہر چیز کے جانے والے ﷺ

فِي الْأَنْبِيَاءِ
الْأَمْعِ
انبیاء کی چھتھی خبر ﷺ

أَوَّلِ شَاكِعِ
أولین شفیع ﷺ

طَوِيلِ الْبَاعِ
نیاض، سخی ﷺ

الَّذِي أُعْطِيَ
جِهَادَ يَوْشَعَ
جن کو یوشع علیہ السلام کا جہاد عطا کیا گیا ﷺ

النَّرْمِيعِ
عمدہ رائے والے ﷺ

الْبَرِّيْعِ
عقل و جمال میں کامل ﷺ

عقل و جمال میں کامل ﷺ

<p>المُبْلِغُ تبلیغ کرنے والے ﷺ</p>	<p>أَعْلَى الْمَسَلِينِ مُسْلِمِينَ مِنْ بَلَدٍ هُوَ وَالِ مَتَّبِعِينَ كَمَا عَتَبَا سَعَى ﷺ</p>	<p>البُّسَيْغُ فَيْحٌ ﷺ</p>
<p>صَاحِبِ الْإِبْلَاحِ پیغام پہنچانے والے ﷺ</p>	<p>الْبُرْزَاغُ بَارِعِبِ جَوَانِ ﷺ</p>	<p>أَهْلُ إِمَامِ الْبَلَاغِ احکام الہی پہنچانے والوں کے امام ﷺ</p>
<p>البُّبَالِغُ احکام الہی پہنچانے والے ﷺ</p>	<p>الْبُرُزُوعُ بَارِعِبِ قَدَامَتِ وَالِ ﷺ</p>	<p>النُّورِ الْبَاغِ چمکتا ہو نور ﷺ</p>
<p>الَّذِي هُوَ بِغِ بِالْهُدَى سَابِغٌ وہ جو بذریعہ ہدایت روشن ہیں ﷺ</p>	<p>صَاحِبِ الْبَلَاغِ بُكَيْغُ بَلِغٌ بَيَانِ وَالِ ﷺ</p>	<p>الَّذِي هُوَ بِالْعَدْلِ سَابِغٌ وہ جو عدل کے ساتھ مشہور ہیں ﷺ</p>
<p>بِالتَّبْلِغِ تبلیغ کہتے بھیجے گئے ﷺ</p>	<p>صَاحِبِ التَّبْلِغِ تبلیغ کرنے والے ﷺ</p>	<p>صَاحِبِ التَّبْلِغِ تبلیغ کرنے والے ﷺ</p>

خَيْرٌ مُّبَلِّغٍ
بہترین تبلیغ کرنے والے

الضَّادِّ قِيَمًا
جو سچے ہیں اپنی تبلیغ میں

خَيْرٌ مُّبَلِّغٍ
بہترین تبلیغ کرنے والے

الْقَامِعِ
ہر برکس کا خاتمہ کرنے والے

كَفَيْلِ الضَّعْفَانِ
کمزوروں کی کفالت کرنے والے

شَرَفِ شَرَّافِ
اوصاف کی عظمتوں کی عظمت

صَاحِبِ
توجہ فرمانے والے

سَكَلِيسِ
تابع دار اسلاف والے

رَوْضَةِ
اسلاف کے پھول

الْمَوْصُوفِ فِي
وہ جن کے سورۃ اعراف میں اوصاف بیان کئے گئے

الْمُنْعَوَاتِ فِي
سورۃ اعراف میں تعریف کئے گئے

الْمُنْتَخَبِ مِنْ
بزرگ اصحاب (ظاہر ہونیوالوں) کا خلام

سَيِّدِ الْأَشْرَافِ
اشرف کے سردار

سَائِلِ الْأَطْرَافِ
طویل انگلیوں والے

الْكَافِ

گناہوں روکنے والے ﷺ

الْمُنْتَخِبِينَ مِنَ
الْبُطُونِ الظَّرْفِ

عین و ارجام سے (ظاہر ہونیوالوں) کا
خلاصہ ﷺ

السَّاحِفِ

اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ﷺ

الَّذِي شَكِيَ إِلَيْهِ
الْبُعْبُورَ وَاعْتَرَفَ

جن سے اونٹنی نے شکایت کی اور انھوں
نے اعتراف کیا۔ ﷺ

سَنَدِ السَّادَاتِ
الْعِرْفَاتِ

سند و سہارا ہیں
پاکباز سادات کا ﷺ

الْقَائِمِ
بِالْإِنصَافِ

عدل و انصاف قائم کرنیوالے ﷺ

الْكَرَمِ مَنْ وَ قَامَ

بِالْإِنصَافِ

عدل کرنے والوں سے محرم ﷺ

الْمُصَفَّى مِنْ مَّصَايِبِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

عبدالمطلب بن عبدمناف
کی نسل سے
صاف و زینترہ
(بن عبدمناف) ﷺ

الْكَرَمِ الْأَسْبَلِ

تمام اسلاف سے عزت والے ﷺ

أُولَى بِالْعَوَارِ

سب سے زیادہ حقدار
عوارف و عطیات کے ﷺ

فَاتِحِ
خَزَائِنِ الْمُعَارِفِ

معارف کے خزانوں کا
مُنہ کھولنے والے ﷺ

الْمُضَاعَفِ

دوگن ثواب دیتے گئے ﷺ

الْعَارِفِ

پہچاننے والے ﷺ

الْخَارِفِ

چلے بھر کر مسلم تقسیم کرنیوالے ﷺ

<p>شَمْسٌ لِمَعَارِفِ</p> <p>معارف کے آفتاب</p>	<p>سِرِّ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ</p> <p>رازِ مخفی بلند مرتبت معارف کا</p>	<p>قَبْرِ الْعَوَارِفِ</p> <p>عطیات کے ماہتاب</p>
<p>مُمِدِّ كُلِّ غَارِفٍ</p> <p>ہر سائل کی ہتھیالیوں کو بھرنے والے</p>	<p>الرَّعْدِ الْفَاصِفِ</p> <p>اچھڑانے والی گرج (اعداءِ دین کو)</p>	<p>بَدْرِ الْعَوَارِفِ</p> <p>عطیاتِ خداوندی کے چاند</p>
<p>الْبُرْقِ الْخَاطِفِ</p> <p>اچھکنے والی بجلی</p>	<p>أَمَانِ كُلِّ خَائِفٍ</p> <p>ہر خوف زدہ کے لئے امان</p>	<p>كُلِّ عَارِفٍ</p> <p>ہر صاحبِ عرفان کے سردار</p>
<p>الَّذِي كَانَ خَافِضًا لِّلطَّرِفِ</p> <p>جن کی پلکیں جھکی ہوتی تھیں</p>	<p>إِنَاثَةِ الْمَلَاهِوِّ</p> <p>حسرتوں کے شکار لوگوں کے لئے فریادری</p>	<p>كَنْزِ الْجَوَاهِرِ اللَّطَائِفِ</p> <p>جواہرِ لطائف کا خزانہ</p>
<p>الْخَائِفِ</p> <p>اللہ سے ڈرنے والے</p>	<p>كَنْزِ اللَّطَائِفِ</p> <p>لطائف کا خزانہ</p>	

السُّؤُوفِ

شفقت فرمانے والے

كثِيرِ الضُّبُوفِ

زیادہ بہانوں والے

المَسْلُوفِ

لطف و کرم کئے گئے

مُسَوِّى الصُّفُوفِ

صفوں کو سیدھا کر نیوالے

العُطُوفِ

مشفق بہرمان

المُعْرُوفِ

معروف و مشہور

خَيْرِ الخُنْدِيفِ

دادی کے بہترین پوتے

فَارِي الصَّبِيفِ

بہت اچھے بہان نواز

العَزُوفِ

بلند مرتبہ والے

خَافِضِ الطَّرْفِ

نیچی نظروں والے

حَفِي اللُّطْفِ

مخفی لطف والے

أَقْبَى الْأَنْفِ

اونچی بینی والے

صَاحِبِ السَّيْفِ

تلواریں والے

الْأَمْرِ بِالطَّوْفِ

طواف کا حکم دینے والے

<p>عَفَى</p> <p>پاک دامن</p>	<p>الْمُنْصِفِ</p> <p>انصاف کرنے والے</p>	<p>الْمُعْتَرِفِ</p> <p>اعتراف کرنے والے</p>
<p>تَاجِ الشَّرَفِ</p> <p>بزرگی کا تاج</p>	<p>زَلْفِ</p> <p>الشد کے بہت نزدیک</p>	<p>الْمُخْصُوصِ بِالشَّرَفِ</p> <p>شرف کے ساتھ خاص کئے گئے</p>
<p>وَأَسْعِ الْكَلْفِ</p> <p>بے پایاں محبت والے</p>	<p>بَرَكَةِ السُّلْفِ</p> <p>سلف کی برکت</p>	<p>صَاحِبِ الْغُرْفِ</p> <p>محلّات والے</p>
<p>الْمُنْبِيِّ الْمُخَفِّفِ</p> <p>تخفیف کرنے والے نبی</p>	<p>كَلِّ الشَّرَفِ</p> <p>شرف و فضیلت کے موتی</p>	<p>النَّاطِقِ بَعَيْنِ الذَّاتِ وَلَا كَيْفِ</p> <p>دیکھنے والے عین ذات کو جو کیفیت سے پاک ہے</p>
<p>الْمُخَفِّفِ</p> <p>ہلکی بھنگلی نماز والے</p>	<p>الْكَنْفِ</p> <p>سہارا</p>	<p>الْمُخَفِّفِ</p>

<p>الشَّرِيفُ شرف النفس</p>	<p>رَاكِبِ رَفْرِفٍ رفرف کے سوار</p>	<p>العَفِيفِ پاکدامن</p>
<p>رَاكِبِ اللَّحِيفِ لحیف گھوڑے کے سوار</p>	<p>وَجْهِ النَّعْرِيفِ معرفت کی آبرو</p>	<p>أَشْرَفٍ مِنْ طَافٍ تمام طواف والوں کے اشرف</p>
<p>صَاحِبِ الضَّرِيفِ الشَّرِيفِ شرافت والے مقام کے مالک</p>		

اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تَوْتِي الْمُلْكِ مِنْ تَشَاءٍ وَتَنْزِعُ
 اے اللہ سارے ملکوں کے مالک تو ہی چسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور تو ہی جس سے
 الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَحِزُّ مِنْ تَشَاءٍ وَتَذِلُّ مِنْ تَشَاءٍ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
 چاہتا ہے ملک چسین لیتا ہے اور تو ہی چسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو ہی چسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے
 إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِرْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ
 بھلائی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے دنیا و آخرت میں بہت تم فرماؤ اے تو مجھ پر وہ رحمت
 تُخَمِّنِي بِهَا عَن رَحْمَةٍ مِنْ سِوَاكَ ۝ أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
 فرما کہ اس کے ذریعے تو مجھے اپنے ماسویٰ کی رحمت کے بے نیاز فرما دے۔ اے اللہ قبول فرما نبی کریم ﷺ کی عزت کے طفیل

سولہویں منزل

سرور کو نہیں فرمایا اسے اور ہر یہاں اگر تو چاہے کہ ہر روز قیامت مجھ

سے چہلا رہتا ہوں مجھ سے ایسی محبت رکھ کہ مجھے ہر گز نہ پہنچے اور جان لے کہ

اگر تو مجھے دوست رکھتا ہے تو تین باتیں ہرگز نہ چھوڑے گا میں کہتا ہوں کہ اگر

ان تین باتوں سے مجھے یہ ایک بطور روایت پہنچی ہے کہ خدا کی تقسیم پر راضی رہو

کیونکہ جو دنیا سے اس جان میں نکلا کہ قسمت خداوند پر راضی ہے تو خدا اس

سے راضی ہوگا اور جس پر خدا راضی ہو اس کا اٹھ گانہ جنت ہے



پھینٹ

دل میں رچا دو ضیا کم چکر دو روں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا قَيُّوْمُ يَا ذِي
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ
الْمُعْشُوْقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ الْمُحْتَوْرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَالْهَامِلِينَ وَالْمُتَحَيِّرِينَ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُرْهُ الْكُرْبَ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ عَالِي كَرَامَتِهِ
جَوَادٍ مِّنْ
غَيْرِ سَرَفٍ
فضولِ خرچی کے بغیر نہایت سخاوت
کرنوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ عَالِي كَرَامَتِهِ
الْقَدْرِ الْمُنِيفِ
بلند و بالا قدر و منزلت
والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّكَاهِي عَنِ
السَّرَفِ
فضولِ خرچی سے روکنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْحَكِيمِ
دین میں
صادق

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّطِيفِ
بڑے مہربان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبِرِّ الْمَعْطُوفِ
عمدہ نیکی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
شَدِيدٍ مِّنْ
غَيْرِ عَنَفٍ
بدستگی کے بغیر سختی کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَلِيلِ الْأَسْلَافِ
اسلاف کی اصل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي لَا يَدْرِكُهُ
وَأَصْفُ
جن کا کوئی بھی دامن
ادراک نہیں کر سکتا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْأَعْفِ
پاکیزہ دامن والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
وَمُصَلَّةٍ
كُلِّ عَارِفٍ
ہر عارف کا وسیلہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَنْوَتِ
اللَّهِفِ

مصیبت زدگان کے فریادرس

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
بَشْرَى الضُّهُوفِ
عَوْنِ الضَّعِيفِ

کمزوروں کے مددگار

مہانوں کے لئے
سراپا بشارت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُقَرَّرَى الضَّهِفِ

جہان نواز

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَسْوَفِ

ول

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَسِيفِ

امت کیلئے تمکین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُتَعَطِّفِ
الْعَاطُوفِ

بہت زیادہ مہربان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُتَحَنِّنِ

دین خیف والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَبِي الْأَضْيَانِ

میزبان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْخَفَافِ

ذکی تیز فہم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي لَوْ
يَصِفُهُ وَأَصْفُ

جن کی کوئی تعریف نہ ہو الا تعریف نہ کر سکا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُسْنَكُمْلٍ
لِجَمِيعِ الْأَوْصِيَاءِ

تمام اوصاف کو کامل
کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ

امر بالمعروف
والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُهْرِ صِفِ

اسد اللہ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الْهَبْ لِي مِنْ
الْخِلَافِ

ہدایت دینے والے ہیں
مخالفت سے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّذِيْ اَعْطَى
حَمَلًا يُوسُفَ

جن کو یوسف علیہ السلام
کا جمال عطا کیا گیا

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اَعْجَبِ النَّاسَ
وَصَفًا

سب لوگوں کو پسندیدہ اور صاف

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مُدْعُو الْحَقِّ

حق کی طرف سے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّذِيْ لَمْ يَدْرِكْهُ
سَابِقٌ وَلَا آخِرٌ

جن کا سابقین اور لاحقین میں سے کوئی
ادراک نہ کر سکا۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الْأَوْفَى كَرِيْمًا

بہت محبت
کرنیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّذِيْنَ النَّاسُ
كَفَرًا

سب سے زیادہ نرم
تھیلیوں والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّذِيْ لَيْسَ
اَجْدَبِيْنَهُ وَبَيْنَ

وہ ذات جن کے اور اللہ کے
درمیان کوئی حائل
نہیں

الْحَقِّ

مجموع حق

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الْحَقِّ

مجموع حق

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مُدْهَبِ
الْأَفْفِ

بے قراری کو
دور کرنیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مَنْصَةِ
بِحَبِيْبَاتِ الْحَقِّ

تجلیات الہیہ
کا مہبط

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مِنْحَةِ تَنْوِيْلِ
الْحَقِّ

حق کی عطاؤں میں
سب بڑی عطا

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مَنْ هَجَرَ
طُرُقَ الْحَقِّ

حق کے راستوں میں
سب سے زیادہ واضح راستہ

سِرِّ الْحَقِّ

حق کا راز

حَامِلِ الْحَقِّ

حق کے حامل

بَيَانِ الْحَقِّ

حق کے بیان

نَاصِرِ الْحَقِّ

حق کے مددگار

مُخْبِرِ الْحَقِّ

حق کی خبر دینے والے

مَائِلِ الْحَقِّ

حق کی طرف مائل

وَلِيِّ الْحَقِّ

حق کے دوست

كَامِلِ الْحَقِّ

حق کی طرف بلانے والے

لِسَانِ الْحَقِّ

حق کی زبان

عَاقِدِ الْحَقِّ

حق کا عقد و عہد کرنے والے

أَمْرِ الْحَقِّ

حق کا امر کرنے والے

قَائِلِ الْحَقِّ

حق کہنے والے

وَاسِطَةِ الْحَقِّ

حق کا واسطہ حصول

تَرْجَمَانِ الْحَقِّ

حق کے ترجمان

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
عَلَمِ الْعَالَمِ
بِالْحَقِّ
حق کو جاننے والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْأَخِرِ فِي الْبُعْثِ بِالْحَقِّ
آخری حق کیساتھ
مبعوث ہوئی والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الصَّادِقِ بِالْحَقِّ
پوری
حوت کیساتھ
حق کا اظہار
کرنیوالے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
بَابِ الْحَقِّ
حق کا دروازہ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مَظْهَرِ الْحَقِّ
منظر حق

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مَعَانِي لَاهُوتِ الْحَقِّ
حق تعالیٰ کے تجرد
اور تقدس سے تنزہ کے
معانی

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِمَامِ مَحْرَابِ حَضْرَةِ الْحَقِّ
بارگاہ حق کی عبادت گاہ کے امام

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
النَّاطِقِ بِالْحَقِّ
بیچ بولنے والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُبْعُوثِ بِالْحَقِّ
پتے رسول

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
شَمْسِ الْحَقِّ
حق کا سورج

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَجْهِ الْحَقِّ
حق کا چہرہ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
طَلْعَةِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ
حقیقت میں
مسلوۃ حق

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمَنْعُوثِ بِالْحَقِّ
حق کے ساتھ
موصوف

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مُحَقِّقِ الْحَقِّ
حق کو ثابت
کرنیوالے

اللہ عزوجل
مُؤَادِ الْحَقِّ

حق کا قلب

اللہ عزوجل
خَلِيفَةُ
الْحَقِّ

خليفة حق

اللہ عزوجل
حَقِيقَةُ
الْحَقِّ

حق کی حقیقت

اللہ عزوجل
رُوحِ الْحَقِّ

پاک روح

اللہ عزوجل
جَانِبِ

ماہر

اللہ عزوجل
غَيْبِطَةُ
الْحَقِّ

حق پرستی میں قابلِ رشک

اللہ عزوجل
حَقِّ الْحَقِّ

مراہر حق

اللہ عزوجل
كَلِمَاتِ الشَّقِيقِ

نازک و خوب صورت بدن والے

اللہ عزوجل
فَاعِلِ الْحَقِّ

حق کا کشف کرنے والے

اللہ عزوجل
نَافِعِ الْحَقِّ

حق کیلئے نفع بخش

اللہ عزوجل
كَاجِبِ الشَّقِيقِ

تحقیق والے

اللہ عزوجل
سَبِيلِ التَّوْفِيقِ

توفیق کا راستہ

اللہ عزوجل
سَبِيلِ التَّمْصِيقِ

تصیق کا راستہ

اللہ عزوجل
هَيْكَلِ التَّخْلِيقِ

تخلیق کا مادہ واصل

اللہ عزوجل
هَلَالُ الْكُونِ
الشَّرِيقِ

موجودہ کاروشن اور طلوع ہونے والا
چاند

اللہ عزوجل
الْحَبْلِ الْمُعْتَصِمِ
عِنْدَ الضَّيْقِ

سہارا بننے والی رسی
تنگی کے وقت

اللہ عزوجل
سَيِّدِ أَهْلِ
التَّسَدُّقِ

اہل تدقیق کے سردار

اللہ عزوجل
رِيَاضِ التَّوْفِيقِ

توفیق کے باغ

اللہ عزوجل
الضَّيْقِ

تنگی

اللہ عزوجل
الشَّفِيقِ

شفقت فرمایا والا

اللہ عزوجل
أَهْلِ التَّوْفِيقِ
اللہ عزوجل
أَهْلِ التَّوْفِيقِ
اللہ عزوجل
أَهْلِ التَّوْفِيقِ

اہل توفیق کے امام

اللہ عزوجل
جَبَلِ
التَّوْفِيقِ

مضبوط اور
قابل دتوق رسی

اللہ عزوجل
أَهْلِ التَّحْقِيقِ

اہل تحقیق کے امام

اللہ عزوجل
الرَّفِيقِ

ہربان دوست

اللہ عزوجل
نَجَاةِ الْغَرِيقِ

غرق ہونے والوں کا سبب نجات

اللہ عزوجل
نُورِ الصِّدِّيقِ

اللہ عزوجل

تصدیق کے
سراپا نور

اللہ عزوجل
لِكَابَةِ
الْحَسْبِ الْغَرِيقِ

اللہ عزوجل

شرافت والے خاندان کا
جوہر

اللہ عزوجل
قَدَمِ
التَّوْفِيقِ

اللہ عزوجل

توفیق باری
کا پیش خیمہ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
جَوَارِشِ
الْحَشَّاقِ

عشاق کی دوا

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِ الْعَالَمِينَ
عَلَى الْإِطْلَاقِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
الْهَادِي مِنَ
الشَّاقِ

ہدایت دینے والے ہیں
مخاصمت سے

سرور ہیں تمام جہانوں کے
ہر پہلو سے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
الْمَحْمُولِ عَلَى
الْبُرَاقِ

براق پر سوار
کئے گئے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
سَابِقِ الْأَسْبَاقِ

سب آگے بڑھنے والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
بَدْرِ التَّحْقِيقِ

تحقیق کے ماہ تمام

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
مُذْهِبِ النِّفَاقِ

سناقت کو دور کرنے والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي أُنَارُهُ فِي
الْمُغَارِبِ وَالْمَشَارِقِ

جن کا ذکر مغربوں اور مشرقوں میں ہے۔

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
رَفِيفِ
الْأَخْلَاقِ

اچھے اخلاق
والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
عَدْلِ الْأَخْلَاقِ

اخلاق کی مٹھاس

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي ذَكَرَهُ
فِي الْأَفْصَاقِ

جن کا ذکر آفاق میں ہے۔

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
أَفْضَلِ الْخَلْقِ
عَلَى الْإِطْلَاقِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
خَلِيفَةِ اللَّهِ

اللہ کے خلیفہ
مطلق

تمام مخلوق سے افضل
ہر پہلو سے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
التَّصَدِيقِ

حق کی تصدیق
کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
دَاعِيِ الْخَلْقِ
إِلَى الْخَلْقِ
مخلوق کو خالق کی طرف دعوت دینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَطْيَبِ الْأَخْلَاقِ
سَهْلِ
الْأَخْلَاقِ
بہت اخلاق والے
نرم گو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَبْدِ الرَّزَاقِ
رزاق کے بندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَازِقِ
نوش
منظر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي
أَلْمَمِ الْخَلْقَ
عَلَى الْأَسْنِغْرِاقِ
مخلوق سے کئی طور پر افضل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الذَّائِقِ
صاحب یاقوت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَحْضِ
الْأَعْرَاقِ
خالص خاندانی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْفَائِقِ
کے بلند

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
السَّابِقِ
چلا کر بجا نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُخْتَرِقِ السَّبْعِ
الطَّبَاقِ
سات آسمانوں کو عبور کر نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسْتَفْتِحِ
الْمُسْطَلِقِ
مطلق فتح

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبَحْرِ الدَّقِيقِ
ٹھا ٹھیس ماریوالا
سمندر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسْتَمِيمِ
الْمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ
اخلاقی قدروں کو پورا
کر نیوالے

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>خَلْقَهُ أَجَلٍ مَنْ فِي الْوُجُودِ الْخَالِقِ</p> <p>بزرگتر ان تمام سے جنہیں ہم سے موجود کیا خالق نے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>رَاكِبِ الْبُرَاقِ</p> <p>براق پر سواری کرنیوالے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>صَاحِبِ الْبُرَاقِ</p> <p>براق والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>النُّورِ الْخَارِقِ</p> <p>سراپا معجزاتی نور</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>السَّابِقِ بِئْسَ فِي</p> <p>نیکی میں</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>الْأَلَّعِقِ</p> <p>انگیلوں کو چاٹنے والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>النُّورِ السَّابِقِ</p> <p>نورِ اولین</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>النَّاطِقِ بِذِكْرِهِ</p> <p>ان تمام کے افضل جن کے ذکر کیساتھ کلام کیا کسی بھی متکلم نے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>أَفْضَلِ مَنْ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>الصَّادِقِ</p> <p>سچے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>الْفَارِقِ</p> <p>حق و باطل میں فرق کرنیوالے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>الْعِلْمِ الْفَارِقِ</p> <p>فرق کرنے والا علم</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>الْجَامِعِ بِحَقِيقَتِهِ</p> <p>وہ جن کی حقیقت تمام حقیقتوں کی جامع ہے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>صَاحِبِ اللِّوَاءِ الْخَافِقِ</p> <p>جھنڈا لہانے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى</p> <p>تَبَارِجِ الشُّوقِ</p> <p>سوز شہائے عشق</p>

مِفْتَاحُ مَقَامَاتِ
الْحَقَائِقِ

مقامات حقائق کی
چابی

الْمُنْبَسَطِ
فِي الْخَلَائِقِ

مخلوق کے لئے اللہ کی
طرف سراپا ہدایت

مِصْبَاحِ
دَلَائِلِ الدَّقَائِقِ

بارگاہوں کے دلائل کا چراغ نور

بِحُجْرَةِ الرَّائِقِ
خوش منظر
سُندَر

نُورِ اللَّهِ الْمُنْبَسَطِ
فِي الْخَلَائِقِ

اللہ کا نور جو تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے

مُجْمَعَةِ اللَّهِ
عَلَى الْخَلَائِقِ

مخلوق پر اللہ کی محبت

أَشْرَفِ
الْخَلَائِقِ

ساری مخلوق
سے افضل

عَبْدِ الْخَالِقِ

پیدا کر نیوالے کے بندے

سَيِّدِ
أَهْلِ الْمَشَارِقِ

اہل مشرق کے سردار

الْمُوَدِّدِ بِالْخَوَاقِ

معجزات کے ساتھ
تائید کئے گئے

وَأَسِطَةِ الْخَلْقِ
بَيْنَ رَبِّينَا الْخَالِقِ

خالق و مخلوق کے درمیان
وسیلہ واسطہ

سَكِّحِ
الْخَلَائِقِ

خلق خدا میں نرمی
سے پیش آئیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
السَّكِرِ
الْصَّدُوقِ

ہمیشہ سچ کی چال والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْحَامِدِ كَمَا
أَنَّه الْعَاشِقُ

تعریف کرنے والے جیسا
کہ وہ عاشق ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْحَامِدِ كَمَا
أَنَّه الْمُعْشُوقُ

تعریف کرنے والے جیسا کہ وہ
معشوق ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْقَائِمِ بِالْحَقُوقِ

حقوق کو قائم کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
جَالِي الْفُسُوقِ

فسق و فجور کو دور کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُعْشُوقِ

محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الصَّكَادِقِ
الْمُصَّدِّقِ
الْمَذْكُورِ فِي
السَّبْعِ الطَّبَاقِ

سچے اور تسلیم شدہ سچے
ساتھوں آسمانوں میں ذکر کئے گئے

عَنْ حَرَامِكَ

سے بچائے۔

اللَّهُمَّ
أَكْفِنِي بِحَلَالِكَ

تو مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام

اللَّهُمَّ فَارِحِ

اے اللہ! فکر کو دور کرنے والے

وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے مابو سے غنی کر دے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ

اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ

الْمُؤَكَّشِفِ الْخَوْفِ فَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ

میرے خوف کو دور کرنے والے اور اپنی خاص رحمت سے مجھ پر رحم فرما۔ (اے اللہ! قبول فرمائیے)

سترہویں منزل

ﷺ نے فرمایا: اے لوہڑیو! مسلمانوں کو خندہ پیشانی سے
دیکھ کر سلام ان سے نہ مانو، اگر تو کر سکتا ہے تو ایسا کر جاں پر لگی ہو
کہ ملائکہ جو تیرے ساتھ ہیں، مجروحانین کے سب تیرے لئے
مردوں کے اور عورتوں کے اور بچوں کے اور جان لے کر جو دنیا سے
جاتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے لگتے ہیں وہ بختا جاوے گا۔

۹

خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور
ہے یہ وہاں ہوا تم پہ کروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا بَدِيعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَآلِهِ وَمَسْأَلَةِ تَكْبِيرِ الْأَكْثَرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْثَرِ الْأَكْثَرِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللہم صل علی
سَيِّدِ
الْمَخْلُوقِ

سب مخلوق کے سردار

اللہم صل علی
الْقَائِمِ بِالْعَدْلِ وَالْحَقُّوقِ

حقوق و عدل کے قائم فرمانے والے

اللہم صل علی
كَثِيرِ
الْعَرَقِ

زیادہ پسینے والے

اللہم صل علی
سَهْلِ الْخُلُقِ

نرم اخلاق والے

اللہم صل علی
مُعْجِزِ
الْمَخْلُوقِ

مخلوق کو عاجز کر نیوالے

اللہم صل علی
مُعِينِ الصِّدْقِ

صداقت کا
شفاف چشمہ

اللہم صل علی
صَاحِبِ
خَيْرِ
الرِّزْقِ

بہترین رزق والے

اللہم صل علی
لَكَيْنِ الْخُلُقِ

نرم خوئے

اللہم صل علی
بَازِرْكَانِ الْعِشْقِ

عشق کے سوداگر

اللہم صل علی
الَّذِي
أَدْرَكَ
الْحَقَائِقَ

جنہوں نے حقائق کا
ادراک کیا

اللہم صل علی
الَّذِي أُعْطِيَ رِضًا سَحَاقَ

جن کو اسحاق علیہ السلام کی رضا عطا کی گئی

اللہم صل علی
الَّذِي
فَاقَ
الْمَخْلُوقَ

جو تمام مخلوق سے
فوقیت لے گئے

<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْخَائِدِ لِمَا سَبَقَ سابق کو ختم کر نیوالے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى صِرَاطِ اللّٰهِ الْمَحَقِّقِ الشد کے راستہ حق</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي أَعْطَى الْكَمَالَ الْمُطْلَقُ کمال مطلق عطا کئے گئے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي هُوَ الْمَحْمُودُ الْمُطْلَقُ وہ ذات جو مطلق محمود ہے۔</p>		
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي بِوَجُودِهِ الْوُجُودُ اشْرَقَ وہ ذات جن کے وجود مسود سے وجود کو روشن ہے۔</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي بِالْحِكْمَةِ نَنْطِقُ وہ ذات جو حکمت سے بولتے ہیں۔</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَامِدِ كَمَا أَنَّهُ الْعَشِقُ تدبیر کر نیوالے جیسا کہ اُن کا عشق ہے۔</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى خَيْرٍ مِّنْ سَبَقَ وَلِحِقِ بہتر ہیں سابقین ولاحقین سے۔</p>		
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مِفْتَاحِ رَمَزِ الْقُدْسِ الْمُخَلَّقِ پوشیدہ بزرگی کے راز کی چابی</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْفَسَاحِ لِمَا أُغْلِقَ بندشوں کو کھولنے والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي كَانَ حَلْوُ الْمَنْطِقِ جو میٹھے بولوں والے تھے۔</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّبْقِ فِي عَالَمِ الْخَلْقِ فلاح حاصل کر نیوالے سبقت کے حلاق نشانات کے حصول میں عالم خلق کے اندر</p>		

ذِي الشَّرَفِ
المُحَقِّقِ
ثابت بزرگی والے

بَابِ كَرَمِ
الْكَرِيمِ الْمَطْلُوقِ
اللہ کے کرم مطلق کا دروازہ

مِمَّا الْجُودِ
إِلَى الْخَلْقِ
مخلوق تک فیض جو دوسخا
پہنچانے والے

سِرَاجِ الْأَفْقِ
افق الوہیت کے روشن آفتاب

صَبَاحِ
الْأَفْقِ
بر افق کی روشنی

النُّورِ الْمَطْلُوقِ
المُحَبُّوبِ الْمَطْلُوقِ
نور مطلق
محبوب مطلق

الْخَلِيفَةِ
الْمَطْلُوقِ
خليفة مطلق

صَاحِبِ الْمَقَامِ الْأَسْبَقِ
افضل ترین مقام کے مالک

المُحَقِّقِ
غلاموں کو آزاد
کرنیوالے

الَّذِي عَطَى الْكَمَالَ الْمَطْلُوقِ
جنہیں کمال مطلق عطا کیا گیا

مُسْبِقِ
سبق بخشنے
والے

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المُسْتَزِقِ</p> <p>اللہ سے روزی طلب کرنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المُصَدِّقِ</p> <p>تصدیق کئے گئے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المُشْفِقِ</p> <p>مہربان</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المُتَخَشِّقِ</p> <p>اعلیٰ اخلاق سے متصف</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المُصَدِّقِ</p> <p>تصدق کرنے والے</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مُحِبِّ الرِّفْقِ</p> <p>رفیق کو پسند کرنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>دَائِمِ الصِّدْقِ</p> <p>ہمیشہ سچ بولنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الصِّدْقِ</p> <p>سراپا صداقت</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>فَرَطِ صِدْقِي</p> <p>سچے میرے سامان</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>التَّاطِقِ بِالصِّدْقِ</p> <p>سچ بولنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الصِّدْقِ</p> <p>سچائی والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَعْلُومِ صِدْقِي</p> <p>سچائی کی تعلیم دینے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَعْلُومِ صِدْقِي</p> <p>سچائی کی تعلیم دینے والے</p>	

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
شَكِيعِ
صِدْقٍ
پتے شفاعت کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
ذِي لِسَانٍ صَدِيقٍ
سچی زبان والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
قَاطِعِ
يَدِ سَارِقٍ
چور کا ہاتھ کاٹنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
قَدَمِ صِدْقٍ
پتے پیش رو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَوَّلِ
فِي الْخَلْقِ
تخلیق میں اول

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
خَيْرِ الْخَلْقِ
تمام مخلوق سے بہتر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَحِيمٍ
بِالْخَلْقِ
مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُعْتَدِلِ الْخَلْقِ
درمیانے قامت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسْتَعْنَى عَنِ تَلْهِيمِ الْخَلْقِ
تیکریم خلاق سے مستغنی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صُورَةٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نَاسُوتِ
الْخَلْقِ
خلاق کے جسم مادی کی صورت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْغَنِيِّ عَنِ تَوْصِيفِ الْخَلْقِ
مستغنی، مخلوق کی تعریف سے توصیف سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَمْدَةِ
الْخَلْقِ
تمام مخلوق سے افضل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى



<p>رُوح حَيَاتِ الْخَلْقِ</p> <p>خلق کی حیات کی رُوح</p>	<p>الْقَوْمِ لِدُخْلِكِ</p> <p>مخلوق کو بہت زیادہ عطا کر نیوالے</p>	<p>الْمُجْتَبَى مِنَ الْخَلْقِ</p> <p>مخلوق میں سے چنے ہوئے</p>
<p>رَزَايِي لَا يَسْتَوْحِشُ مِنَ الْخَلْقِ</p> <p>جو حق سے وحشت نہیں کرتے</p>		
<p>مَعْنَى كِتَابِ الْحُسْنِ الْمُطْلَقِ</p> <p>حسُنِ مطلق کی کتاب کے معنی و مقصود</p>	<p>الْمُحَبُّوبِ عِنْدَ الْحَقِّ</p> <p>حق (اللہ) کے ہاں محبوب</p>	<p>الَّذِي لَا يَأْتِسُ بِالْخَلْقِ</p> <p>جو مانوس نہیں ہوتے مخلوق کے ساتھ</p>
<p>نُورِ الصِّدْقِ</p> <p>نورِ صدق</p>		
<p>نُورِ مَشْكُورَةِ الْخَلْقِ</p> <p>مشکُورۃ خلق کا نور</p>		
<p>عَيْنِ لِهَوِيَّتِهِ الْخَلْقِ</p> <p>حقیقتِ خلق کے عین</p>	<p>مَا حِبِّ الْخُنْدَقِ</p> <p>خندق والے</p>	<p>سِرِّ أَيْ سِرِّ الْخَلْقِ</p> <p>وجودِ خلق کا راز</p>

<p>اللہ عزوجل مُرْمِي أَبْصَارِ السُّبَّاقِ</p> <p>اہلِ سبقت کی نگاہوں کا مرکز</p>	<p>اللہ عزوجل المُحْبُوبِ عِنْدَ الخَالِقِ</p> <p>خالق کے ہاں محبوب</p>	<p>اللہ عزوجل عَبْدِ الرِّزَاقِ</p> <p>رزاق کے بندے</p>
<p>اللہ عزوجل مُحْبُوبِ عِنْدَ الرِّزَاقِ</p> <p>رزاق (اللہ) کے ہاں محبوب</p>		
<p>اللہ عزوجل نُورِ حَقِيقَةِ الحَقَائِقِ</p> <p>حقیقہ حقائق کے نور</p>	<p>اللہ عزوجل سَيِّدِ الرُّفَاقِ</p> <p>رفقاء کے سرور</p>	<p>اللہ عزوجل المُحَبَّرِ بِالتَّوْفِيقِ</p> <p>توفیق کے ساتھ آرائش کئے گئے</p>
<p>اللہ عزوجل رَءُوفٍ بِالرُّفَاقِ</p> <p>رفقاء کے ساتھ نرم دل</p>		
<p>اللہ عزوجل بَارِقِ</p> <p>چمکنے والے</p>	<p>اللہ عزوجل مُهَيِّوِنِ الدِّيَنَاتِ</p> <p>باریکوں کو آسان و واضح کرنے والے</p>	<p>اللہ عزوجل الْبَلَّارِ العَمِيقِ</p> <p>(الطاف البید کا) بحر بیکراں</p>

<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>عَبْدِ الْحَقِّ</p> <p>حق کے بندے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>الْعَالِي الْمَطْلُوقِ</p> <p>علی الاطلاق بلند و برتر</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>وَادِقِ</p> <p>برسنے والے بادل</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مُظْهِرِ جَمَالِ اللّٰهِ الْمَطْلُوقِ</p> <p>اللہ کے جمالِ مطلق کے مظہر</p>		
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>الْخَلِيلِ</p> <p>عِنْدَ</p> <p>الرِّزَاقِ</p> <p>رزاق کے ہاں خلیل</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>عَبْدِ الْخَالِقِ</p> <p>خالق کے بندے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُحِبُّوبِ</p> <p>عِنْدَ</p> <p>الرِّزَاقِ</p> <p>رازق کے ہاں محبوب</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>الْخَلِيلِ الْمَطْلُوقِ</p> <p>خلیلِ مطلق</p>		
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>الَّذِي اِنَّهُ الْحَاقِقُ</p> <p>وہ ذات جو سراپا عاشق ہیں</p>		
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>عَبْدِ الرِّزَاقِ</p> <p>رازق کے بندے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>سَعْدِ الْخَلَائِقِ</p> <p>سعادتِ مخلوقات</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ</p> <p>مَلِكِ مَا فَوْقَ</p> <p>الْفُوقِ</p> <p>بلند سے بلند تر کے شہنشاہ</p>

حَسْبُكَ
الْخَلْقِ

قابلِ تائسِ صورتِ والے

فَاعِلِ الْخَيْرِ فِي الْخَلْقِ

مخلوقات کیلئے بھلائیوں کا سامان کرنے والے

حُسْنِ
الْخَلْقِ

حسینِ اخلاقِ والے

الْمُصْطَفَىٰ مِنْ الْخَلْقِ

مخلوق سے چنے ہوئے

ظَاهِرِ
الْخَلْقِ

ظاہر کے لحاظ سے مخلوق

أَوْسَعِ الْخَلْقِ

ساری مخلوق سے وسعت والے

نِعْمَةِ اللَّهِ
عَلَى الْخَلْقِ

مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی مجسمِ نعمت

صَاحِبِ الْخَلْقِ

خلق والے

الْفَسَادِ

حق و باطل میں فرق کرنے والے

الْمُصَدِّقِ

بہت سچے

الْمُصَدِّقِ

سچے کئے گئے

الْمُرْزُوقِ

روزی دیتے گئے

دَائِمِ الشَّوْقِ

ہمیشہ اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھنے والے

حَقِيَّةَ الْحُقُوقِ

تمام حقوق کا مجسم ثبوت

الْمُرْفُوقِ

زہی کئے گئے

صَاحِبِ مَأْفُوقِ الْفَوْقِ

بلند سے بلند تر کے مالک

أَطْيَبِ الْعِزِّ عِرْفًا

پاکیزہ اور معنبر پسینہ والے

صَاحِبِ الذُّوقِ

(دیدارِ الہی کے) ذوق والے

صَاحِبِ الشَّوْقِ

(دیدارِ الہی کے) شوق والے

حَمِ حَسَقِ

حا۔ یم۔ عین۔ سین۔ قاف

أَوَّلِ الرُّسُلِ خَلْقًا

تمام رسولوں کے پیدائش میں پہلے

الْمُسَمَّوِ خَلْقًا

اخلاق کاملہ والے

الْمُسَمَّوِ خَلْقًا

مکمل تخلیق والے

أَحْسَنِ النَّاسِ عِنَقًا

تمام لوگوں کی زیادہ حسین گردن والے

صاحب
السواك

مسواک والے

المستغرق
لاوصاف الكمال سحفاقا

اعاطہ کرنیوالے اوصاف کمال کا ازرنے قدری کے

ناسك

راہرڈ راہ حق

النور المبارک

مبارک روشنی

الملك

بادشاہ

المبارک

بارکت

فخر
الافلاك

آسمانوں کا فخر

المضاجك

ہنس مکھ

الناسك

عابد (قربانی کرنیوالے)

الفك

رہن نمک
کرانے والے

المشك

انگلیوں میں تشبک دینے والے

المتماسك

مضبوط اور کھٹے
ہوتے اعنار والے

شَرَفِ
الْأَمْثَالِكِ

تمام ملکوں کے لئے
شرف و زیور

الْمَسْحِي لِظِلَامِ الشَّرِكِ

شُرک کی تاریکیوں کو مٹانے والے

الضَّحَّاكِ

ہنس مکھ

صَاحِبِ لَوْلَاكَ
لَمَّا خَلَقْتَ الْأَفْلَاكَ

جو مالک ہیں اس منصب کے اگر آپ نہ ہوتے تو میں
افلاک پیدا نہ کرتا

الضَّاحِكِ

دشمن کا خون بہانے والے

الْمُنْقِذِ مِنَ الْهَلَاكِ

ہلاکتوں سے بچانے والے

وَأَسِطَةِ

عَقْدِ

السُّلُوكِ

سلوکِ راہِ خدا کے بار
کا جوہر

شَرَفِ الْمَسْلُوكِ

بادشاہوں کا
شرف و زیور

الْمَسْحِي لِظِلَامِ الشُّكُوكِ

شکوک کی تاریکیوں کو مٹانے والے

الْأَنْسَاكِ

مَمْلُوكِ الْعَبِيدِ

ممالک کی آنکھوں
کے لئے پتلی

إِبْنِ فَهْرِ بْنِ مَالِكِ

فہر بن مالک کے فرزند

إِبْنِ الْعَوَاتِكِ

پاک خواتین کے
نورِ نظر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْآتَابِكِ

امیر - سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّوحِ لِذَوَائِرِ
الْمُدَدِ وَالْمَسَالِكِ

مسالك و مدد کے مراکز کی روح

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّوحِ
لِذَوَائِرِ الْمَسَالِكِ

رسول کے مراکز کیلئے روح

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
قَيْلِ لِضِحِّكَ

تھوڑا ہنسنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي
كَانَ فَمْلَكَ

يَتَحَرَّكَ

جن کا پس گھوڑا
(ملائک کے ہلانے سے)
بتا تھا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُرَلِّ

بہت بھلائی کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْ غَبَّرَ

الضِّحِكِ

بغیر ہنسنے مسکراتے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
السَّلْوَى الْمُدَلِّ

۱۔ شہد خورشید
۲۔ پُر وقارت کی بخش ذات

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُفَاهِمِ الْمَكْحَلِ

سرمیں آنکھوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُتَزَمِّلِ

چادر میں
پٹنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي صَوَّ
الْفَاعِلِ الْمُتَفَعِّلِ

انتر پینچا نیوالے اور انتر قبول کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَقْلِ
الرُّسُلِ
الْمُزَمِّلِ

رسولوں میں
پہلے منزل

الْمُدَلِّلُ

رہنمائی کئے گئے

الْمُسْكَحِلُّ

قدرتی سرمہ لگی آنکھوں والے

الْأَوَّلُ

سب پہلے

الْمُتَوَكِّلُ

اللہ پر بھروسہ کرنے والے

الْأَجَبُّ

بہت بڑے بزرگ

الْمُوَصَّلُ

رحم فرمانے والے

الْمُجَلِّ

حوالہ کر نیوالے

الْمُرْسَلُ

پیغمبر

الْجَاحِلُ

بڑی شخصیت

الْعَدْلُ

مجامع انصاف

الْفَضْلُ

احسانِ الہی

الْمُقْبَلُ

غور فرمایا نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُرْسَلِ

طہر طہر کر قرآن پڑھنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُرْسَلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُرْسَلِ

شکر بھیجنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرَّجْلِ

کنگھی کتے گتے بالوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمَمْلُوكِ

رکفار کو ڈھیل دینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
خَيْرِ
طِفْلِ

بہترین طفل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
هَادِي كُلِّ مُضِلِّ

ہر گمراہ کے
ہادی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
ذِي فَضْلٍ

فضل والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُحْمُودِ بِكُلِّ فِعْلٍ

ہر فعل کے ساتھ تعریف
کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُحْمُودِ بِكُلِّ قَوْلٍ

ہر قول کے ساتھ تعریف
کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَهْلِجِ

النَّاسِ كَأَهْلِجِ

سب لوگوں
سے نوتر
دیسل والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَهْلِجِ النَّاسِ سَبِيلًا

سب لوگوں کے کشادہ درو سیح راستے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَقْوَى
النَّاسِ كَأَقْوَى

سب لوگوں سے
قوی تر دیسل
والے

<p>أَثَبَتِ النَّاسِ أَصْلًا</p>	<p>أَرَجَحَ النَّاسِ عَقْلًا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقلمند</p>	<p>أَلَمَّجِ الْأَنْبِيَاءِ سَبِيلًا سب انبیاء سے زیادہ بہتر و نفع رستے والے</p>
<p>سَيِّدِ الْمُهْدِيَيْنِ سَبِيلًا سیدھے رستے پر چلنے والوں کے سردار</p>		
<p>فَاتَّقِ الْمُرْسَلِينَ دَلِيلًا</p>	<p>فَاتَّقِ الْمُرْسَلِينَ وَفَضْلًا مُرْسَلِينَ سے بلند ہونے والے فَضْلًا کے لحاظ سے</p>	<p>سَيِّدِ الْأَصْدِقَاتِ قِيْلًا</p>
<p>سَبَبِ يَأْتِ الْمُرْسَلِينَ سے بلند ہونے والے</p>	<p>أَكْثَرَ الْعَرَبِ طَوْلًا تمام عربوں سے زیادہ طاقت والے</p>	<p>سَبَّحَ بُولُغَةَ الْوَالِدِ کے سردار</p>
<p>أَعْظَمَ الْأَنْبِيَاءِ فَضْلًا سب انبیاء سے عظیم تر فضیلت والے</p>		
<p>أَكْمَلَ الْأَنْبِيَاءِ فِعْلًا سب انبیاء سے کامل ترین فعل والے</p>	<p>أَزْكَى النَّاسِ فِعْلًا سب لوگوں سے پاکیزہ ترین فعل والے</p>	<p>أَزْكَى النَّاسِ فِعْلًا سب پاکیزہ تر افعال میں</p>

اللہ تعالیٰ
جَامِعِ
الْجَمِيلِ
جمیل کے جامع

اللہ تعالیٰ
أَكْثَرَ الْعَرَبِ نَيْلًا
تمام عربوں کی زیادہ مقاصد کے پانے والے

اللہ تعالیٰ
أَصْدَقِ
النَّاسِ قَوْلًا
سب لوگوں سے قول والے

اللہ تعالیٰ
صَاحِبِ
الْيَوْمِ الْجَمِيلِ
خوب صورت دن والے

اللہ تعالیٰ
الرَّوْضِ النَّاصِرِ الْجَمِيلِ
تر و تازہ خوبصورت باغ

اللہ تعالیٰ
صَاحِبِ
الْيَمِينِ
خوبصورت رات والے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور کاہلی اور بزدلی اور کنبوسی

وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

سے اور بڑے بڑھاپے اور قبر کے عذاب سے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

اے اللہ تو میرے نفس کو پرہیزگاری عطا فرما اور تو اس کو پاک و صاف کر دے تو ہی اس

أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا أُمِّينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

کو بہترین پاک و صاف کر نیوالا ہے، تو ہی اس کا مالک و آقا ہے۔ (اے اللہ) قبول فرما حضرت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی عزت کے طفیل

سرور کونین نے فرمایا! اے ابو ہریرہ! کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ ایک شخص اس وجہ سے بخشنا گیا کہ اس نے گھاس جمع کیا اور ایک جانور آیا اور اس کو کھا گیا۔

بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز
ایک تمھارے سوا تم پہ کروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيْدُ يَا كِيْمُ يَا قِيَمُ يَا بَدِيْعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤْمِ الْعَاشِقِيْنَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤْمِ
الْمُعْشُوْقِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ
الْمُحْتَوْرَةِ عَلَى
قُلُوْبِ الْحَارِفِيْنَ وَآلِهِ وَسَائِرِ تَطَهِّمَاتِ الْكَثِيْرِ الْكَثِيْرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيْمًا وَأَكْثَرِ الْكَلِمَاتِ الْمَقْرُبِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

صَاحِبِ الْجَسَدِ الْجَمِيلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

خوب صورت جسم والے

صَاحِبِ
الْقَوْلِ الْجَمِيلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

خوبصورت چہرے والے

صَاحِبِ
الْكَلِمِ الْجَمِيلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

خوب صورت سُرے والے

صَاحِبِ
الْكَحِيلِ الْجَمِيلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

خوب صورت شرمیلی آنکھوں والے

صَاحِبِ صِرِّ الْجَمِيلِ

خوب صورت نیچی نظر رکھنے والے

صَاحِبِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت لمبی پلکوں والے

صَاحِبِ الْبَيْتِ الْجَمِيلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

خوب صورت سلالی والے

صَاحِبِ
الْجَمِيلِ

خوبصورت پک والے

صَاحِبِ الرَّأْسِ الْجَمِيلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

خوب صورت سر والے

صاحب التاج الجمیل

خوب صورت تاج والے

اللهم صل علی صاحب الجمیل

صاحب

السدل الجمیل

خوب صورت لٹ مبارک (بغیر مانگ) اچھے ہٹائے بالوں والے

اللهم صل علی صاحب الجمیل

صاحب الدماغ الجمیل

خوب صورت دماغ والے

اللهم صل علی صاحب الجمیل

صاحب

الشعر الجمیل

خوب صورت بالوں والے

اللهم صل علی صاحب الجمیل

صاحب الفم الجمیل

خوب صورت مانگ والے

اللهم صل علی صاحب الجمیل

اللهم صل علی صاحب الجمیل

صاحب الحفا الجمیل

خوب صورت گھنگم پالے بالوں والے

اللهم صل علی صاحب الجمیل

صاحب

الدھین الجمیل

تیل میں بھیگی خوبصورت زلفوں والے

اللهم صل علی صاحب الجمیل

صاحب

الدھن الجمیل

خوب صورت تیل والے

اللهم صل علی صاحب الجمیل

صاحب الشد ف الجمیل

خوب صورت ڈھلوان رخسار والے

اللهم صل علی صاحب الجمیل

اللهم صل علی صاحب الجمیل

صَاحِبِ الْفَرَاخِ مِيلِ

خوب صورت فرخ دے

صَاحِبِ

صَاحِبِ الذِّعَابِ الْجَمِيلِ

خوب صورت ذما دے

الْيَافُوحِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت یافوح دے

الْجَمِيلِ

خوب صورت جمیل دے

صَاحِبِ السَّانِ الْجَمِيلِ

خوب صورت سان زبان دے

صَاحِبِ الْفَيْحِ الْجَمِيلِ

خوب صورت فیاخ بدن دے

صَاحِبِ الشَّحْرِ الْبَاطِمِ

الْجَمِيلِ

خوب صورت شجر باطم دے

صَاحِبِ

الْجَمِيلِ

خوب صورت مسکن دے

صَاحِبِ اللَّعَابِ الْجَمِيلِ

خوب صورت لعاب دے

صَاحِبِ الْإِنْفِ الْجَمِيلِ

خوب صورت انف دے

صَاحِبِ الْكَظْمِ الْجَمِيلِ

خوب صورت سانس کی نالی والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

صَاحِبِ
الْجَمِيلِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت گردن والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

صَاحِبِ الشِّدْقِ الْجَمِيلِ

خوب صورت باجھ والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

صَاحِبِ
الذَّقَنِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت طھوری والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

صَاحِبِ الْوَرِيدِ الْجَمِيلِ

خوب صورت شرگ والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

صَاحِبِ الصَّدْرِ الْجَمِيلِ

خوب صورت سینے والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

صَاحِبِ
العَمَلَةِ
الْجَمِيلَةِ

خوب صورت پیٹ کی
سلوٹوں والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

صَاحِبِ الْعُرْقِ الْجَمِيلِ

خوب صورت رگوں والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

صَاحِبِ
البَطْنِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت پیٹ والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

صَاحِبِ الْعُرْقِ الْجَمِيلِ

خوب صورت پینے والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

صاحب الضلع الجبیل

خوب صورت سینہ والے

اللهم صل علی

صاحب
الابط
الجبیل

خوب صورت بغل والے

صاحب الیمن الجبیل

خوب صورت دائیں ہاتھ والے

اللهم صل علی

صاحب
الشمال
الجبیل

خوب صورت بائیں ہاتھ والے

صاحب الأقدام الجبیل

خوب صورت انگوٹھے والے

اللهم صل علی

صاحب الخنصر الجبیل

خوب صورت چھنگلی والے

اللهم صل علی

صاحب
الأعضاء
الجبیل

خوب صورت اعضاء والے

صاحب الہی کل الجبیل

خوب صورت سراپا اقدس والے

اللهم صل علی

صاحب
الخنصر
الجبیل

چھنگلی کے ساتھ والے
خوب صورت انگی والے

صاحب الروح الجبیل

خوب صورت روح والے

اللهم صل علی

صَاحِبِ النَّفْسِ الْجَمِيلِ

خوب صورت نفس والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَلِّ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ

صَاحِبِ الْفَرَسِ الْجَمِيلِ

خوبصورت حسن والے

الْمَشْرُوبِ الْجَمِيلِ

خوب صورت مشروب والے

صَاحِبِ الْكَيْءِ الْجَمِيلِ

خوبصورت حیا والے

صَاحِبِ الْمَكُولِ الْجَمِيلِ

خوب صورت طعام والے

صَاحِبِ الْمَاءِ الْجَمِيلِ

خوب صورت پانی والے

صَاحِبِ

الْبَاسِ الْجَمِيلِ

خوبصورت لباس والے

صَاحِبِ الْمُنْزَرِ الْجَمِيلِ

خوب صورت تہ بند والے

صَاحِبِ الْغَدَاءِ الْجَمِيلِ

خوب صورت غذا والے

صَاحِبِ الْقَمِيصِ الْجَمِيلِ

خوب صورت قمیص والے

صَاحِبِ الضَّمَامِ الْجَمِيلِ

خوب صورت بستر والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

صَاحِبِ
الْأَقْوَالِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت اقوال والے

صَاحِبِ الْكَصِيرِ الْجَمِيلِ

خوب صورت چٹائی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

صَاحِبِ
السَّرِيرِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت چارپائی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

صَاحِبِ الْأَفْعَالِ الْجَمِيلِ

خوب صورت افعال والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

صَاحِبِ الْأَمْوَالِ الْجَمِيلِ

خوب صورت اموال والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

صَاحِبِ
الْقَالَ الْجَمِيلِ

خوب صورت قال والے

صَاحِبِ الْعَمَلِ الْجَمِيلِ

خوب صورت عمل والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

صَاحِبِ
الْحِلْمِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت حوصلے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

صَاحِبِ الْحَالِ الْجَمِيلِ

خوب صورت حال والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَسَلِّمْ

صَاحِبِ الْمَسْكَنِ الْجَمِيلِ

خوب صورت مسکن والے

صَاحِبِ

الْبَلَدِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت شہر والے

صَاحِبِ الْمَكَانِ الْجَمِيلِ

خوب صورت مکان والے

صَاحِبِ

النَّخِيمِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت خیمہ والے

صَاحِبِ الْمُؤَذِّنِ الْجَمِيلِ

خوب صورت مؤذن والے

صَاحِبِ الصَّلَاةِ الْجَمِيلِ

خوب صورت نماز والے

صَاحِبِ

الرُّكُوعِ الْجَمِيلِ

خوب صورت رکوع والے

صَاحِبِ السُّجُودِ الْجَمِيلِ

خوب صورت سجدوں والے

صَاحِبِ الصَّوْمِ الْجَمِيلِ

خوب صورت روزہ والے

صَاحِبِ الْوَمَلِ الْجَمِيلِ

خوب صورت و مل والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلَاتِكَ

صَلَاتِكَ
عَلَيْهِ وَالْوَاسِلَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلَاتِكَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلَاتِكَ

صَاحِبِ
الشَّرَفِ
وَالْجَمِيلِ

خوب صورت شرف والے

صَلَاتِكَ
عَلَيْهِ وَالْوَاسِلَةَ

صَاحِبِ الرَّفِيقِ الْجَمِيلِ

خوب صورت دوست والے

صَلَاتِكَ
عَلَيْهِ وَالْوَاسِلَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلَاتِكَ

صَاحِبِ
الصِّدْقِ
وَالْجَمِيلِ

خوب صورت سچائی والے

صَلَاتِكَ
عَلَيْهِ وَالْوَاسِلَةَ

صَاحِبِ الشَّرْعِ الْجَمِيلِ

خوب صورت شریعت والے

صَلَاتِكَ
عَلَيْهِ وَالْوَاسِلَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلَاتِكَ

صَاحِبِ الظَّاهِرِ الْجَمِيلِ

خوب صورت ظاہر والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلَاتِكَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلَاتِكَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلَاتِكَ

صَاحِبِ الجَهْرِ
وَالْجَمِيلِ

خوب صورت جہر والے

صَلَاتِكَ
عَلَيْهِ وَالْوَاسِلَةَ

صَاحِبِ البَّاطِنِ الْجَمِيلِ

خوب صورت باطن والے

صَلَاتِكَ
عَلَيْهِ وَالْوَاسِلَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلَاتِكَ

صَاحِبِ السِّرِّ
وَالْجَمِيلِ

خوب صورت راز والے

صَلَاتِكَ
عَلَيْهِ وَالْوَاسِلَةَ

صَاحِبِ الْفَضِيلِ الْجَمِيلِ

خوب صورت چھڑی والے

صَلَاتِكَ
عَلَيْهِ وَالْوَاسِلَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلَاتِكَ

صَاحِبِ النَّوْمِ الْجَمِيلِ

خوب صورت نیند والے

صَاحِبِ
الْحَقْوِ الْجَمِيلِ

خوب صورت سنا فرمایا والے

صَاحِبِ الْبَقِيَّةِ الْجَمِيلِ

خوب صورت یقین والے

صَاحِبِ
الْإِيمَانِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت ایمان والے

صَاحِبِ مُصْرَعِ الْبَابِ الْجَمِيلِ

دروازے کے خوب صورت کواڑ والے

صَاحِبِ السَّطْحِ الْجَمِيلِ

خوب صورت مکان کی چھت والے

صَاحِبِ الْبِرِّ
الْجَمِيلِ

خوب صورت کنویں والے

صَاحِبِ الْوَطَنِ الْجَمِيلِ

خوب صورت وطن والے

صَاحِبِ
الْمِزَاجِ الْجَمِيلِ

خوب صورت درازے کی چٹنی والے

صَاحِبِ الْحَالِ وَالْمَالِ الْجَمِيلِ

خوب صورت دنیا و آخرت والے

صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ الْجَمِيلِ

خوب صورت معراج والے

اللهم صل على

اللهم صل على

اللهم صل على

صَاحِبِ
الْحَائِطِ
الْجَمِيلِ

صَاحِبِ الْأَسَاسِ الْجَمِيلِ

خوب صورت بنیاد والے

اللهم صل على

اللهم صل على

اللهم صل على

صَاحِبِ
الْمُطَّلِعِ
الْجَمِيلِ

خوبصورت بالاخانے والے

اللهم صل على

اللهم صل على

صَاحِبِ الْبَابِ الْجَمِيلِ

خوب صورت دروازے والے

اللهم صل على

خوب صورت دیوار والے

اللهم صل على

صَاحِبِ الدَّارِ الْجَمِيلِ

خوب صورت گھر والے

اللهم صل على

اللهم صل على

اللهم صل على

صَاحِبِ
القفلِ الْجَمِيلِ

خوب صورت تالے والے

اللهم صل على

صَاحِبِ
المِفْتَاحِ
الْجَمِيلِ

خوبصورت چابی والے

اللهم صل على

صَاحِبِ الشُّعْرَاءِ الْجَمِيلِ

خوب صورت شاعروں والے

اللهم صل على

اللهم صل على

صَاحِبِ الطَّرِيقِ الْجَمِيلِ

خوب صورت راستہ والے

اللهم صل على

اللهم صل على

صَاحِبِ الْأَصْحَابِ الْجَمِيلِ

خوبصورت اصحاب (رضوان اللہ علیہم) والے

صَاحِبِ

صَاحِبِ الدَّلْوِ الْجَمِيلِ

خوب صورت ڈول والے

الدَّقِيقِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت ذوق والے

صَاحِبِ الشَّوْقِ الْجَمِيلِ

خوب صورت شوق والے

صَاحِبِ
الصُّبُوفِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت مہانوں والے

صَاحِبِ التَّسْرِیحِ الْجَمِيلِ

خوب صورت بال چھڑانے والے

صَاحِبِ
الْبُرَاقِ الْجَمِيلِ

خوبصورت براق والے

صَاحِبِ الْجِهَادِ الْجَمِيلِ

خوب صورت جہاد والے

صَاحِبِ
الرِّفْرِيفِ
الْجَمِيلِ

خوبصورت رزف والے

صَاحِبِ الخَلْقِ الْجَمِيلِ

خوب صورت اخلاق والے

صَاحِبِ الْحَسَبِ الْجَمِيلِ
خوب صورتِ حسبِ والے

صَاحِبِ
الْجَمَالِ
الْجَمِيلِ
خوب صورتِ جمالِ والے

صَاحِبِ النَّسَبِ الْجَمِيلِ
خوب صورتِ نسبِ والے

صَاحِبِ
الْكَمَالِ
الْجَمِيلِ
خوب صورتِ کمالِ والے

صَاحِبِ الْجَلَالِ الْجَمِيلِ
خوب صورتِ بزرگیِ والے

صَاحِبِ الْمُبَسَّحِ الْجَمِيلِ
خوب صورتِ چراغِ والے

صَاحِبِ
النَّاصِحِ
الْجَمِيلِ
خوب صورتِ نصیحتِ
فرمانے والے

صَاحِبِ الْقَائِدِ الْجَمِيلِ
خوب صورتِ پیشوا
غیورِ والے

صَاحِبِ النُّورِ
الْجَمِيلِ
خوب صورتِ نورِ والے

صَاحِبِ الشُّجَاعِ الْجَمِيلِ
خوب صورتِ بہادریِ والے

الْقُرْشِيُّ الْجَمِيلُ

خوب صورت قریشی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

صَاحِبِ الْوَجْهِ الْجَمِيلِ

خوب صورت و جاہت والے

صَاحِبِ

الصَّفْوَحِ

الْجَمِيلِ

خوب صورت معاف کر نیوالے

صَاحِبِ

الْأَسْمْرِ

الْجَمِيلِ

خوب صورت نام والے

صَاحِبِ الْكَنْزِ الْجَمِيلِ

خوب صورت خزانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

صَاحِبِ الْأَلِ الْجَمِيلِ

خوب صورت آل والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

صَاحِبِ

الْمُنْبَرِ الْجَمِيلِ

خوب صورت منبر والے

صَاحِبِ

الطَّابِقِ

الْجَمِيلِ

خوب صورت تھال والے

صَاحِبِ اللِّوَاءِ الْجَمِيلِ

خوب صورت جھنڈے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

صَاحِبِ الْخَاتَمِ الْجَمِيلِ

خوب صورت ختم نبوت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

صَاحِبِ الْبُرْهَانِ الْجَمِيلِ

خوب صورت دلیل والے

صَاحِبِ
الْبُكَاءِ
الْجَمِيلِ

خوب صورت گریہ والے

صَاحِبِ الْبَيَانِ الْجَمِيلِ

خوبصورت بیان والے

صَاحِبِ
السُّلْطَانِ
الْجَمِيلِ

خوبصورت بادشاہی والے

صَاحِبِ
السَّيْفِ الْجَمِيلِ

خوب صورت تلوار والے

صَاحِبِ الْمُنَاقِبِ
الْجَمِيلِ

خوبصورت مناقب والے

صَاحِبِ
الْفِكْرِ الْجَمِيلِ

خوب صورت فکر والے

صَاحِبِ
الشِّفَاءِ الْجَمِيلِ

خوب صورت شفاء والے

صَاحِبِ
الذِّكْرِ الْجَمِيلِ

خوبصورت ذکر والے

صَاحِبِ الزُّهْدِ الْجَمِيلِ

خوب صورت زہد والے

السِّرَاجُ مِنْ حَيْثُ الْإِتِّقَالِ
چراغِ عالم از روئے انتقال

أَسْرَارِ التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ
تفصیل و اجمال کے اسرار

نَزْرِيَا
بہت زیادہ تعریف
کئے گئے

مُحَصِّلِ
الْكَمَالِ
کمال حاصل کرنیوالے

دَافِعِ الْإِخْتِلَالِ
انتشار کو دور کرنے والے

مُثَقِّلِ الْأَعْمَالِ
(اچھے) اعمال کو وزنی بنانیوالے

الْمُنْقِذِ مِنَ
فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الذَّجَالِ
مسیح و جال کے فتنے
سے بچانیوالے

الْمُخْتَارِ لِلْوَصَالِ
جو چُنے گئے وصال کے لئے

الْمُخْتَارِ
لِلْجَمَالِ
جو چُنے گئے جمال
کے لئے

أَرْوَءِ سِرِّ رُبُوعِ الضَّلَالِ
گمراہی کے محلات کو سرنگوں کرنیوالے

الْمَسْجُوعِي مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ

تمام ہونا کیوں سے نجات دینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَسِّلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَسِّلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَسِّلِهِ

مَا حِي شَرِيعَةَ الْهَلِ الْمَحَالِ

طریقہ اہل بطلالت کو مٹانے والے

الْمَانِعِ
عَنِ الضَّلَالِ

گمراہی سے مانع

الْمُخْتَارِ
لِلْكَمَالِ

کمال کیلئے چنے گئے

عَايِدِ اللّٰهَ
بِلَا اِتِّصَالٍ وَّانْفِصَالٍ

اللہ کی عبادت کرنیوالے بغیر اتصال و انفصال کے

مُهَيِّجِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ

اقوال و افعال کو درست فرمائیوالے

نِعْمَ
الْمُرْسَلِ

بہترین رسول

الْمُسْتَمَقِّ بِالْقَبُولِ

قبولیت کے ساتھ آراستہ کئے گئے

مُسَهِّلِ
الْمَسَائِلِ

سائل کو سہل کرنے والے

عَايِدِ اللّٰهَ بِلَا اِتِّحَادٍ وَحُلُولِ

اللہ کی عبادت کرنیوالے بغیر اتحاد و حلول کے

صَاحِبِ الصَّبْرِ الْجَمِيلِ

خوب صورت مہر والے

صَاحِبِ

الشَّانِ

الْجَمِيلِ

خوب صورت شان والے

صَاحِبِ الْعَمَلِ الْجَمِيلِ

خوب صورت عمل والے

صَاحِبِ

الْفَضْلِ

الْجَمِيلِ

خوب صورت فضل والے

صَاحِبِ

الْقُرْآنِ الْجَمِيلِ

خوب صورت قرآن والے

صَاحِبِ الصَّكْفِ

الْجَمِيلِ

اچھے انداز میں دگرگزر کرنے والے

الْمَجْهُولِ

سر میں آنکھوں والے

حِلْيَةِ

الصَّبْرِ الْجَمِيلِ

مہر جمیل کی زینت

زِعْوِ الْوَكِيلِ

بہترین وکالت کرنے والے

جَمَالِ اللَّهِ الْجَمِيلِ الْجَمِيلِ

اللہ کا شان والا جمال

الظِّلُّ الْوَارِفُ الظِّلِيلُ

وسیع و عریض سایہ رحمت

صلوات
علیہ وآلہ وسلم

الْإِكْلِیلُ

سزاج

صلوات
علیہ وآلہ وسلم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ

اے اللہ بیشک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں (عمارت وغیرہ کے نیچے) دَب

مِنَ التَّرْدِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُرْقِ وَالْحَرْقِ

کرمنے سے اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں (اوپنی جگہ سے) گر کر مرنے سے اور پناہ مانگتا ہوں ڈوب کر مرنے سے اور جل کر مرنے

وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَّخِظَ الشَّيْطَانُ

سے اور حد سے زیادہ بڑھاپے سے۔ اور اس پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مرتے وقت میرے حواس ضبط

عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ

کردے اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیری راہ میں پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مردوں اور اس

مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لِدِيخَا

سے پناہ مانگتا ہوں کہ سانپ یا بچھو کے کاٹے سے مردوں۔

اللَّهُمَّ اعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ وَيَبْلُغْهُ مَأْمُولَهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ

اے اللہ! عطا کر سیدنا محمد ﷺ کو ان کا مطلوب اور پہنچا انہیں انکی تمنا و آرزو تک اور بنا انہیں پہلا

شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشْفَعٍ اللَّهُمَّ عَظِّمْ بَرَكَاتَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَأَبْلِغْ

شیفیع اور پہلا مقبول الشفاعت۔ اے اللہ! عظمت دے ان کے برکان کو اور وزنی فرما انکے میزان کو اور روشن

مُجْتَبَاهُ وَارْفَعْ فَوَاحِشَ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجَّتِهِ وَفِي أَعْلَى الْقَرَّبِيِّينَ مَنْزِلَهُ

فرما انکی دلیل کو اور بلند فرما اعلیٰ علیین میں ان کے درجہ کو اور مقرب ترین لوگوں میں ان کی منزل کو پس

فَاعْطِهِ اللَّهُ سُؤْلَهُ وَيَبْلُغْهُ مَأْمُولَهُ وَأَيُّهُ الْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

عطا کر انہیں۔ اے اللہ ان کا مطلوب اور اصل فرما انہیں ان کی تمناؤں تک اور عطا کر انہیں مقام وسیلہ اور بلند درجہ

الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ

اور سچا انہیں مقام محمود تک جس کا تو نے انہیں وعدہ دیا تھا بیشک تو وعدہ کی خلاف ورزی

الْبَيْعَاتِ اللَّهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرُّوحِ

نہیں کرتا۔ اے اللہ پہنچا ہماری طرف سے ہمارے نبی کو صلوات اور سلام آپ کی روح اور جسم دونوں پر

وَالْحَسْرِ فِي النَّوْمِ وَالْيَقُظَةِ وَأَسْأَلُكَ بِالْأَرْوَاحِ الْمَوْكَلَةِ بِنَفْحَاتِ

جاری نیند اور بیداری ہر دو حالت میں اور میں سوال کرتا ہوں ان ارواح کے طفیل جو موکل ہیں زمانہ کی

الدَّهْرِ أَنْ تُؤَيِّدَ نِيَّ بَرُوحٍ مِّنْكَ لَيْسَ شَيْءٌ قَوِيٌّ يَمْتَعِنُ عَنِ

ہوا کے جھونکوں پر کہ مجھے تقویت بخشنے اپنی مخصوص و مقرب روح کے ساتھ کہ کوئی قوی نہ تو انا شئی بھی مجھے

الْوُقُوفِ عَلَى كَشْفِ فِطْرَتِي حَتَّى أَقِفَ فِي الْحَضْرَةِ الَّتِي مِنْهَا

روک نہ سکے اپنی فطرت کے کشف اور اطلاع سے تا آنکہ میں جاٹھروں اس بارگاہ میں کہ جہاں سے تو نے مجھے

أَخْرَجْتَنِي وَأَنْخَسَ فِي الْأَنْوَارِ الَّتِي مِنْهَا ابْرَزْتَنِي فَأَقْوِي عَلَى

نکالا تھا اور غوطہ زن ہو جاؤں ان انوار میں جن سے تو نے مجھے ظاہر کیا تھا پس میں قادر و ہو جاؤں

مُقَابَلَةِ الْأَرْوَاحِ النُّورَانِيَّاتِ وَأَحْيِيَنِي بِمُشَاهَدَةِ الْحُضُورِ


ارواح نورانیہ کے روبرو ہونے پر اور مجھے زندگی بخش سہاوت کرنے والے حضور

السُّرِّيَّاتِ إِنَّكَ أَنْتَ الْبَدِيعُ النُّورِ

کے مشاہدہ کے ذریعے بیشک تو ہی انوکھے نور والا ہے۔

أَمْسَيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

انیسویں منزل



سرور کونین ﷺ نے فرمایا اللہ ہرگز ہمارا ساری خدا کی مخلوق پر رحم کرے اللہ
تعالیٰ تجھے دوزخ میں ڈالنے سے بچائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ
میں تو اس کبھی پر بھی رحم کرتا ہوں جو پانی گر پڑے آپ ﷺ نے تین بار
فرمایا خدا تجھ پر رحم کرے۔

آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس

بس ہے یہی آسرا تم ہے کہ دروں دروں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قَرِيبُ يَا بَدِيْعُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي قَطْرَاتِ دُمُوعِ

الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِي أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى

قُلُوبِ الْحَازِفِينَ وَالْإِهْمِ وَسَائِرِ تَسْلِيْمَاتِ الْكَثِيرِ

شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُرْهُ الْكُفْرَ الْكُفْرَ

عِنْدَ ذِي الْيَوْمِ الْيَوْمِ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الدَّائِلِ</p> <p>راہنما</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْخَائِلِ</p> <p>جانی (دوست)</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْجَائِلِ</p> <p>بزرگ ترین ہستی</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>السَّيِّدِ</p> <p>عظیم المرتبت لوگوں کے سردار</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الصَّاقِلِ</p> <p>صاف شفاف</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>النَّزِيلِ</p> <p>نازل کئے گئے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْكَفِيلِ</p> <p>ضامن</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُهَادِي</p> <p>گمراہیوں پر راہنمائی فرمانبردار</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْمُنَوَّلِ</p> <p>بھروسہ کئے گئے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْحَظِّ الْجَزِيلِ</p> <p>عظیم حصہ والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الظِّلِّ</p> <p>دراز ساتبان</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الْخُدِّ</p> <p>خوبصورت رخسار والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الظِّلِيلِ</p> <p>(سایہ رحمت)</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْأَسِيلِ</p> <p>عظیم جھنڈے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الْعَطَاءِ الْجَزِيلِ</p> <p>جزاء عظیم کے مالک</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>جَزِيلِ إِحْسَانِكِ</p> <p>جلال والے خدا کا بہت بڑا احسان</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الْعِلْمِ الطَّوِيلِ</p> <p>عظیم جھنڈے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْجَائِلِ</p> <p>بہت بڑا احسان</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p>

اللہ عزوجل
بیت الدامخ
بجیشا الابطیل

باطل شکریوں کی سرکوبی کرنیوالے

ﷺ

اللہ عزوجل
صاحب الکلام
الجیل

مرتبے والا کلام
فرمایا والے

ﷺ

اللہ عزوجل
فی التوراة والانجیل
المکتوب

تورات اور انجیل میں جن کا
تذکرہ کیا گیا

ﷺ

قرۃ عین

موضع

جبرائیل

سیر جبرائیل

اللہ عزوجل

حبیب

اسرافیل

اسرافیل علیہ السلام
کے محبوب

ﷺ

المؤید

میکائیل

میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تائید
کئے گئے

ﷺ

البجیل

وسیع و فراخ

ﷺ

حبیب

میکائیل

میکائیل (علیہ السلام)
کے حبیب

ﷺ

الموضع
للتاویل

تاویل کلام مجید کی وضاحت
کرنیوالے

ﷺ

الدامخ

للابطیل

باطل چیزوں کے نابود کرنیوالے

ﷺ

المنعوت

فی الانجیل

ﷺ

روحہ

المجد الاییل

پائیدار شرافت کا
بلند و بالا درخت

ﷺ

واضح

التجہیل

ہاتھ و پاؤں کی واضح
سفیدی اور نورانیت والے

ﷺ

المبشر

فی الانجیل

انجیل مقدس میں بشارت
دیئے گئے

ﷺ

<p>اللہم صل علی جَمِيعِ الْجَبَلِیْلِ جیل کے جانے</p>	<p>اللہم صل علی هَامَةَ النَّسَبِ اللہم صل علی الْأَصْبِلِ پانڈا نسب کے سردار</p>	<p>اللہم صل علی المؤید اللہم صل علی بِجَبْرِیْلِ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تائید کئے گئے</p>
<p>اللہم صل علی وَأَسِطَةَ نُوحِ الْجَبَلِیْلِ حضرت نوح علیہ السلام کے واسطے</p>	<p>اللہم صل علی الطَّرْفِ اللہم صل علی وَالْوَسْبِ الْكَحِیْلِ سین سرگمیں آنکھ والے</p>	<p>اللہم صل علی الزَّاهِلِ مطمئن دل والے</p>
<p>اللہم صل علی الْبَاسِلِ طاقت ور شیر</p>	<p>اللہم صل علی وَسِیْلَةَ أَدَمَ وَالْحَبِیْلِ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حبیل علیہ السلام کے وسیلہ</p>	<p>اللہم صل علی الْفُئَاعِلِ موتور</p>
<p>اللہم صل علی الْكُوْثَرِ اللہم صل علی الْعَدْبِ السَّلْبِیْلِ شیریں سلبیل کوثر</p>	<p>اللہم صل علی دَعْوَةَ اللہم صل علی إِبْرَاهِیْمَ الْخَبِیْلِ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی مجسم دعا</p>	<p>اللہم صل علی العسائل مال دنیا سے مستغنی</p>
<p>اللہم صل علی أَمِیْنِ الْوَحْیِ وَالْتَنْزِیْلِ وحی و تنزیل کے امین</p>	<p>اللہم صل علی الدَّاعِیِ بِالتَّنْزِیْلِ قرآن کے ساتھ بلا نبی والے</p>	<p>اللہم صل علی وَالْتَنْزِیْلِ وَالْمُؤَيَّدِ</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْكَامِلِ

کامل

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْإِنْسَانِ
الْكَامِلِ

انسان کامل

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
السَّيِّدِ
الْكَامِلِ

کامل واکمل سردار

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْقَسَبِ
الْكَامِلِ

سب کو محیط عطاؤں والے قائم

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبِرِّ
الَّذِي
عَلَاهُ الْبِرُّ الْكَامِلِ

ایسے وسیع میدان ہیں جن پر
احسان کامل غالب ہے

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْوَاصِلِ

بلند مرتبہ

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْعَامِلِ

عمل کرنیوالے

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْخَلِيفَةِ
الْعَادِلِ

خلیفہ عادل

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُجَادِلِ

کفار سے جھگڑنیوالے

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْحَاكِمِ
الْعَادِلِ

مادوں حاکم

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْعَاقِلِ

انصاف کرنیوالے

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبُحْرِ
الَّذِي
لَيْسَ لَهُ سَاحِلٌ

ایسا سمندر جس کا ساحل نہیں

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْفَضْلِ

فاضل

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُحَارِبِ

بہادر سردار

وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرَّاحِلِ

مسافر پیغمبر

وَسَلِّمْ

<p>السَّيِّدِ الْكَامِلِ</p> <p>وہ سردار جو کامل ہیں</p>	<p>الرَّاجِلِ</p> <p>پیدل چلنے والے</p>	<p>بَاذِلٍ</p> <p>صاحبِ قوت چُنے چُنے</p>
<p>أَحْمَدَ الْخِلَالِ</p> <p>۱. خلوت میں بہت تعریف کئے گئے ۲. زمانہِ فترت میں تعریف کئے گئے</p>	<p>مُحَمَّدُ الْخِصَالِ</p> <p>جن کی عادات پسندیدہ ہیں</p>	<p>الَّذِي هُوَ</p> <p>خطبہ وصال کے خطیب</p>
<p>مِنْهُيَ الْأَمَالِ</p> <p>منتہی و غایت آرزوؤں اور رغبتوں کے</p>	<p>أَكْرَمِ مَنْ خُصَّ بِالسُّؤَالِ</p> <p>سوال کے ساتھ خاص کئے ہوؤں سے مکرم</p>	<p>الَّذِي هُوَ</p> <p>الَّذِي هُوَ</p> <p>الَّذِي هُوَ</p>
<p>صَاحِبِ الْجَمَالِ</p> <p>جمال والے</p>	<p>الَّذِي هُوَ</p> <p>الَّذِي هُوَ</p> <p>الَّذِي هُوَ</p>	<p>الَّذِي هُوَ</p> <p>الَّذِي هُوَ</p> <p>الَّذِي هُوَ</p>

<p>تاج فحاسن الجمال جمال کے حاسن خوبیوں والے</p>	<p>مستمر الانقال سلسل منتقل ہونے والے</p>	<p>صاحب القتال جہاد کرنے والے</p>
<p>تاج فحاسن الجمال جمال کی خوبیوں کے تاج میں سجے ہوئے</p>	<p>الاصناف والافعال صفات و افعال کو ملانے کا ذریعہ</p>	<p>ياقوت الجلال تاج فحاسن الجلال جلال کی خوبیوں کے تاج میں بڑے ہوئے یاقوت</p>
<p>العظمة الجامعة بالجمال عظمت جاہد میں جمال کے لئے</p>	<p>التسويج بتاج الكمال کمال کا تاج پہننے والے</p>	<p>المجاهدين بالمال مال سے جہاد کرنے والے</p>
<p>فبؤض الجمال مجسم فیوض جمال کے</p>	<p>الجامع بنعوت الجمال جو جامع ہیں صفا جمال کے</p>	<p>بتاج الكمال جن کو کمال کا تاج پہنایا گیا</p>
<p>صاحب الكمال کمال کے تاج والے</p>	<p>الجامع بنعوت الجلال جو جامع ہیں صفا جلال کے</p>	<p>فيؤض الكمال مجسم فیوض کمال کے</p>

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَرَاكِزِ الْجَمَالِ</p> <p>جمال کے مراکز کا ہار و دائرہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَجْمَعُ الْكَمَالِ</p> <p>کمال کے جامع</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>جَامِعُ الْجَمَالِ</p> <p>جمال کے جامع</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الَّذِي بِهِ كَمَالُ الْكَمَالِ</p> <p>بہت اچھے بندے جن کی بدولت کمال نے کمال پایا</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>نَعْمَ الْعَبْدُ</p> <p>ہاں کوثر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صَفَاءِ الْجَمَالِ</p> <p>جمال کے حسن کے عین کوثر سے برسنے والی بارانِ رحمت</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>سَيِّدِ الْأَبْدَالِ</p> <p>ابدالوں کے سرور</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>عَبَقَةُ الْوُجُودِ</p> <p>کمال کی بلند چوٹی</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>ذُرْوَةُ الْكَمَالِ</p> <p>کمال کی بلند چوٹی</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>رَوْضَةِ الْجَمَالِ</p> <p>جمال کے باغ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>بَاهِي الْجَمَالِ</p> <p>روح وجود اور جمال غالب والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>جَمَالِ الْجَمَالِ</p> <p>جانِ جمال</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>جَلَّةِ الْكَمَالِ</p> <p>خلعتہائے کمال کے ساتھ آرتہ ہونیوالوں میں سے بہتر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>غَايَةِ الْقَصْدِ وَالْأَمَالِ</p> <p>خلائق کے مقاصد و راہیوں کا منتہی</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>خَيْرٌ مِنْ تَحَلِي</p> <p>بہتر</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>سَاهِي الْكَمَالِ</p> <p>بلند کمال والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَبْرَأٍ مِنْ مَسَاوِي خِلَالِ الْكَمَالِ</p> <p>مبراہیں کمال میں بری خصلتوں سے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>قُطْبِ دَائِرَةِ الْكَمَالِ</p> <p>دائرہ کمال کے قطب</p>

ہَالَةٌ
مُرَاكِبُ الْجَلَالِ

جلال کے مراکز کا ہالہ و دائرہ

حَقَائِقُ
الْكَمَالِ

سہ اپحقائق کمال

أَهْلُ الْكَمَالِ
إِمَامٍ

اہل کمال کے امام

النُّورِ
السَّاطِعِ

فِي سَمَاءِ الْجَلَالِ

جلال کے آسمان میں غالب نور

الْمُتَّصِفِ
بِمَحَاسِنِ الْخَمَالِ
الْكَمَالِ

جو متصف ہیں اچھی کامل خصلتوں کے ساتھ

تَاجِ مَحَاسِنِ
الْجَلَالِ

جلال کی خوبیوں کے تاج

مِفْوُضِ الْجَلَالِ

جلال کے مہتمم فیوض

الَّذِي جَلَسَ
عَلَى كُرْسِيِّ الْجَلَالِ

جن کو بٹھایا گیا کرسی جلال پر

غَيْثِ النَّوَالِ

موسلا و ہار بارشس جو درونوال کی

صَاحِبِ النَّوَالِ

صاحب جو درونوال

حِصْنِ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ
الْأَهْوَالِ

بلیات و اہوال سے
مومنوں کے

الصَّادِقِ
فِي بَيَانِ الْهُدَى
وَالضَّلَالِ

پرست گمراہی کے بیان
میں سچے

ظَاهِرِ النَّوَالِ

عظیم سخاوت والے

الْعِظْمَةِ
الْجَامِعَةِ
لِلْجَلَالِ

جلال کیلئے عظمت جامعہ

أَجْزَلِ مَنْ
نَالَ النَّوَالِ

عظیم تران سے جنہوں
نے پایا جوہ و عطا کو

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ المَجْرُوسِ بِالْغَدْوِ وَالْأَمَالِ جن کی نسیج و شام حفاظت کی گئی وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَاسِخِ الدَّوَالِ بیٹریوں کے کھولنے والے وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ تمام احوال میں سچے وَتَشْتَدُّ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ النَّكَاسِ بِالْعِيَالِ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرم فرمایا سب لوگوں سے زیادہ وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَهْلِ النَّوَالِ اہل جود و سخا کے امام وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَطْفَالِ بچوں کے سردار وَتَشْتَدُّ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَهْلِ الْفَضَالِ اہل فضائل کے سردار وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي سَاكَ أَهْلًا لِأَفْضَالِ جو سردار ہیں ارباب سخا کے وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَهْلِ الْمُتَحَصِّنِ فِي الْمَجَالِ حسین جلوہ گاہوں میں صاحب اختتام وَتَشْتَدُّ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُتَحَصِّنِ فِي الْمَجَالِ حسین جلوہ گاہوں میں صاحب اختتام وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ لَيْثِ النَّزَالِ میدانِ مبارزت کے شیر وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَهْلِ الْوَصَالِ بارگاہِ وصال کے امام وَتَشْتَدُّ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُحْفُوظِ بِالْأَقْبَالِ سعادت مندی سے ڈھکے ہوئے وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْكَبَلِ الْخَلَّاقِ الرِّجَالِ کامل ترین خلاق والے وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مُبَارِكِ الْأَلِ بابرکت نسل والے وَتَشْتَدُّ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُحْفُوظِ بِالْأَقْبَالِ سعادت مندی سے ڈھکے ہوئے وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُحْتَصِّنِ فِي الْمَجَالِ حسین جلوہ گاہوں میں صاحب اختتام وَتَشْتَدُّ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُحْفُوظِ بِالْأَقْبَالِ سعادت مندی سے ڈھکے ہوئے وَتَشْتَدُّ</p>

<p>مُسَبِّحٌ الْآنَا مِلُّ</p> <p>انگلیوں کے پوروں سے تسبیح کر نیوالے</p>	<p>صَاحِبِ الْمَسَائِلِ</p> <p>مسائل والے</p>	<p>صَفْوَةٌ الْأَمْثَلِ</p> <p>شان والوں میں چُمنے ہوئے</p>
<p>كَمَلَاتِ التَّنَزُّلَاتِ الْكَامِلِ</p> <p>کامل جنگوں کے حملوں کے ماہتاب</p>	<p>قُرَّانِ الْجَمِّعِ الشَّامِلِ</p> <p>جمع نام کے جمع کر نیوالے</p>	<p>صَفْوَةٌ الْأَمْثَلِ</p> <p>بزرگ ہستیوں میں برگزیدہ</p>
<p>زَكَاةِ الْخَصَائِلِ</p> <p>پاکیزہ خصائل والے</p>	<p>صَاحِبِ الدَّلَائِلِ</p> <p>دلائل والے</p>	<p>صَاحِبِ الْفَضَائِلِ</p> <p>فضائل والے</p>
<p>خَيْرِ الْأَوَائِلِ</p> <p>بہتر اور بزرگ ہیں اوائل سے</p>	<p>مُؤَصِّلِ الْوَأَمِلِ</p> <p>اللہ تک پہنچانے والے اللہ سے لایا ہوا</p>	<p>سَيِّدِ الْقَبَائِلِ</p> <p>قبائل کے سردار</p>
<p>حَسَنِ الشَّامِلِ</p> <p>حسین خصلتوں والے</p>	<p>الرَّسُولِ</p> <p>پیغمبر</p>	<p>الْقَوْلِ</p> <p>ماہر جنگ</p>

مُفَجِّحِ الدَّوَالِ
بیٹریوں کو کھولنے والے

قَالِمِ الرِّذَائِلِ
بری خصلتوں کو مٹانے والے

جَمِيلِ الأَفْعَالِ
خوبصورت افعال والے

الَّذِي هُوَ شَهِيدٌ عَلَى الرُّسُلِ
جو تمام رسولوں پر گواہ ہے

الَّذِي عَقَدَتْ لَهُ البُّيُوتُ فِي الأَزْلِ
وہ جن کے لئے عہد نبوت لیا گیا ازل میں

نَبِيِّ الفَاضِلِ
فضیلت والے نبی

المُّحَبَّبِ عِنْدَ الأَوَّلِ
اللہ کے ہاں محبوب

المُّحَبَّبِ عِنْدَ المَّذَلِ
مذمل کے ہاں محبوب

رَسُولِ الرُّسُلِ
رسولوں کے رسول

عِنْدَ الأَوَّلِ
اللہ کے ہاں محبوب

المُّحَبَّبِ عِنْدَ العَدْلِ
عدل کے ہاں محبوب

رَسُولِ الوَاصِلِ
مہلند مرتبہ رسول

مُشْفِقِ الأَطْفَالِ
بچوں پر شفقت فرمانے والے

نَبِيِّ الجَلِيلِ
بزرگ ترین نبی

نَبِيِّ العَائِلِ
تارک دنیا نبی

رَسُولِ المُّجَادِلِ
جنگ رسول

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَقْوَى الدَّلَائِلِ</p> <p>قوی ترین دلیل</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَعْلَى الوَسَائِلِ</p> <p>مبند ترین وسیلہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>عَلَى الوَسَائِلِ</p> <p>مبند تر وسائل والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَوَّلِ الأَوَائِلِ</p> <p>سب مخلوق سے اول</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَشْرَفِ الوَسَائِلِ</p> <p>تمام وسائل سے بزرگ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَكْمَلِ الوَسَائِلِ</p> <p>کامل ترین وسیلہ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَنْبَعِ الفَضَائِلِ</p> <p>فضائل کا منبع</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مُطَهِّرِ النفوسِ</p> <p>نفوس کو پاک کرنے والے ذریعہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>بِمَكَارِمِ الخِصَائِلِ</p> <p>اعلیٰ خصلتوں کے ساتھ مزین</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>لِجَمِيعِ الفَضَائِلِ</p> <p>تمام فضائل کے محیط</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مِنَ السَّرِّ الأَعْلَى</p> <p>افسوس کو پاک کرنے والے ذریعہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صَبَّ المَخَافِلِ</p> <p>مخائل والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الَّذِي زَيْنَ بِهِ المَخَافِلِ</p> <p>جن کے ذریعے مخائل کو زینت دی گئی</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ</p> <p>اے اللہ! بے شک ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں مصیبت کی سختی سے اور بد بختی کے گھیر لینے سے اور</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>وَسُوءِ القَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ</p> <p>بہی تقدیر سے اور دشمنوں کے (ہم پر) خوش ہونے سے۔</p>		
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>أَمِينِ بِنِجَاهِ النَبِيِّ الكَرِيمِ</p> <p>اے اللہ! قبول فرما نبی کریم ﷺ کی عزت کے طفیل</p>		

اللَّهُمَّ مَا عَلِمْتُ مِنْ سُوءٍ وَمَا أَرَدْتُ لِي مِنْ خَيْرٍ فَلَوْ
 اے اللہ جو معلوم کی میں نے بُرائی اور جو ارادہ کیا تو نے میرے لئے بھلائی کا پس میں اس کا شکر ادا
 اشْكُرُهُ وَمَا قَدَّرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرٍ فَلَوْ أَرْضَهُ وَمَا أَنْجَمْتَ عَلَيَّ
 نہ کر سکا اور جو امر تو نے مجھ پر مقدر فرمایا مگر میں اس پر راضی نہ ہوا اور جو تو نے مجھ پر انعام
 مِنْ نِعْمَةٍ فَعَصَيْتُكَ فِيهِ وَمَا أَوْلَيْتَنِي مِنْ نِعْمَاتِكَ فَخَفَلْتُ
 فرمایا پس میں نے نافرمانی کی اس میں اور جن کا مالک بنایا تو نے نعمتوں کا پس میں غافل ہوا
 عَنْ شُكْرِكَ وَمَا أَوْلَيْتَنِي مِنَ الْآيَاتِ فَلَوْ أَوْدَحْتَهُ وَمَا مَنَنْتَ
 تیرے شکر سے اور جن انعامات کا والی بنایا پس میں نے ان کا حق ادا نہ کیا اور جس نیکی کا تو
 عَلَيَّ مِنَ الْحُسْنَى فَلَوْ أَحْمَدُكَ وَمَا أَجْبَلْتُ بِهِ عَلَيَّ مِنَ النَّظَرِ
 نے احسان فرمایا پس میں نے حمد نہ کی۔ اور جو صلاحیت پیدا فرمائی تو نے تیری ذات پر نظر کی
 فِيكَ فَخَرَضْتُ عَنْهُ وَمَا صَنَعْتُ فِي عَمْرِي بِمَا لَمْ تَرْضَ وَمَا
 پس میں نے آنکھ بند کر لی اس سے اور جو کیا میں نے عمر بھر ایسے کام جس سے تو راضی نہیں تھا
 وَصَرْتُ مِنْ عَمَلِي فِي رَجَائِكَ وَإِنْ اعْتَمَدْتُ عَلَى سِوَاكَ
 اور جو قصور کیا میں عمل میں تیری امیدِ عفو پر اور اگر میں نے بھروسہ کیا غیروں پر شائد میں
 فِي الشَّدَائِدِ وَإِنْ اسْتَعَنْتُ مِنْ غَيْرِكَ فِي النَّوَابِغِ وَمَا
 اور اگر استعانت کی غیروں سے حوادث میں اور جو میرا
 أَصْلَحْتَ فِي شَاكِي بِفَضْلِكَ وَرَأَيْتَهُ مِنْ غَيْرِكَ وَإِنْ
 حال تو نے درست کیا اپنے فضل سے اور میں نے اس کو سمجھا غیر کی طرف سے اور اگر
 نَزَلْتُ قَدَمِي عَنِ الصِّرَاطِ بِالسُّوَالِ مِنْ غَيْرِكَ فَشَبِّتَنِي
 لنگر ش کھائی میرے قدم نے راہِ راست سے غیر سے سوال کی وجہ سے پس ثابت قدمی عطا فرما مجھے (ان تمام امور میں)

أُمِّينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
 (اے اللہ! قبول فرما نبی کریم ﷺ کی عزت کے طفیل)

سردار کوشین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا! اب اللہ ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ کا صبح اور شام کا کھانا محتاج رشتہ
داروں کی طرف لے چلے۔ تیرے لئے ہر اس بہتری میں جو خدا نے تعالیٰ
اپنے دوستوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بہت عمدہ حصہ ہوگا اور آخرت میں

طارمِ اعلیٰ کا عرش جس کفِ پا کا ہے فرش
آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کر دوں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قَلْبُكَ يَا بَدَنُكَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا كَلِمَةَ الْكَلَامِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَقَطْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَقَطْرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِفِينَ وَآلِهِ وَسَائِرِ تَلَمِيذِهِ الْكَثِيرِ الثَّمِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكَلِمَةَ الْأَكْرَبَ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَبِي الْأَرَامِلِ
بہواؤں کے (روحانی) باپ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْقُرْبَاتِ
مَنْ اسْتَوَافَلَ
نفل عبادات والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كَهْفِ الْأَرَامِلِ
بہواؤں کے جائے پناہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عِضْمَةِ الْأَرَامِلِ
ہیوگان کے لئے سامانِ حفاظت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
قُدْرَةِ الْأَفَاضِلِ
بزرگ ہستیوں کے مقدر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
حُلُولِ الْحَلَاجِلِ
سراپا نزل ہیں واسطے اترنے
کے قابل مقامات کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
بَيْنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ
حق و باطل میں فرق کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
ذِي الْفَوَاضِلِ
فضائل والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيْفِ اللَّهِ الْمَسْلُوقِ
اللہ کی کھلی تلوار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبُهِادِرِ شِيرِ
بہادر شیر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسْئُولِ
سوال کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْوُصُولِ
ٹوٹے ہوئے رشتے جو طرز والے

مُسَمِّي بِالرَّسُولِ
رسول کے اسم و لقب والے

مُسْجِدِ مِحْرَابِ الْوُصُولِ
وصول کی محراب کی مسجد

جِبَاهِ الْعُقُولِ
عقلوں کی پیشانی

جَوْهَرِ الْعُقُولِ
عقول کے جوہر

عَنِ الْإِتْحَادِ الْحُلُولِ
کسی کے ساتھ اتحاد و حلول سے منزه

سَيْفِ الْحَقِّ الْمُسْوَلِ
الہ کی سونتی ہوئی تلوار

أَكْرَمِ الْخَلْقِ عَلَى الشُّهُولِ
مخلوق سے مجموعی اور کلی طور پر افضل

أَبِي الْعَدَاءِ الْبَسْتُولِ
پاک دامن حضرت بول رضی اللہ عنہما کے والد گرامی

ضِيَاءِ الْعُقُولِ
عقلوں کی روشنی

مُبَارَكِ الْنُزُولِ
مبارک اترنے والے

مُطْمَئِنِّ الْقُلُوبِ الْمُحَقَّقِ
معتقول دلوں کو مطمئن کرنے والے

عَقْلِ الْعُقُولِ
تمام عقلوں کے لئے عقل

مُرْشِدِ الْحَقُولِ
عقول کے راہنما

سَيِّدِ الْكُهُولِ
ادھیڑ عمر والوں کے سردار

أَمَامِ كُلِّ رَسُولٍ
ہر رسول کے سردار

أَمِّ الْأَصُولِ
تمام اصول و ارکان کی اصل

الْفَيْضِ عَلَى كُلِّ رَسُولٍ
ہر رسول پر فیض کی بارش کرنیوالے

الشَّاهِدِ عَلَى كُلِّ رَسُولٍ
ہر رسول کے گواہ

أَبْحَجِ سَائِلِ
بہت حسین سوال کرنیوالے

ذِي مَنْطِقِ عَدْلٍ
انصاف کی بولی بولنے والے

أَجْمَلِ مِنْ تَجْمَلِ
حسینوں میں سب سے حسین

الصَّادِقِ فِي كُلِّ مَقَالٍ
ہر قول میں سچے

ذِي الطَّوْلِ
سخاوت والے

أَطْوَلَ مِنْ تَطْوَلِ
مہلند قامت

صَحَابِ الْفَوَلِ
مؤثر قول والے

النَّزْوَلِ
زیرک مرد

مَكِّيَاتِ الْقَوْلِ
بات کے سچے

طَوِيلِ الطَّوْلِ
وسیع قوت و استطاعت والے

كَلَامِ الشَّدِيدِ وَهَوْلِ
ہر شدت و غم میں سامانِ تسکین

مَصِحِّحِ الْقَوْلِ
درست قول والے

حَامِلِ الْكَلِّ
کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے

مَكْرِ الْفِعْلِ الْقَوْلِ
نیک عمل اور قول والے

رَسُولِ اللَّهِ الْأَكْمَلِ
اللہ کے کامل ترین رسول

الْمُهَادِي لِمَنْ مَسَّ
گمراہوں کے رہنما

حَبِيبِ اللَّهِ الْأَجْمَلِ
اللہ کے خوب صورت دوست

خَيْرِ اللَّهِ الْأَفْضَلِ
اللہ کے صاحبِ فضیلت دوست

السِّرُّ الْأَنْزَرُ الْأَكْمَلُ
مکمل اور پاکیزہ راز

الْأَمَلُ
(گنہگاروں کی) امید

الْخَوْتُكِلُ
خوش طبع مرد

السُّرْعَلُ
شمشیر برآں

الْمَسْأَمَلُ
جس سے امید رکھی جائے

الْمُنْفَعِلُ
متاثر

أَطْلَمُوا عَلَيْهَ اللَّيْلُ
اُن تمام لوگوں سے منز جن پر رات نے سایہ کیا

الْمَهَادِي ضَلَالِ اللَّيْلِ
ہدایت دینے والے نور سیاہ رات میں بھٹکنے پر

قَوَّامِ اللَّيْلِ
راتوں کو قیام کرنے والے

الَّذِي عَطَى حَبِيبًا
جن کو دانیال علیہ السلام کی محبت عطا کی گئی

الْبُدَالُ
بہت فیاضی کرنے والے

الْمُبْدَالُ
بہت سخاوت کرنے والے

الَّذِي عَشِيَ لِي
الْقِتَالِ
جنگجو بہادر

الَّذِي عَشِيَ لِي
الْخِيَالِ
شہسوار

الَّذِي عَشِيَ لِي
الْمِفْضَالِ
بہت بڑے سخی

الَّذِي عَشِيَ لِي
التَّيْمَالِ
جائے پناہ

الَّذِي عَشِيَ لِي
الَّذِي عَطَى لِسَانِ إِسْمَاعِيلَ
جن کو اسمعیل علیہ السلام کی زبان میں فصیح عطا کی گئی

الَّذِي عَشِيَ لِي
صَفْوَةَ بَنِي إِسْمَاعِيلَ
اولاد اسماعیل علیہ السلام سے چنے ہوئے

الَّذِي عَشِيَ لِي
الَّذِي فَضَّلَهُ شَامِلٌ
جن کی ہر باتیں سب کو شامل ہیں

الَّذِي عَشِيَ لِي
الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ
وہ ذات جن کی کوئی مثال نہیں

الَّذِي عَشِيَ لِي
فَذَلِكَ دَفْئِرِ الْأَوَّلِ
دفتر اول کے خلاصہ

الَّذِي عَشِيَ لِي
الَّذِي حُسْنُهُ كَامِلٌ
جن کا حسن کامل ہے

الَّذِي عَشِيَ لِي
صَاحِبِ الْقَوْلِ الْمَفْصَلِ
مفصل قول والے

الَّذِي عَشِيَ لِي
فَاضِلِ الْمَفْضَلِ
فضیلت یافتہ کو فضیلت دینے والے

صَاحِبِ التُّوَكُّبِ الْأَحْفَلِ
پُرْ اَجْمُومِ جَلُوسِ وَاوَلِ

خَصِيْبِ الرَّحَلِ
كُشَادَةِ كِبَادَةِ وَاوَلِ

صَاحِبِ الْعَدْلِ
اِنصَافِ وَاوَلِ

جَامِعِ الْفَضْلِ
فَضَائِلِ كَيْكِرِ

حَافِظِ سِرِّ الْاَزَلِ
رَازِ اَزَلِ كَيْ اِيْمِيْنِ

صَاحِبِ الْجَمَلِ
اَوْنَتِ وَاوَلِ

سَيِّدِ اَهْلِ الْفَضْلِ
اَهْلِ فَضِيْلَتِ كَيْ سِرْدَارِ

سَيِّدِ الْاَزَلِ
اَزَلِ كَيْ سِرْدَارِ

رَافِعِ لِيُوَاوِ الْعَدْلِ
عَلْمِ عَدْلِ كُو اِطْحَايُوَاوِ

لِاَنْوَاْعِ الْفَضْلِ
هَرَقَمِ كَيْ فَضْلِ وَاكْمَالِ كُو جَمْعِ كَرِيُوَاوِ

نَاصِرِ الْمَلِكِ
مَلْتُوِي كَيْ مَعَاوِنِ

طِرَازِ الْكُلِّ
خَلْعَتِ هَاتِي مَجْبُوِي كَيْ نَفْسِ نِكَاَرِ

كَأَيِّ النَّوْكَلِ

ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کر نیوالے

مَسِيْدِ السُّرْمِ

سب رسولوں کے مددگار

رَقْمِ الطَّرِيزِ الْأَوَّلِ

نشان ہیں نقش و نگارِ اول کا

مُقَدَّمَةِ الْوُجُودِ الْأَوَّلِ

وجودِ اولین کا مقدمہ

الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْأَحَدِ الْأَوَّلِ

احدِ اول کے ہاں محبوب

زُمْرَةَ الْأَوَّلِ

ازل کے زُمرہ

نَاسِخِ الْمِلَلِ

بلندی اور شراعت سابقہ کو نسخ فرمایوالے

الْمُخْصُوصِ بِخَدْمِ الرَّسُولِ

جو ختمِ رسالت کے ساتھ خاص کئے گئے

إِمَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ

اہلِ عدل کے امام

الْمُخْصُوصِ بِالْقُرْبِ الْأَزَلِ

جو مختص کئے گئے قربِ منزلت کے ساتھ ازل سے

زُجَّاجَةِ لَيْلِ الْأَزَلِ

شبِ ازل کے شیشہ میں محفوظ چراغ

شَكَافِي الْعِلَلِ

بیماروں کو شفا دینے والے

ہدای السبیل
سبیل خیر کے ہادی

ہد السرار الازل
ازل اسرار کا مشاہدہ کرنیوالے

مشاہد انوار سوابق الاول
سوابق اول کے انوار کے مشاہدہ کرنیوالے

ترجمان الازل
ابد کے ترجمان

فاتح اسرار الازل
اسرار ازل کو کھولنے والے

بِسْمِ الرَّحْمَةِ فِي الْاَزْلِ
رحمت ازل کا بچھونا

سِرِّ الْاَزْلِ
سِرِّ ازل

رَاكِبِ الْجَمَلِ
اونٹ کے سوار

كَأَيِّ الْعَمَلِ
ہمیشہ عمل کرنیوالے

مُدِّمِ الْعَمَلِ
عمل پر مداومت کرنیوالے

صَاحِبِ الدُّلِّ
دُلُّل کے سوار

الرُّوحِ لِجَبْوَةِ الْاَفْضَلِ
افضل حیات کی رُوح

صَاحِبِ الْعِلْمِ
بِالْأَعْمَالِ الْآفِضِلِ
اعمال اور افضل علم کے مالک

رَاكِبِ الدُّدُلِ
دُدُلِ كِے سَوَارِ
دُدُل کے سوار

صَاحِبِ مَوَدِّعِ
الْعَقْلِ الْاَوَّلِ الْاَكْمَلِ
عقل اول و اکمل کے مالک

مَجْمُوعِ النَّوَالِ الْاَكْمَلِ
محل اجتماع عطار اکمل کا

النَّاظِرِ بَعْدَ الدَّاتِ
دیکھنے والے عین ذات کو جو مثل و مثال پاک ہے

مُبَارَكِ الْمَنْزِلِ
بابرکت منزل والے

مُزَيَّلِ الْمُحَلِّ
قسط عالی کو زائل کرنے والے

زَيْنِ الْعَقْلِ
عقل کی زینت

نَبِيِّ الْعَدْلِ
انصاف کرنے والے نبی

خَصِيْبِ الرَّحْلِ
خوشحال قیام گاہ والے

خَيْرِ اَهْلِ الْعَقْلِ
بہتر ہیں اہل عقل سے

وَلِيِّ الْفَضْلِ
صاحب فضل

عِنْدَ الْوَاحِدِ الْأَجَلِ
المُعَشَوِقِ
واحد اجل کے نزدیک محبوب

أَسْتَاذِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ
الْمُعْتَبَرِ
کل کے استاد کل عالم میں

مَعِيبَةُ الْكُلِّ
المُعْتَبَرِ
مکمل نعمت

خَيْرُ أَسْتَاذِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ
المُعْتَبَرِ
بہترین اساتذہ میں سے سب بہترین استاد

كُلُّ الْكُلِّ
المُعْتَبَرِ
کل کا کل

بَلَا بَعَضِ وَلَا كُلِّ
المُعْتَبَرِ
ہر کل کا کل اور حقیقت ہیں بغیر کسی تقسیم و تمییز کے

مَرْجِعِ الْكُلِّ
المُعْتَبَرِ
ہر ایک کا مرجع

مُبْدِئِ الْكُلِّ
المُعْتَبَرِ
ہر ایک کے مبداء

النَّاطِقِ بِالْكُلِّ فِي الْكُلِّ
المُعْتَبَرِ
مشاہدہ فرمایاں والے کل کے ساتھ کل میں

سَبْدِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ
المُعْتَبَرِ
سب کے سردار سب نے مانوں میں

مُذْهِبِ الْغُلِّ
المُعْتَبَرِ
طوق غلامی کو اتارنے والے

مُذْهِبِ الذُّلِّ
المُعْتَبَرِ
بے بسی و بیکسی کو دور کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُفَضِّلِ
 بزرگی دینے کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْوَاهِبِ الْمُتَفَضِّلِ
 عطیہ دینے والے اور فضل فرمایا والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُسَدِّدِ
 دائم العمل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
صَاحِبِ الْمُنْظَرِ لِأَجْمَلِ
 خوب صورت منظر والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْغَنَائِمِ
 غنیمت تقسیم کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُسَاوِمِ
 قیمت ادا کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
السَّالِمِ
 عیب سے پاک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْعَالِمِ
 علم والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْكَاظِمِ
 غصہ پینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْحَاكِمِ
 درست فیصلہ کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
اللَّائِمِ
 اللہ کی بندگی کو لازم کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْقَسَّامِ
 تقسیم کرنے والے

حَبِيبُ الْكُلِّ

سب کے محبوب

قَاتِلِ الْكُفَّارِ الْعَتَلِ

مغرور و متکبر کفار کو قتل کر نیوالے

الرَّئِيسِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ

وہ رئیس جو ہر جگہ اور ہر زمانہ میں رئیس ہیں

الْمُرْسَلِ

ٹھہر ٹھہر کر کلام کر نیوالے

الْمُرْتَلِّ

ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے والے

الْمُرْمِلِ

کالی کالی والے

الْمُبْتَلِ

مُباہلہ کر نیوالے

الْمُتَّبِلِ

الشّدک کی طرف رجوع کر نیوالے

الْمُهَلِّ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے والے

الْمُنْفِلِ

انعام دینے والے

الْمُتَّكِلِ

احسان فرما نیوالے

الْمُبْتَلِ

خسٹن کے منقطع

عَبْدُ الْمُحَبَّبِ عِنْدَ الْعَظِيمِ
عظیم کے ہاں محبوب

عَبْدُ الْعَلِيمِ عِنْدَ الْعَظِيمِ
عظیم کے ہاں محبوب

عَبْدُ الْحَكِيمِ
حکیم کے بندے

عَبْدُ الرَّحِيمِ عِنْدَ الرَّحِيمِ
رحیم کے ہاں محبوب

سِرِّ السَّادَةِ الْقَدِيمِ
السَّادَةِ کے رازِ قدیم

عَبْدُ الْحَكِيمِ
حکیم کے بندے

عَبْدُ الْعَلِيمِ
عظیم کے بندے

عَبْدُ الْعَظِيمِ
عظیم کے بندے

عَبْدُ الْكَرِيمِ
کریم کے بندے

طَبَقَاتِ الْجَحِيمِ مِنَ
جہنم اور اس کے طبقاتِ بجانے والے

عَبْدُ الْمُحَبَّبِ عِنْدَ الْكَرِيمِ
کریم کے ہاں محبوب

النُّورِ الْقَدِيمِ
نورِ قدیم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْحَائِرِ
آخری نبی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الرَّاحِمِ
رحم فرمانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْحَائِرِ
تمام انبیاء سے حسین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْحَائِرِ
نبیوں کی مہر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الرَّاحِمِ
سنگسار گریو والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
شَمْسِ أَيْمَةِ الْأَنَامِ
مخلوقات کے آئمہ کے سورج

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْهِدَى تَبَّتْ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِي
الہی توبہ کنی میں نے تمام گناہوں سے

بَاخًا لِمَنْ رَجَاءُ لِلدُّمُ لَاصِي
ساتھ خلوص کے امیدوار واسطے رہائی کے

أَغْنِي وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ
زیاد سن میری لئے فریاد رس داد خواہوں کے

بِفَضْلِكَ يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي
اپنے فضل سے جس دن کہ پکڑے جائیں گے لوگ پیشانی سے

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
اے اللہ قبول فرما اپنے پیارے نبی ﷺ جو کہ بہت کریم ہیں

ایسویں منزل

سرور کونین ﷺ نے فرمایا اے علیؑ است آدمی کی تین نشانیاں ہیں سستی
کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کتھاوی کرتا ہے اور کتھاوی کرتا ہے یہاں تک کہ ضائع کرتا
ہے اور ضائع کرتا ہے یہاں تک کہ گناہ کرتا ہے اور مائل کہ مناسب نہیں
کہ کسی طرف متوجہ ہو مگر تین کاموں سے بپا تو اپنے معاش کی اصلاح میں یا
ایسی لذت میں جو حرام نہ ہو یا ایسا قدم جو عاریا آخرت کے لئے ہو۔

کہنے کو ہیں عام و خاص ایک تم ہی ہو خلاص

بند سے کر دو رہا تم چہ کر دوں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا أَلْبَدَّ الْأَلْبَدِ وَالْأَكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِفِينَ وَالْأَهْلِ وَسَائِرِ تَشْبِيهِ الْأَشْيَاءِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْرَمِ الْأَكْرَمِ الْمَكْرَمِ الْمَقْرَبِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسْتَمِيمِ
پورا فرمانے والے
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُعَمِّمِ
عام فرمانے والے
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الزَّاجِمِ
آہت بولنے والے
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُدَاعِمِ
جائے پناہ
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَطْمِ
مضبوط قلندہ
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبُرَاشِمِ
تیز نظر والے
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
وَالْبَحْرِ
الْخَضِرِ
بہت بڑے سمندر
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
وَالْأَجْسِمِ
حسین موت والے
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْجَيْلِ
چودھویں رات کا چاند
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
وَالْفَتَاكِدِ
الْأَعْظَمِ
عظیم قائد
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
وَالْبَحْرِ الْخَضِمِ
بحر بیکراں
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسَيِّمِ
مقصود
وَاللَّهُ سَعِيدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
هُوَ الْمَعْظُومُ
الْمَعْظُومُ
 وہ عظیم جو صاحبِ عظمت ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْغُطَّاطِمِ
 بحرِ زخار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْحُبْلِ
الْمُعْتَصِمِ
 اللہ تک سنبھانوالی (مضبوطی)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُعْتَصِمِ
 دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبُحْرِ
الْخَاطِمِ
 عظیم سمندر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
هُوَ الْمَلَكُومِ
الْمَلَكُومِ
 وہ کریم جو صاحبِ تکریم ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسَامِ
 بہت مسکانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُؤَمَّهِ
 جن کی پیروی کی جائے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبُحْرِ
الْغُطَّاطِمِ
 ٹھاٹھیں مارنے والا سمندر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
حَيْبِ اللَّهِ
الْأَكْرَمِ
 اللہ کے حیبِ اکرم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
السَّلَامِ
 سلامتی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُطْحُوْبِهِ
الظَّلَامِ
 جن کے طفیل تاریکیوں کو مٹایا گیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْحَبِيبِ الْغَيْثِ الْغَيْثِ
موسلا د بار بارانِ رحمت
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ الْافْخَرِ
عظیم مرتبت نبی
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْقَلْبِ الْافْخَرِ
عظیم المرتبت دل والے
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نَبِيِّ الْمَلَأِجِمِ
جنگ جو نبی
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
فَرْدِ الْمَكَارِمِ
اخلاق و صفات میں یکتا
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
خَيْرِ عَاصِمِينَ
ہر صاحبِ عمت بہتر
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَسْسِ جِدَارِ عَوَالِمِ
سب جہانوں کی دیوار کیلئے اساس و بنیاد
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نُكْتَةِ
أَكْوَانِ الْعَوَالِمِ
موجوداتِ عوالم کے مرکزی نکتہ
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي كَفَّ اللَّهُ
بِهِ يَدَ الظَّالِمِ
جنگِ ضد اللہ نے ظالموں کا ہاتھ روک دیا
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ نُورٍ
جَمَلَةِ الْعَالَمِ
تمام عالم کے انور کا سرچشمہ
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَوْبِخِ الْعَالَمِ
جہان والوں کی سرزنش کرنیوالے
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رُوحِ الْعَوَالِمِ
تمام جہانوں کی رُوح
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
ظِلِّ اللَّهِ
فِي الْعَالَمِ
جہان میں اللہ کا سایہ رحمت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَسْكَانِ
عَيْنِ الْعَالَمِ
چشمِ عالم کی پستلی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كُلِّ عَالَمٍ
ہر عالم میں سب زیادہ حامد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي جَسَمَهُ
أَصْفَى الْجَسَامِ
جن کا جسم تمام جسموں سے پاکیزہ ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْآخِرِ فِي الْخَنَامِ
ظہور میں آخر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْخَانَةِ
بہر نبوت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
بِأَذْلِ الْإِنْعَامِ
نعمتوں کو کھلا تقسیم کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَرَفَانَ الْأَنَامِ
مخلوق کے لئے اللہ کی پہچان کا ذریعہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نِعْمَةِ الْأِمَامِ
بہترین امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبُحَى
لِظُلَامِ الْأَوْهَامِ
اودھام (دشکوہ) کی تاریکیوں کو مٹانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
شِفَاءِ الْأَسْقَامِ
تمام بیماریوں کی شفاء

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
جَامِعِ
سَوَائِغِ الْإِنْعَامِ
کامل انعامات کے جامع

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
حَمِي الْأُسْرَةِ
اسلام کا سایہ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
مُدَيْنَةِ الْعِظَامِ
عظمتوں والے شہر کے مالک

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
لَوَاءِ الْأَسْقَامِ
بیماریوں کی دوا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
مُظَلَّلٍ
بِالْغَمِّ الْأَمَامِ
سرخن پر بادلوں کا سایہ کیا گیا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
مَكْحُومٍ
وَالْأَسْلَامِ
اللہ کی صحیح اطاعت کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
دَارِ السَّلَامِ
جنت کے مالک

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
مُذْهِبِ الْأَثَامِ
گناہوں کو دور کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
جَالِي الظُّلَمِ
تاریکیوں کو دور کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
مُذْهِبِ الْأَلَامِ
رنج و آلم کو دور کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
كَهْفِ الْآيَاتِمِ
تیموں کے لئے جگہ پناہ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
مُظْهِرِ التَّامِ
منظر کامل

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَلِّ عَلَى
صَادِقِ الْأَقْدَامِ
سچے قدموں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبِوَالِفِ سَلْرٍ
 حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے والد محترم
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرَّحِيقِ الْمُحْتَمِ
 رکتوری کی دہری ہوئی محبت کی تھری
 ہوئی شراب ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُسْكَةِ الْخِيَامِ
 مہر کی کتوری
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْقَائِمِ
 قیام کر نیوالے
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَا حَى الْغَرَابِ
 تاوانوں کے مٹانے والے
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَفَا الْجَرِيءِ
 جہلم کے بخشنے والے
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُعْطِي
الْغَنَائِمِ
 غنیمتیں عطا کر نیوالے
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُكِينِ الدَّعَائِمِ
 مضبوط ستونوں والے
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اللَّائِمِ
 رگنا ہوں پر لوگوں کو ملامت کر نیوالے
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
حَيْبِ اللَّهِ
الْأَعْظَمِ
 اللہ کے حبیب اعظم
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُبْتَدَأِ
الْأَمْرِ وَالْخِتَامِ
 امر تخلیق کا محل ابتداء اور خاتمہ
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَحِيمِ
بِالْبَهَائِمِ
 چوپاؤں کے ساتھ پیار کر نیوالے
 ﷺ

صَاحِبِ
المَشْعَرِ الحَرَامِ
مشعر حرام ولے

صَاحِبِ
الأَشْهُرِ الحَرَامِ
حرمت ولے مہینوں مالک

مُصَدِّرِ
الإِحْسَانِ وَالْإِكْرَامِ
احسان واکرام ولے

جَسَدِ الأَجْسَامِ
تمام اجسام کی جسمیت کا باعث

البَسَامِ
بہت مکرانے ولے

الْوَسَائِلِ لِبَيَانِ
الحَلَالِ وَالْحَرَامِ
حلال و حرام کے بیان کے وسائل

رَيْسِ أُمَّةٍ
دَارِ السَّلَامِ
اہل دار السلام کے سردار

شِفَاءِ الأَجْسَامِ
جسموں کی شفا

الضَّرَبِ بِالسَّيْفِ
تلواریں چلانے ولے

أَقْوَمِ مَنْ
تَرَكَحَ فِي المَقَامِ
سب سے زیادہ صاف استقامت جس نے مقام
ابراہیم علیہ السلام میں رکوع کیا

حَامِي المَقَامِ
مقام مقدس کی حفاظت کرنے والے

مُحَمِّدِ المَقَامِ
صفات حمید کے مقام ولے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
فَوَائِحِ الْأَنْعَامِ
انعامات کے آغاز

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْخَاصِّ وَالْعَامِ
خاص و عام کی شفاعت کر نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْبُرِّ الدَّارِمِ
دائمی شفاء مجسم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
قَمَرِ التَّمَامِ
ماہِ تَمَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُهَمَّمِ
فضیلت والے سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
لَيْلَةِ التَّمَامِ
نہیمیں و تیمم والی آخری اینٹ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَبِيدِ النَّهْرِ
فِي الْأَكْمَامِ
غلافوں میں پستے ہو چھول کی خوشبو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْأَمَامِ
پیشوا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمِنَّةِ الْعُظْمَى
عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ
عظیم احسان، اہل اسلام پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رُكْنِ الْإِسْلَامِ
مدارِ اسلام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَسُولِ الْمَلِكِ الْعَلَامِ
شہنشاہِ عالم کے رسولِ برحق

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
بَادِيِ السَّلَامِ
سلام میں پہل کر نیوالے

اللہم صل علی
أَهْلِ دَارِ السَّلَامِ
 اہل دارِ اسلام کے امام
 ﷺ

اللہم صل علی
حُلُوِّ الْكَلَامِ
 شیریں کلام والے
 ﷺ

اللہم صل علی
وَإِسْطَاطَةِ
عِقْدِ النَّظَامِ
 جواہر نبوت کی لڑھی کا درمیانی بڑا جوہر
 ﷺ

اللہم صل علی
تَحْفَةِ الْأَصْفِيَاءِ
الْأَعْلَامِ
 برگزیدہ نامور شخصیات کیلئے سراپا تحفہ
 ﷺ

اللہم صل علی
أُمَّةِ الْأَعْلَامِ
 آئمہ اعلام کے امام
 ﷺ

اللہم صل علی
أَهْلِ الْإِسْلَامِ
 اہل اسلام کے امام
 ﷺ

اللہم صل علی
مِصْبَاحِ
الظُّلَامِ
 تاریکیوں میں روشن چراغ
 ﷺ

اللہم صل علی
مُعَلِّمِ
الْإِسْلَامِ
 اسلام کے معلم
 ﷺ

اللہم صل علی
غُرَّةِ الْإِسْلَامِ
 اسلام کی روشنی و زینت
 ﷺ

اللہم صل علی
الْغُفْلَامِ
 نوجوان
 ﷺ

اللہم صل علی
عَبْدِ السَّلَامِ
 سلامتی دینے والے کے بندے
 ﷺ

اللہم صل علی
سِرَاجِ الْإِسْلَامِ
 اسلام کے چراغ
 ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حِصْنِ الْإِسْلَامِ
 اسلام کا قلعہ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُصْطَفَىٰ
عَلَىٰ كُلِّ الْأَنْبِيَاءِ
 سب مخلوق سے چنے ہوئے
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَيْفِ الْإِسْلَامِ
 اسلام کی تلوار
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَاحِبِ السَّلَامِ
 سلامتی کے موجب
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَاحِبِ
مَدِينَةِ السَّلَامِ
 سلامتی والے شہر کے مالک
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَاحِبِ
خَيْرِ الْكَلَامِ
 بہترین کلام والے
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَجَلٍ مِّنْ دَخَلٍ
مِّنْ بَابِ السَّلَامِ
 بزرگ نزا ان جوہر میں باب السلام سے داخل ہوئے
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَرُوسِ
دَارِ السَّلَامِ
 دار السلام (جنت) کے دوہلیا
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُفْشِي السَّلَامِ
 اسلام کو عام کر نیوالے
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِمَامِ
أُمَّةِ الْأَنْبِيَاءِ
 مخلوقات کے آئمہ کے امام
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُبَشِّرِ بِلِقَاءِ
الْمَلَائِكَةِ الْعَلَمِ
 عظیم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بشارت دینے والے
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمَوْصِلِ
لِدَارِ السَّلَامِ
 سلامتی کے مکان (جنت) تک پہنچانے والے
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

الرَّحْمَةُ
الْحَكِيمِ
الْأَنَامِ
مخلوق کے لئے بلند مرتبت رحمت

ذَخِيرَةُ
الْأَنَامِ
انعامت خداوندی کا ذخیرہ

مَكْسِرِ
الْأَمْنَامِ
بُتوں کو توڑنے والے

كَافَّةِ
الْأَنَامِ
تمام مخلوق کے سردار

الْأَبْنَامِ
ساری مخلوق کے سردار

خَيْرِ
الْأَنَامِ
جہان سے بہتر

ذَيْنِ
الْأَنَامِ
عبادت گزار بندوں کی زینت

بَدْرِ
الْأَنَامِ
مخلوق کی ہدایت کا چومڑیں کا چاند

مَلَاذِ
الْأَنَامِ
مخلوق کی پس گاہ

أَرْطَى
الْأَنَامِ
بہت بہتر تیر انداز تمام تیر اندازوں سے

مَحْرُوسِ
الْأَنَامِ
جتنی حفاظت کی گئی بیداری اور نیند کی حالت میں

زِعْمِ
الْأَنَامِ
بہترین مفاہم

ذِي الْخَلْفِ الْوَسِيمِ
خوب صورت تخیلق والے

صَاحِبِ الْقِيَامِ
قیام کرنیوالے

صَاحِبِ الصِّيَامِ
روزہ رکھنے والے

بِالنَّعْمِ ظِيمِ
تعمیم کے ساتھ ممتاز

مِنْ لَجِّ جَبْوِ
سخت گرم آگ سے بچانیوالے

صَاحِبِ الْقَلْبِ الرَّحِيمِ
رحیم دل والے

نُورِ النَّسِيمِ
نعمتوں کے مجسم نور

الْحَشِيمِ
کامل حیا دار

ذِي الْخَلْفِ الْبَسِيمِ
روشن اخلاق والے

النَّكَاطِقِ
اللہ کا کلام قدیم بولنے والے

بِأَمْرِ اللَّهِ الْفَخِيمِ
اللہ کے امر عظیم کا حکم دینے والے

مَنْهَكِلِ
سرچشمہ جود و سخا

رَحِيمٌ
بِالْبَهَائِمِ
جانوروں پر رحیم

وَدُودٌ
عِنْدَ الْمُتَّقِينَ
منتقم کے ہاں محبوب

عَيْنِ النَّجْمِ
نعمتوں کا سرچشمہ

وَالْبَشَرِ رِكْلٌ
مَحَبَّتِ لَهَا
ہر جہت زدہ محب کیلئے خوشخبری

سَيِّدِ الْعَمَاءِ
دستبار والوں کے سردار

سَيِّدِ النَّوَابِ
اہلِ نبو کے سردار

عَبْدِ الْمُقَدِّمِ
مقدم کے بندے

وَدُودٌ
عِنْدَ الْمُقَدِّمِ
مقدم کے ہاں محبوب

أَحْمَدُ كُلِّ عَالَمٍ
ہر عالم میں سب سے زیادہ حامد

نُورِ الْفِطْرِ
نورِ فطر

مَنْبَعُ
يُنَائِجِ الْحِلْمِ
حلم کے چشموں کا منبع

حَيْبِ الْأَكْرَمِ
مکرم حیب

عَبْدُ الْمُنْتَقِمِ
منتقم کے بندے

عِنْدَ الْمَحْبُوبِ
حکم اللہ کے ہاں محبوب

عَبْدُ الْحَكَمِ
حکم کے بندے

الشَّاهِرِ
نافذ حکم

مَزِيلِ الْغُومِ
غموں کو زائل کرنے والے

نُورِ بَهْ جَبَّةِ
اسرارِ عالم کی رونق کا نور

عَبْدِ الْيَوْمِ
قیوم کے بندے

عِنْدَ الْقَيُّومِ
قیوم کے ہاں محبوب

مُفْرِجِ الْغُومِ
غموں کو دور کرنے والے

مَلِكِ كُلِّ مَقَامٍ
بہت پارہ جگہ کے ہر مقام میں تخلیق
آدم سے پہلے

الْغَاطِي
واسع الاطلاق - حلیم

نِعْمِ الْقَاسِمِ
بہترین تقسیم کرنے والے

ہرگز نہ کہیں کہ میں نے تم کو کبھی دیکھا ہے
مگر تم نے مجھ کو کبھی دیکھا ہے

میں نے تم کو کبھی دیکھا ہے
مگر تم نے مجھ کو کبھی دیکھا ہے
میں نے تم کو کبھی دیکھا ہے

میں نے تم کو کبھی دیکھا ہے

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْقَدْرِ الشَّامِمِ</p> <p>عظیم شان والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّحِيمِ الْمَحْبُوبِ عِنْدَ الرَّحِيمِ</p> <p>رحیم کے نزدیک محبوب</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَظِيمِ شَانِ وَالِي</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ رَأْسِ وَالِي</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى يَدِ النُّعْمَانِ</p> <p>نعمان کی برکت</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْيَسِيمِ</p> <p>نیم</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُهَادِيِ الدِّينِ الْقَوِيِّ</p> <p>ہدایت دینے والے دین پائیدار کی طرف</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النُّعْمَانِ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِ الرَّحِيمِ</p> <p>مہربان کے بندے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْفَضْلِ وَالثَّقْدِيرِ</p> <p>فضل و قیادت میں اول</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَظِيمِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ</p> <p>قرآن عظیم والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ذِي قَلْبِ سَلِيمٍ</p> <p>صاف دل والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ</p> <p>بڑے عمدہ اخلاق والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ذِي الْبُرْهَانِ الْعَظِيمِ</p> <p>واضح دلیل والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِ الْكَرِيمِ</p> <p>کریم کے بندے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبَاءِ الْعَظِيمِ</p> <p>بڑی عظیم خبر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبَاءِ الْعَظِيمِ</p>

<p>صَاحِبِ الْحَاطِبِ</p> <p>حطیم والے</p>	<p>بَدْرُ الْمَسَلِ التَّسْلِيمِ</p> <p>اہل تسلیم کے ماہِ تمام</p>
<p>صَاحِبِ الْخُلُقِ الْكِرِيءِ</p> <p>کریم اخلاق والے</p>	<p>كَثِيرِ التَّسْلِيمِ</p> <p>زیادہ سلام کرنے والے</p>
<p>صَاحِبِ الْوَرْدِ الْمُسْتَنِيمِ</p> <p>مانوس گھاٹ (حوض کوثر) کے مالک</p>	<p>ذُو الْخُلُقِ الْعَظِيمِ</p> <p>عظیم خلق والے</p>
<p>رَوْضَةِ التَّعْيِمْ</p> <p>نعمتوں کے سرسبز باغ</p>	<p>صَاحِبِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ</p> <p>جنتِ نعیم والے</p>
<p>يَبْوَعِ التَّعْيِمْ</p> <p>سب نعمتوں کا سرچشمہ</p>	<p>الْمِشْبَهِ بِابْرَاهِيمَ</p> <p>حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم شکل</p>
<p>خَيْرِ الْمَسَلِ الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ</p> <p>بہتر و برتر میں اہل رضائے و تسلیم سے</p>	<p>دَعْوَةِ اِبْرَاهِيمَ</p> <p>حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا</p>
<p>نُورِ الْجَنَاتِ وَالنَّعِيمِ</p> <p>جنتوں اور نعمتوں کے لئے نور</p>	<p>مَظْهَرِ التَّحْكِيمِ</p> <p>تحکیم کے منظر</p>

<p>سَائِلُ الْحَلِيِّ الْقَوِيءِ</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>	<p>قُطِبَ الْبَشَاءُ وَالتَّفْهِيمُ مشاہدہ و تفہیم کے قطب</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>
<p>السُّدَّكَارُوشِ مَعْتَدِلِ الرَّاسِ</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>	<p>يَدِينُ الشَّرِيْعَ وَالتَّحْلِيْمَ احکام شریعت اور علوم کی اشاعت کے لئے دایاں بازو</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>
<p>صِرَاطِ اللّٰهِ السَّوِيِّ الْمُسْتَقِيْمِ اللہ کی درست سیدھی راہ</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>	<p>بِرَأْسِ اللّٰهِ عَظِيْمِ</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>
<p>بِالْخَلْقِ الْعَظِيْمِ جو خاص کئے گئے خلق عظیم کے ساتھ</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>	<p>الْمَخْصُوْصِ بِالْخَلْقِ الْعَظِيْمِ</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>
<p>ذُرْوَةِ الشَّرَفِ الْجَسِيْمِ</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>	<p>اللَّطِيْفِ بِطَائِفِ شَأْنِ الْرَّحِيْمِ لطیف ہیں رحیم جل و علی کے لطیف اخلاق و اوصاف کے سبب</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>
<p>شَرِيفِ وَبُرْزُغِي كِي مَلْنَدِ چُونِي</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>	<p>حَسَنِ الصِّفَا الْكَلِيْمِ حسین صفتوں والے بردبار</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>
<p>الدَّرَائِكِيْمِ دَرِّيْ يَتِيْمِ</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>	<p>الَّذِيْ لهُوْ اَبْهِيْ مِنْ الْقَمَرِ التَّامِرِ زَايَدِ وَشْنِ هِيْنَ جو خود بہوں کے چاند سے زیادہ روشن ہیں</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>
<p>بِرَبْرُغِ خَصْلِكِ جَامِعِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>	<p>جَامِعِ كُلِّ خَلْقٍ كَرِيْمِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>
<p>الْوَسِيْمِ سین چہرے والے</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>	<p>الَّذِيْ طُبِعَتْ طِيْنَتُهُ مِنْ عَفْرِ نَسِيْمِ تیار کیا گیا کے پانی سے عنفرت نسیم</p> <p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستدل راہنہ</p>

<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الحَكِيمِ</p> <p>دانا</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>العَظِيمِ</p> <p>عظمت والے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المُسْتَقِيمِ</p> <p>سیدھی راہ</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ</p> <p>سیدھے راستے والے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْحَكِيمِ</p> <p>اوپنی کلام والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْحَرِيمِ</p> <p>مہربان</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْكَرِيمِ</p> <p>بزرگ ہستی</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>السَّيِّدِ الْعَلِيمِ</p> <p>وہ سردار جو علم (ظاہر و باطن) کے مالک ہیں۔</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مُحَصِّلِ الْعُلُومِ</p> <p>علوم حاصل کرنے والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْعَلِيمِ</p> <p>جاننے والے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الضَّارِبِ بِالْحَسَامِ الْمَلْتُومِ</p> <p>مارنے والے پٹی اور ڈھکی ہوتی تلوار کے ساتھ</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الْحَلِيمِ</p> <p>برڈ بار</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>بَحْرِ الْعُلُومِ</p> <p>علوم کے سمندر</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>مَطْلَبِ الْفُهُومِ</p> <p>فہوم کا مقصد ہم</p>

<p>الْعِلْمُ وَالْمَعْلُومُ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرُوفٌ عِلْمٌ</p>	<p>النَّبِيِّ الْعَكْبِيِّ الْمُعْصُومِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْصُومٌ مُبْلَغٌ مَرْتَبَةً نَبِيٌّ</p>
<p>مَرْهَبِ الرُّومِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُومٌ بِرُغْبٍ (دُبَيْبٍ) ذَالِئِ الْوَالِي</p>	<p>كَوْثَرِ الْعِلْمِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ نَائِبٌ كِنَارٍ مُسْتَدِرٌّ</p>
<p>الَّذِي عَلِمُوا قَائِقُ الْفُهْمِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ ذَاتٌ جَوْ مَفْهُومٌ كِي بَارِكِيَا سَكَّاهُ كَيْ</p>	<p>جَوْهَرِ الْفُهْمِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُهْمٌ كَامِدٌ</p>
<p>مَرْكَزِ الْفُهْمِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُهْمٌ كَيْ مَرْكَزٌ</p>	<p>الَّذِي وَهَبَتْ لِقِ الْعِلْمِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ ذَاتٌ جَنْهِي عِلْمٌ كِي بَارِكِيَا عَطَا كِي كَيْسٌ</p>
<p>قَبْلَتِكُمْ كُلِّ مَعْدُومِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرْ مَعْدُومٌ كَا قَبْلٌ</p>	<p>الَّذِي عَلِمَهُ أَوْسَعُ الْعِلْمِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ ذَاتٌ جَنْ كَا عِلْمٌ تَامٌ عِلْمٌ سِي وَسِيْعٌ هِي</p>
<p>مُذْهِبِ الْغَمِّ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلٌ كَرِ دُورٌ كَرِيْوَالِي</p>	<p>قَمْرٍ جَلَاءِ الْغَمِّ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلٌ كَشَّاشٌ كَيْ جَانِدٌ</p>
<p>رِيَاضِ الْفِ هَوْمِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِهُمٌ دَانِشٌ كَيْ بَاغَاتٌ</p>	<p>كَاسِبِ الْمَعْدُومِ</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي كَارِو كُوكَا كَرِ دِيْنِي وَالِي</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُرْحُومِ
رم کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
كَاشِفِ الْفُحُومِ
عقل و دانش کو کھولنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُخْدُومِ
مخدوم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُعْصُومِ
گناہوں سے پاک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
مُحْلُومِ
جانے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
وَقَدْ شُومِ
تمام فضیلتوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْأَحْشَرِ
سب سے زیادہ
بادقار ہستی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْفِدْعِ
محب دار جسم والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْأَدْوَمِ
دائمی نبوت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُنْعِمِ
انعام فرمانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الشَّدِيقِ
دلیر و بہادر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُفْخَرِ
عظیم معزز

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُسْتَهْمِ
مال غنیمت کو
تقسیم کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ
الْمُقْسِمِ
قسم اٹھانے والے

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْأَعْظَمِ بڑی عظمت والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الشَّدَفَاتِمِ فراخ دھان</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْأَعْظَمِ بڑی عظمت والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الصَّيْغِ شیر</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْغَطُّطِ بڑے بڑد بار</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْأَكْرَمِ سب سے زیادہ بزرگی والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْبِرِّ الْأَكْرَمِ سب سے زیادہ محسن و مکرم</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْأَكْرَمِ سب سے زیادہ بزرگی والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْفِدْغَمِ بڑے ہی خوبصورت</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سِرِّ اللَّهِ الْأَعْظَمِ اللہ کے سب سے بڑے اعظم</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْفِدْغَمِ بڑے ہی خوبصورت</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الرَّمْزِ الْمَكْتُومِ سچی ہوتی رمز</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ إِحَاظَةِ النُّورِ الْمُطْلَمِ سراسر احاطہ ہیں منیر نور کا</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّرَازِ الْمُعْلَمِ جہان سے ممتاز ہستی</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْبَحْرِ الزَّاحِرِ الْمُظْمَرِ بہت بڑی موجیں مارنیوالے سمندر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْكَنْزِ طلسمی خزانہ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ بَابِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ اللہ کے دروازے کے عظیم دروازے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُطْلَمِ طلسمی خزانہ</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
إِمَامِ الْأَعْظَمِ
سب سے بڑے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
بَحْرِ قَامُوسِ الْجَمْعِ الْمُطَمَّطِ
گہرا ظلم بیخیز سمندر جمعِ اخلق وخالق کے تعلق کا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّوحِ الْأَمِينِ الْأَعْظَمِ
عظیم تر روحِ امین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
السَّيِّدِ الْأَعْظَمِ
عظمت والے سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
ذِي الْجَنَانِ الْأَعْظَمِ
عظیم ترین دل والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كَاشِفِ
الْغَمِّ
پریشانی دور کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْمَغْنَمِ
غنیمت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
ابْنِ الْأَكْرَمِ وَالْكَرِيمِ
اربابِ کرامت و عترت مردوں و عورتوں کے لختِ جگر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
جَامِعِ سَوَابِغِ النَّعَائِمِ
بے بہا نعمتوں کو جمع کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَسُولِ الْمَلَاحِمِ
جنگوں کے پیغمبر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
خَلَاصَةِ طَيْبَةِ آدَمَ
حضرت آدم کی طینت کا خلاصہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كَاشِفِ
الْغَمِّ
غم دور کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
ذِي الْعَطَائِ الْأَكْرَمِ
بزرگ ترین عطاء والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كَاشِفِ
الْغَمِّ
غم دور کرنے والے

<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>	<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>
<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>	<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>
<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>	<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>
<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>	<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>
<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>	<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>
<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>	<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>
<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>	<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>
<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>	<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>
<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>	<p>المُعَلِّمُ علم کھانے والے</p>

<p>اللہم صل علی صاحبنا المعزوم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p>	<p>اللہم صل علی صاحبنا صاحب التکرّم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p> <p>صاحب شرف و کرامت</p>
<p>اللہم صل علی صاحبنا الشّد کے عاشق</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p>	<p>اللہم صل علی صاحبنا صاحب الموقف المعظّم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p> <p>عظمت والے موقف (مقام محمود) کے مالک</p>
<p>اللہم صل علی صاحبنا اکرم بنی آدم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p>	<p>اللہم صل علی صاحبنا ابوالارواح</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p> <p>تمام بنی آدم سے بزرگ تر</p>
<p>اللہم صل علی صاحبنا سید ولد آدم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p>	<p>اللہم صل علی صاحبنا المعظّم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p> <p>تمام ارواح کی قابل تعظیم اصل</p>
<p>اللہم صل علی صاحبنا سیر رحمة آدم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p>	<p>اللہم صل علی صاحبنا اکرم ولد آدم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p> <p>بنی آدم میں بزرگ ترین ہستی</p>
<p>اللہم صل علی صاحبنا حضرت آدم علیہ السلام پر کجا نیوالی رحمت کا راز</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p>	<p>اللہم صل علی صاحبنا نخبة بنی آدم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p> <p>بنی آدم کے منتخب جوہر</p>
<p>اللہم صل علی صاحبنا المحشم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p>	<p>اللہم صل علی صاحبنا المضخبر</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p> <p>بڑے بہادر سردار</p>
<p>اللہم صل علی صاحبنا السیر من قبل ابراہیم و آدم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p>	<p>اللہم صل علی صاحبنا المنقم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p> <p>انتقام لینے والے</p>
<p>اللہم صل علی صاحبنا محمد کل مقام من خلق آدم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p>	<p>اللہم صل علی صاحبنا المنقم</p> <p>اللہ کے بندوں کا اللہ کے معزوم</p> <p>انتقام لینے والے</p>

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ</p> <p>الحکمی</p> <p>منصف</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ</p> <p>اللَّهُمَّ سَتْرِجِرْ</p> <p>رحمت طلب کرنے والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ</p> <p>الفہمی</p> <p>دانا</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ</p> <p>اللَّهُمَّ ضَاكُمِي</p> <p>مباری بھرم</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ</p> <p>السیتہمی</p> <p>محکم کو نافذ کرنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ</p> <p>اللَّهُمَّ رَاكُمِي</p> <p>زم خود</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ</p> <p>المزمرم</p> <p>صاحب زمزم</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ</p> <p>اللَّهُمَّ مِخْضَم</p> <p>بزرگ سردار</p>

اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبُرْدِ
 اے اللہ تو مجھ سے میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے (صاف و نھنک) پانی سے دھو
 وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ
 ڈال اور تو میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کھیل
 مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاتِي كَمَا
 سے پاک و صاف کر دیتا ہے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسا فاصلہ کر دے جیسا تو نے
 بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
 مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کر رکھا ہے۔

تیسویں منزل

سرور کو نہیں دیکھا ہے نے فرمایا! الے ابو ہریرہ! عورتوں کو بتادے کہ خاوند کے مال سے انہیں صدقہ کرنا جائز نہیں۔ مگر ایسی چیز جو تروتازہ ہو اور اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو اور خاوند گھر میں موجود نہ ہو۔

آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط
المدد کے راہنما تم کرو کروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قَوْمُ يَأْتِيهِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ بِمَا كَانُوا كَالِ الْآكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ
الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِحَادِ الْأَكْوَالِ الْمُحْتَرَمَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِفِينَ وَاللَّهُمَّ وَسَّالِمًا كَثِيرًا كَثِيرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُرْهُ الْكُتْرَبِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

رَئِيسِ
الْأُمَمِ

امتوں کے سردار
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُخَنَوِّ

بہترین
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُقْنِسِرِ

اپنا حصہ لینے والے
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُقْتَمِرِ

بڑے سخی
(ﷺ)

الْقَسَمِ

تقسیم کرنے والے
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْعَلَمِ

نشانِ ہدایت
دینے والے
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْفَخْرِ

بزرگ ترین
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

النَّجْمِ

ستارہ
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُعْطَى جَلَائِلِ

النِّعَمِ

بزرگ ترین نعمتیں عطا کرنے والے
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جَمِيلِ

الشِّيمِ

خوب صورت عادات والے
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

شَفِيعِ الْأُمَمِ

امتوں کے شفیع
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُصْبِحِ
الظُّلَمِ

تاریکیوں کے چراغِ نور

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

إِمَامِ الْعَرَبِ
وَالْعَجَمِ

عرب و عجم کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

دَافِعِ الْآلَمِ

رنج و الم کو دور کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَعْدَكَ
الْحِكْمِ

حکمتوں کا سرچشمہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُتَفَرِّقِ
يُنَابِعِ الْحِكْمِ

حکمتوں کے چشموں کے پھوٹنے کیلئے منبع

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

إِمَامِ
الْأُمَّمِ

تمام امتوں کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

عرب و عجم کے مالک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ثَمَرَةَ
شَجَرَةِ
الْقُدَامِ

درختِ قدم کا پھل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

نُسْخَةَ الْوُجُودِ
وَالْحَدَامِ

ایجاد و اعدام کا نسخہ کامل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الغَوْثِ
الْعَظِيمِ

عظیم ترین فریاد رس

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَشْرَفِ الْأَعْرَابِ
وَالْعَجَبِ

تمام عربوں اور عجمیوں سے افضل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْجَامِعُ بِكَدْنِ
الْوَجُودِ وَالْعَدَمِ

وجود و عدم کے جامع

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

بَرْزَخِ الْفَاحِشِ
بَيْنَ الْحُدُوثِ
وَالْقَدَمِ

جدا کر نیوالے برزخ وہ اسام
ہیں حدوث و قدم کے درمیان

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

حَسَنِ
الْمُجَسَّمِ

خوب صورت بدن والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

عَيْتِ سَحَابِ النَّجَاةِ
مِنْ سَكَايفِ الْقَدَمِ

پرانے وقتوں سے نجات کے بادل کی بارش

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ
الْقَدَمِ

اپنے مرتبہ والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

فَرْدِ الْكَرَمِ

جود و سخا میں یکتا

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

خَيْرٍ مَنْ يَمْشِي
عَلَى قَدَمِ

قدموں پر چلنے والوں میں سب سے بہتر

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

نُورِ عَرُوسِ
الْقَدَمِ

عروس قدم و ازلیت کے نور

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ
اللُّوْحِ وَالْقَلَمِ

لوح و قلم والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَادِقِ
الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِ

اقوال اور کلمات میں سچے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ضَلِيحِ الْفَوْ

فراخ دین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

نَبِيِّ زَمْرٍ

زمزم والے نبی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُحَرَّمِ

ظلم حرام کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَدِينَةِ خَيْرِ أَهْلِ

اہل علم سے بہتر

الْعِلْمِ

علم کے شہر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَجْمَعِ

حلم و درباری کے مرکزوں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُنْتَبِعِ

سرچشمہ علم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

خَيْرِ أَوْلِي الْعِزْمِ

بہتر و برتر سب اولوالعزم سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَبَارِكِ الْأَسْمِ

بارک اسم والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُصَلِّي

بَيْتِ لَحْمٍ

بیت لحم میں نماز پڑھنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

لِنَاهِضِي بِأَعْبَاءِ

النَّبِيِّخِ الْأَعْوِ

تبلخ عام کی عبادوں کے ساتھ قیام فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَجْلَى الظُّلْمِ
انہیروں کو روشن کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ الحُكْمِ
حکم والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَوْلَى النِّعَمِ
نعمتوں کے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

رَبِّ الجَمِّ
فراخ دل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

رَابِطَتِي
حدوث کے قدم کیا تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

تَعَلَّقِ الحَدِيثَ
تعلق کا واسطہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

بِالْقَدَمِ
کریم النفس

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْمُنْعَالِي عَنِ وَحْدَةٍ
مقداری وحدت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْكَرِيمِ
بلند بالا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَزْنَةِ الْكَرَمِ
کرم کی بارش

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

نَزَاهَةِ الظُّلْمِ
تاریکیوں کی روشنی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ الخَلْقِ الْمُعْظَمِ
عظیم خلق والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَنْ أُمَّتُهُ
خَيْرُ الْأُمَّمِ
جن کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَلِمَةُ
الْإِسْبَرِ الْأَعْظَمِ
اسم اعظم وال کلمہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الَّذِي هَمَّتْهُ
سَبَقَتْ الْهَمِّ
جن کا ارادہ تمام ارادوں سے پہلے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

إِحَاظَةُ
النُّورِ الْمُطْلَمِ
دلکش نور کے احاطہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

خَطِيبِ
الْأُمَمِ
امتوں کے خطیب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَأَيِّ
النَّعْمِ
دائمی نعمتوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

طَيْبِ
النَّخِيمِ
پاک خیمے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ذَوِ الْمَيْسَمِ
نشان لگانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الَّذِي وَجُدَهُ
سَبَقَ الْعَدَمِ
جن کا وجود مسعود عدم سے پہلے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الَّذِي اسْمُهُ
سَبَقَ الْقَلَمِ
جن کا نام قلم سے پہلے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُزِينَةِ الْكَرَمِ
کرم کی زینت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

أَهْلِ سَلِّ حِلْوٍ

اہلِ حِلْمِ کے امام

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الْمُرُوقِ بِالْعِلْمِ

علم کے ساتھ آراستہ

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نُورِ أَسَدِ الْكِرَامِ

اہلِ کرم کے نور

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

طِرَازِ رِكَاءِ الْكِبَرِ بَاءِ الْمُطَلِّمِ

طلسماتی نقش ہیں کبریائی چادر کیلئے

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جَالِي الْهَمِّ

غم کو دور کرنے والے

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جَالِي الظُّلْمِ

ظلم کو دور کرنے والے

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ذِي الْعِزِّ وَالْوَثِقِ

عزیمت والے

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ذِي الْحُكْمِ

فیصلے والے

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مَنْقَطِ الْحَقِّ الْمُبْتَهَمِ

حقِ مبہم و مخفی کا نقطہ

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الْمُنْفَذِ مِنَ الْجَهَنَّمَ

جہنم سے بچانے والے

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَفْوَةِ
بَنِي إِبْرَاهِيمَ

اولادِ ابراہیم سے چنے ہوئے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الَّذِي أُعْطِيَ
خُلُقَ آدَمَ

جن کو آدم علیہ السلام کا خلق عطا ہوا۔

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الَّذِي أُعْطِيَ
خَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

جن کو ابراہیم علیہ السلام کی خلعت کی عطا کی گئی

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

أَكْرَمِ
مَنْ صَامَ

ہر روزہ رکھنے والے سے مکرم

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سَيِّدِ
الْفَخْرِ

بزرگ ترین لوگوں کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

حَرِيصِ
عَلَيْكُمْ

امتِ ایمان پر حرص فرمایا نوالے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

قَوَامِ
الدُّعَا

جہاں کیلئے سبب قیام و ثبات

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

خِيَارِ بَنِي هَاشِمٍ

اولادِ ہاشم نے بہتر

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صِبَاءِ الدُّعَا

جہاں کے لئے ضیاءِ مجسم

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الْمُسْتَخْفِي
مِنْ غَيْرِ مَا تُشْرُ

بغیر گناہوں کے توبہ کر نوالے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مُصَاوَةِ
هَاشِمٍ

غلامتہ قبیلہ ہاشم

ﷺ

أَهْلِي بَدْرٍ
بِالصِّحَابَةِ كُلِّهِمْ

اہل بدر بلکہ تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم
کا وسیلہ (ﷺ)

صِرَاطِ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

اللہ کے انعام کردہ لوگوں کا راستہ
(ﷺ)

الْمُؤْتَصِلِ
لِلطَّالِبِينَ إِلَى
طَلِبِهِمْ

طالبوں کو مطلوبوں تک پہنچانے والے
(ﷺ)

الْمُؤْتَمِرِ
لِلسَّالِكِينَ إِلَى مَقْصُودِهِمْ

سالکین کو ان کے مقصد تک پہنچانے والے
(ﷺ)

الْفَلَمِ
الْمِيمِ

الف لام میم
(ﷺ)

أَفْقَةِ الْأَنْبِيَاءِ عِلْمًا

سب انبیاء سے نقابت و علم والے
(ﷺ)

أَعْظَمِ الْأَنْبِيَاءِ
حِلْمًا

سب انبیاء سے عظیم تر حلم والے
(ﷺ)

أَوْصَلَ الْخَلْقِ
رَحِمًا

سب مخلوق سے زیادہ صلہ رحمی والے
(ﷺ)

أَثْبَتَ النَّاسِ
قَدَمًا

سب لوگوں سے زیادہ ثابت قدم
(ﷺ)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّسُلِ
الْمُصْطَفِيعِ
خَاتَمًا

انگوٹھی بنانے والے
(ﷺ)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّسُلِ
أَوْفَى النَّاسِ
ذِمَامًا

سب زیادہ وعدہ
پورا کرنے والے
(ﷺ)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّسُلِ
أَسْنَى الْأَنْبِيَاءِ
مَقَامًا

تمام انبیاء سے برتر مقام والے
(ﷺ)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّسُلِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّسُلِ
أَقْوَى الْأَنْبِيَاءِ
حَسَامًا

سب انبیاء سے قوی تلوار والے
(ﷺ)

رحمت کے انبار سے لوگوں کے زیادہ
قرب
(ﷺ)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّسُلِ
فَخْرِي الْأَنْبِيَاءِ
ذِمَامًا

انبیاء کے فخر آرزوئے
ذمہ داریوں کے
(ﷺ)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّسُلِ
أَمْرُكِي الْأَنْبِيَاءِ سَلَامًا

سب انبیاء سے پاکیزہ ترین سلام والے
(ﷺ)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّسُلِ
أَعْلَى النَّاسِ
مَقَامًا

سب لوگوں کے اعلیٰ مقام والے
(ﷺ)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّسُلِ
أَجْلَى
النَّاسِ كَلَامًا

سب لوگوں سے میٹھے کلام والے
(ﷺ)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
الرُّسُلِ
أَوْفَى الْعَرَبِ ذِمَامًا

نبھانے والے سب سے زیادہ
ذمہ داریوں کے
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

أَصْفَا الْعَرَبِ رَعَامًا

سب سے زیادہ صاف ہیں از روئے
جوہر کے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سَيِّدِ الْقَارِيَةِ

قرأت کرنے والوں کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سَيِّدِ الْمُفْتِيَةِ

اہلِ فتویٰ کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سَيِّدِ

الْمُنْشِئِينَ

(دستورچیا) وضع کرنے والوں کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سَيِّدِ

الطَّيِّبِينَ

پاکیزہ لوگوں کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سَيِّدِ

الرِّيَابِيِّنَ

پرورش کرنے والوں کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سَيِّدِ

الْأَوَابِيِّنَ

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع
کرنے والوں کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سَيِّدِ

الْأَنْجَبِيِّنَ

عمدہ اصل والوں کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سَيِّدِ

الْأَقْرَبِيِّنَ

باہم ملے ہوؤں کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سَيِّدِ

الْحَسِيِّينَ

اصحابِ شرافت کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سَيِّدِ

الرَّقِيبِيِّنَ

نگرانوں کے سردار

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْخَطِيبِينَ

خطباء کے سردار
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْكَاسِبِينَ

محنت کرنے والوں کے سردار
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْزُقَيْنِ

نگرانوں کے سردار
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْخَاطِبِينَ

خطبہ دینے والوں
کے سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْحَارِبِينَ

جنگ لڑنے والوں کے سردار
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْحَاسِبِينَ

حساب لینے والوں کے
سردار
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُجِيبِينَ

دعوت کو شرف قبولیت بخشنے والوں کے سردار
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُكْتَوِبِينَ

(دیوان خاص میں) لکھے ہوئے کے سردار
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمَسْبُوبِينَ

قلوبِ خلاق کے سردار
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُخَاطِبِينَ

اہلِ خطاب کے سردار
(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُقَرَّبِينَ

مقربین کے سردار

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُسَيَّبِينَ

رہائی دلانے والوں کے سردار

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُسَاوِينَ

کارسازوں کے سردار

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُحْتَسِبِينَ

طالبانِ رضا کے سردار

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُتَلَبِّينَ

تلبیبہ کرنے والوں کے

سردار (ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُرَاقِبِينَ

نگہبانوں کے سردار

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُجْتَبِينَ

پسندیدگانِ حضرتِ حق کے سردار

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُؤَدِّبِينَ

آداب سکھانے والوں کے سردار

(ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُجَنَّبِينَ

کفر و بد عمل سے دور کرنے والوں

کے سردار (ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ
الْمُتَحَابِّينَ

باہمی محبت والوں کے سردار

(ﷺ)

اللہ عزوجل
سَيِّدِ
التَّائِبِينَ

اہل توبہ کے سردار

(اللہ عزوجل)

رَبِّ اعْنِي

اے میرے پروردگار!

اللہ عزوجل
سَيِّدِ
الْمُقْتَرِبِينَ

قرب پانینوالوں کے سردار

(اللہ عزوجل)

وَلَا تُحِصِنْ عَلَيَّ، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ

تو میری مدد کر اور میرے خلاف تو کسی اور کی مدد نہ کر، اور مجھے کامیاب (دکامران)

عَلَيَّ، وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَالْهُدَى لِي وَلَيْسَ

فرما میرے اوپر کسی کو کامیاب نہ فرما اور میرے حق میں تدبیر فرما اور میرے اوپر کسی کی تدبیر کارگر نہ فرما، اور مجھے ہدایت

الْهُدَى لِي، وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مِنْ بَغْيِ عَلِيٍّ رَبِّ

دے اور ہدایت پر قائم رہنے کو میرے لئے آسان فرما دے۔ اور جو مجھ پر تندی (زیادتی) کرے اس کے مقابلے پر میری مدد فرما۔ اے

اجْعَلْنِي لَكَ ذَكَرًا، لَكَ شُكْرًا، لَكَ رَهَابًا،

میرے پروردگار! تو مجھے کثرت اپنا ہی ذکر کر نیوالا، اپنا ہی شکر کر نیوالا، اپنے سے ہی بہت ڈرنے والا،

لَكَ مَطْوَعًا، لَكَ مَطِيعًا، إِلَيْكَ مُنْحَبًا، إِلَيْكَ

اپنا ہی بہت فرمانبردار، اپنا ہی خوب اطاعت کر نیوالا، تجھ سے بہت زیادہ عاجزی کرنے والا، تیرے ہی سامنے بہت

أَوْالًا مَنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَأَغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ

زیادہ گریہ زاری کر نیوالا اور (میری ہی جانب رجوع کر نیوالا بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ کو قبول فرمائے اور میرے گناہوں کو دھو

دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَالْهُدَى لِي

دے اور میری (اس) دعا کو قبول فرما، اور میری (نجات) کی دلیل پر مجھے ثابت قدم رکھ اور میری زبان کو درست رکھ اور میرے

وَاسْأَلْ سَخِمَةَ صَدْرِي آمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

دل کو ہلکائی پر قائم رکھ اور میرے سے کھوٹ کو نکال پھینک۔

چوبیسویں منزل

سرور کونین ﷺ نے فرمایا اے اللہ ہر ممالکوں کے اچھی بات سے اقیامت
کے دن نجات پائے گا۔

بے ادب و پد لکھا کر سکا چھ حفاظ
چھوڑا رہا تم چھ کروروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيدُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِقِينَ وَاللَّهُمَّ وَسَّالِمًا كَثِيرًا كَثِيرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْزِيلًا لِكُلِّ مَكْرَبٍ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُنْبِيِّينَ</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الرَّاجِيْنَ</p> <p>رغبت رکھنے والوں کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُجِبِّينَ</p> <p>منتخب حضرت کے سردار</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُنْبِيِّينَ</p> <p>اہل انابت (رجوع) الی اللہ کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُقَرَّبِيْنَ</p> <p>مقربین کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُجِبِّينَ</p> <p>قبول کرنے والوں کے سردار</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُجِبِّينَ</p> <p>مجببین کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ التَّابِيْنَ</p> <p>تابیین کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُجِبِّينَ</p> <p>قبول کرنے والوں کے سردار</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُجِبِّينَ</p> <p>مجببین کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُحْبُوْبِيْنَ</p> <p>محبوبین کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُجِبِّينَ</p> <p>قبول کرنے والوں کے سردار</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْقَانِتِيْنَ</p> <p>عبادت گزاروں کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمَلِيْنِ</p> <p>دونوں ملتوں کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْقَبْلَتِيْنَ</p> <p>دونوں قبلوں کے سردار</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْقَانِتِيْنَ</p> <p>عبادت گزاروں کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُسْتَغِيثِيْنَ</p> <p>فردیاد رسی کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْقَبْلَتِيْنَ</p> <p>دونوں قبلوں کے سردار</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الرَّاجِيْنَ</p> <p>اصحاب رجاء کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْوَارِثِيْنَ</p> <p>وارثین کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُتَنَاجِيْنَ</p> <p>مناجات کرنے والوں کے سردار</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الرَّاجِيْنَ</p> <p>اصحاب رجاء کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُنَجِّيْنَ</p> <p>نجات دلانے والوں کے سردار</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُتَنَاجِيْنَ</p> <p>مناجات کرنے والوں کے سردار</p>

<p>سَيِّدِ الْمُصَلِّحِينَ</p> <p>مصلحین کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ السَّاجِدِينَ</p> <p>چھا جائیوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الصَّالِحِينَ</p> <p>صالحین کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْمَسْبُوحِينَ</p> <p>تسبیح کہنے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمَفَاتِحِينَ</p> <p>فیصلے کرنیوالوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الشَّاهِدِينَ</p> <p>سیاحت کرنیوالوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْمُصَلِّحِينَ</p> <p>اصلاح کرنیوالوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُبْتَاحِينَ</p> <p>مدح کرنیوالوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُفْلِحِينَ</p> <p>اہل فلاح کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْمُفْرِحِينَ</p> <p>فرحت بخشنے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُسَبِّحِينَ</p> <p>ارباب تسبیح کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُرِيحِينَ</p> <p>راحت رسانوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْمَمْلُوحِينَ</p> <p>شریں گفتار لوگوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمَمْلُوحِينَ</p> <p>شریں گفتار لوگوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمَمْلُوحِينَ</p> <p>شریں گفتار لوگوں کے سردار</p>

<p>سَيِّدِ الْفَاتِحِينَ</p> <p>ارباب فتح کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمَكَانِحِينَ</p> <p>ہبہ کرنے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُصَافِحِينَ</p> <p>مصافحہ کرنے والوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْفَصِيحِينَ</p> <p>ذُصَّاه کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الصَّافِحِينَ</p> <p>درگزر کرنے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ النَّاجِحِينَ</p> <p>نکاح کرنے والوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْفَرِحِينَ</p> <p>ارباب فرحت کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْأَمْلَاحِينَ</p> <p>ارباب ملاحت جذبہ کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْأَوْضَاحِينَ</p> <p>دشن و نورانی لوگوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْأَمْجِدِينَ</p> <p>ارباب مجد کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الرَّاكِبِينَ</p> <p>ثابت قدم رہنے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْأَسْعَدِينَ</p> <p>سعادت مندوں کے سردار</p>
	<p>سَيِّدِ الشَّكِيدِينَ</p> <p>شہیدوں کے سردار</p>	

سَيِّدِ الْأَوْجَدِينَ

اربابِ مجد کے سردار

سَيِّدِ الْأَجْوَدِينَ

بہت سخاوت کرنے والوں کے سردار

سَيِّدِ الْأَحْمَدِينَ

بہت حمد کرنے والوں کے سردار

سَيِّدِ الْمُجِيدِينَ

اربابِ مجد کے سردار

سَيِّدِ السَّكِيدِينَ

پختہ رائے والوں کے سردار

سَيِّدِ السَّعِيدِينَ

نیک بختوں کے سردار

سَيِّدِ الشَّاهِدِينَ

شہادت دینے والوں کے سردار

سَيِّدِ الْوَاكِدِينَ

یکتائے روزگار کے سردار

سَيِّدِ السَّاجِدِينَ

سجود کرنے والوں کے سردار

سَيِّدِ الْمُسْتَعِدِينَ

مستعد لوگوں کے سردار

سَيِّدِ السَّاقِدِينَ

پر کھنے والوں کے سردار

سَيِّدِ الْحَامِدِينَ

حمد کرنے والوں کے سردار

سَيِّدِ الْمُحْمَدِينَ

محمودین کے سردار

<p>سَيِّدِ الْمُرِيدِينَ</p> <p>اصحابِ رادت کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُقْصُودِينَ</p> <p>مقصودِ خلائق کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُوجُودِينَ</p> <p>موجودات کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْمُجَدِّدِينَ</p> <p>خالق کی بزرگی بیان کرنے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُعْكَاهِدِينَ</p> <p>معاہدہ کرنے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُنَادِينَ</p> <p>اعلانِ حق کرنے والوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْمُؤَحِّدِينَ</p> <p>توحید پرستوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُسْتَشْهِدِينَ</p> <p>گواہ بناتے جانے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُعْبَدِينَ</p> <p>عبادت گزاروں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْمُؤَدِّدِينَ</p> <p>حوضِ کوثر پر وارد کئے جانے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُشَاهِدِينَ</p> <p>اہلِ شہود کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُتَعَبِّدِينَ</p> <p>عبادت گزاروں کے سردار</p>
	<p>سَيِّدِ الرَّاشِدِينَ</p> <p>راہِ راست پانے والوں کے سردار</p>	

<p>سَيِّدِ الْمَوْجِدِينَ</p> <p>سید موجدین کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْوَاصِلِينَ</p> <p>سید واصلین کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُرْتَدِينَ</p> <p>سید مرتدین کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْمُفْتَحِينَ</p> <p>سید درمیانہ رد لوگوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُجَاهِدِينَ</p> <p>سید ارباب اجتہاد کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمَشْهُورِينَ</p> <p>سید گواہ بنائے جانے والوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْحَزَنِيِّينَ</p> <p>سید عزت والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْأَزْهَادِيينَ</p> <p>سید بہت بڑے زاہدین کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمَحْرُورِينَ</p> <p>سید معصومین کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْفَائِزِينَ</p> <p>سید کامیاب لوگوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْخَاصِرِينَ</p> <p>سید مجامدین کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُبَارِزِينَ</p> <p>سید (راہِ خدا میں) رزمگاہ کی طرف نکلنے والوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْمُجَادِبِينَ</p> <p>سید صبر کرنے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْكَاثِرِينَ</p> <p>سید صبر کرنے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُجَادِبِينَ</p> <p>سید صبر کرنے والوں کے سردار</p>

<p>سَيِّدِ الظَّافِرِينَ</p> <p>ظافرین کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الظَّاهِرِينَ</p> <p>غلبہ پانے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الأَخْرَبِينَ</p> <p>آخربین کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ المُتَفَكِّرِينَ</p> <p>اہل تفکر کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ المُظْفِرِينَ</p> <p>ارباب ظفر کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الجَلِيلِينَ</p> <p>اصحاب جلالت کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ المُؤْتَارِينَ</p> <p>پسندیدگان حضرت حق کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ المُذْكَورِينَ</p> <p>ذکر کئے جانے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ المُخْبِرِينَ</p> <p>ارباب بصیرت کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ المُتَحَبِّرِينَ</p> <p>مقام حیرت والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ العَافِرِينَ</p> <p>مغفرت سے کام لینے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ المُخَيَّرِينَ</p> <p>ارباب خیرت کے سردار</p>
	<p>سَيِّدِ المُتَدَبِّرِينَ</p> <p>اصحاب تدبیر کے سردار</p>	
	<p>سَيِّدِ المُتَخَاذِرِينَ</p> <p>سابقین کے سردار</p>	
	<p>سَيِّدِ المُسْتَجِرِينَ</p> <p>اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے والوں کے سردار</p>	
	<p>سَيِّدِ المُكَبَّرِينَ</p> <p>اللہ کی کبریائی بیان کرنے والوں کے سردار</p>	

<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمُنْذِرِينَ دوزخ سے ڈرانے والوں کے سردار</p>	<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمُبَشِّرِينَ اہل بشارت کے سردار</p>	<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمُفَسِّرِينَ مفسرین کے سردار</p>
<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمُدَّتِّينَ چادر اوڑھنے والوں کے سردار</p>	<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمَقْصِرِينَ قصر کرنے والوں کے سردار</p>	<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمُجَسِّرِينَ اہل جرات کے سردار</p>
<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمُسْفِرِينَ روشن و نورانی لوگوں کے سردار</p>	<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمُبَارِحِينَ اہل ناز کے سردار</p>	<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمُسْتَغْفِرِينَ استغفار کرنے والوں کے سردار</p>
<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمُسَافِرِينَ سیر و سفرانی اللہ کرنے والوں کے سردار</p>	<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْمُبَصِّرِينَ ارباب بصیرت کے سردار</p>	<p>اللہم صل علی سَيِّدِ الْأَفْحَالِينَ کار گزاروں کے سردار</p>

<p>سَيِّدِ الْأَمِيرِينَ</p> <p>امیروں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ كَاشِرِينَ</p> <p>جمع کرنیوالوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْبَكْرِيْنَ</p> <p>نوجوانوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْخَالِيْنَ</p> <p>اللہ کے دوستوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْفَقِيْرِيْنَ</p> <p>فقراء کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْكَارِيْنَ</p> <p>سردار (خوفِ خدا سے) روزے والوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْقَادِرِيْنَ</p> <p>قدرت والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الشَّاكِرِيْنَ</p> <p>شکر کرنیوالوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ السَّائِرِيْنَ</p> <p>سیر (فِ الشَّد) کرنیوالوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْاَكْبَرِيْنَ</p> <p>بزرگ ترین لوگوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ النَّاجِرِيْنَ</p> <p>منج کرنیوالوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْاَضْفَرِيْنَ</p> <p>اصحابِ ظفر کے سردار</p>
	<p>سَيِّدِ الْاَطْهَرِيْنَ</p> <p>پاکیزہ ترین لوگوں کے سردار</p>	

<p>سَيِّدِ الْمُنْشُرِينَ</p> <p>تمام (قبور سے) اٹھائے جانے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْأَزْهَرِيِّينَ</p> <p>روشن ترین لوگوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْأَنْوَرِيِّينَ</p> <p>نورانیوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْمُطَهَّرِيِّينَ</p> <p>اربابِ تطہیر کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْأَظْهَرِيِّينَ</p> <p>واضح درویشن کرنیوالوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْمُسْحُوْدِيِّينَ</p> <p>سادت مندوں کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْبَاكِيَيْنَ</p> <p>رونے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْغَاكِبِيِّينَ</p> <p>تمام باقی رہنے والوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْظَّالِمِيْنَ</p> <p>اربابِ ظفر کے سردار</p>
<p>سَيِّدِ الْحَمِيْلِيْنَ</p> <p>اللہ کے دوستوں کے ماہ تمام</p>	<p>سَيِّدِ الْأَكْمَلِيْنَ</p> <p>کامل ترین لوگوں کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْأَفْعَالِيْنَ</p> <p>کار گزاروں کے ماہ تمام</p>
<p>سَيِّدِ الْحَمِيْلِيْنَ</p> <p>اللہ کے دوستوں کے ماہ تمام</p>	<p>سَيِّدِ الْجَمِيْلِيْنَ</p> <p>اربابِ جمال کے سردار</p>	<p>سَيِّدِ الْحَمِيْلِيْنَ</p> <p>اللہ کے دوستوں کے ماہ تمام</p>

بَدْرِ الْجَلِيلِ

اصحابِ جلالت کے ماہِ تمام

بَدْرِ الْوَاصِلِ

داسلین کے ماہِ تمام

اللَّهُمَّ اقْسُوا لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ

اے اللہ تو ہمیں اپنے خوف کا اتنا حصہ دے دے جس سے تو ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان حائل ہو جائے اور اپنی فرمانبرداری کا اتنا حصہ دے جس سے تو ہمیں

بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُلْهَوْنَ بِهِ عَلَيْنَا

اپنی بہشت میں پہنچا دے اور یقین و ایمان کا اتنا حصہ دے دے جس سے تو ہمارے اوپر دنیا کی مصیبتوں کا (سنا) آسان کر دے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں ہماری آنکھوں

وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْنَا وَاجْعَلْ

اور ہماری طاقت سے ہم کو نفع پہنچا اور اس نفع اور فائدہ کو ہمارا وارث بنا دے (ہمارے مرنے کے بعد ہماری یادگار) اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے ہمارا بدلہ لے اور جو ہم سے عداوت رکھے اس پر ہماری مدد فرما۔

وَلَا تَجْعَلْ مَصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا

اور تو ہماری مصیبت ہمارے دین میں مت تجویز کر (یعنی ہمیں دینی مصیبت میں مت ڈال) اور تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد، اور ہمارے علم کی منزل مقصود، اور ہماری رغبت کی آخری حرمت

وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا اللَّهُمَّ إِنِّي

بنا اور ان لوگوں کو ہم پر حکمران نہ بنا جو ہم پر ترس نہ کھائیں۔ اے اللہ میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَنِ رِيَّةِ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ

ہر (دین کے) کام میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے پختہ نیکو کاری کا سوال کرتا ہوں اور تیری نعمتوں

شُكْرُ نِعْمَتِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا

کا شکر ادا کرنے (کی توفیق) کا، اور تیری اچھی طرح عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے سچی زبان

صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا وَخُلُقًا مُسْتَقِيمًا وَأَعُوذُ بِكَ

بے عیب دل اور درست اخلاق کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے ہر

مِنْ شَرِّ مَا تَحَلُّوْا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَحَلُّوْا

اس چیز کے شر سے جس کو تو ہی جانتا ہے پناہ چاہتا ہوں اور ہر اس چیز کی خیر و خوبی کا جس کو تو ہی جانتا ہے سوال

وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَحَلُّوْا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

کرتا ہوں، اور ہر اس چیز سے جس کو تو ہی جانتا ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ بیشک تو ہی تمام غیب باتوں کا بہت بڑا جاننے والا ہے

اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَالْمَدِينَا

اے اللہ تو ہمارے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دے اور ہمارے باہمی معاملات (اور تعلقات) درست کر دے اور ہم کو

سَبِيلَ السَّلَامِ وَمُخْتَمِنًا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا

سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرما اور ہم کو شرک و کفر و گمراہی کی تاریکیوں (ایمان) کی روشنی کی جانب نجات دے اور ہم کو ظاہری

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا

اور باطنی بدکاریوں سے دُور رکھ اور ہمارے کانوں کو اور ہماری

وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا

آنکھوں کو اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے حق میں باعثِ برکت بنا دے۔ اور

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ

توبہ قبول فرما، بیشک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار، اور ان کا

لِنِعْمَتِكَ مُتَشِينِينَ بِهَا قَابِلِينَهَا وَأَتَمِّهَا عَلَيْنَا النَّبِيَّ الْكَرِيمَ

شکر خواں اور اہل بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر پورا فرما دے

پچیسویں منزل

سرور کونین ﷺ نے فرمایا اے اللہ ہر یہ ملا اپنی چھوٹی اولاد کو زبانی طور
پر نماز اور وضو کی ترغیب دے اور جب دس سال کے ہو جائیں تو مار گرتین
سے تجاوز نہ کرے

سینہ کہ ہے دارغ دارغ کہہ دو کرے بارغ بارغ

طیبر سے آکر صبا تم پہ کر دروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيْدُ يَا حَمِيْدُ يَا حَمِيْدُ يَا حَمِيْدُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِيْنَ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ

الْمُعْشُوْقِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِيْنَ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِحِكْمِ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى


قُلُوْبِ الْحَازِرِيْنَ وَالْمُرْتَبِعِيْنَ وَالْمُتَبَعِيْنَ وَالْمُتَّبَعِيْنَ


شَرَفًا وَتَكْرِيْمًا وَأَنْفَرًا لِكُلِّ مَنْ أَلْبَسَكَ


عَمَلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ


سیدنا ابی طالب
 ضبط کرنیوالوں کے سردار


<p>سیدنا امیر المؤمنین ترغیب دینے والوں کے سردار</p>	<p>سیدنا امیر المؤمنین والوں کے سردار</p>
<p>سیدنا امیر المؤمنین اہل انصاف کے سردار</p>	<p>سیدنا امیر المؤمنین راضی ہونے والوں کے سردار</p>
<p>سیدنا امیر المؤمنین بیابانوں کے سردار</p>	<p>سیدنا امیر المؤمنین سعادت اسلام کے محافظین کے سردار</p>
<p>سیدنا امیر المؤمنین حاکموں کے سردار</p>	<p>سیدنا امیر المؤمنین حاکموں کے سردار</p>
<p>سیدنا امیر المؤمنین عفو و مغفرت کے سردار</p>	<p>سیدنا امیر المؤمنین نصیحت کرنے والوں کے سردار</p>
<p>سیدنا امیر المؤمنین رکوع کرنے والوں کے سردار</p>	<p>سیدنا امیر المؤمنین اہل ایمان کے سردار</p>
<p>سیدنا امیر المؤمنین دعا کرنے والوں کے سردار</p>	<p>سیدنا امیر المؤمنین اہل ایمان کے سردار</p>











سَيِّدُ الْمُنْفِقِينَ
(راہِ خداوند تعالیٰ میں)
خروج کرنے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْكَاذِبِينَ
سردار کاذبوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُسَبِّحِينَ
سردار اللہ تعالیٰ کے سردار

سَيِّدُ الْمُرَافِقِينَ
رفیق و مدارات دلوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُشْتَاكِينَ
شوقِ رنجنے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَحَقِّقِينَ
تحقیق پر فائز لوگوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَكَلِّمِينَ
اربابِ بیانیہ کے سردار

سَيِّدُ الْمَلِكِينَ
سابقین کے سردار

سَيِّدُ الْمُفْضَلِينَ
اربابِ توفیق کے سردار

سَيِّدُ الْمُحْكَمِينَ
حلق کرانے والوں کے سردار

وَاسْتَغْرِقُ فِيكَ كُلِّي بِأَحَاطَةِ مَخَالَطَةِ مُحَمَّدٍ

اور میرے پورے وجود کو مستغرق کر دے اپنی ذات میں مع محمدی انوار کی محیط مخالطت اور کامل

وَاحْفَظْنِي بِحِفَاظَتِكَ بِحِفْظِ حَفِظِ مُحَمَّدٍ

اختلاط اور میری حفاظت فرما اپنے حفظ خاص کے ساتھ صدقے میں اس حفاظت کے جو محمد کی محافظت ہے

اللَّهُمَّ رَبِّكَ فِي مَرَاتِبِ وَجُودِكَ وَشُهُودِكَ

اے اللہ میں تیرے ساتھ استعانت کرتا ہوں تیرے مراتب وجود اور شہود میں

حَتَّى لَا أَشُدَّ هَدَايَا أَعْمَالِكَ وَصِفَاتِكَ بِوَجْهِهِ

حتیٰ کہ میں نہ دیکھوں (کوئی فعل اور صفت) سوائے تیرے افعال اور صفات کے بظہیر اس

الْحَقِّ الَّذِي خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ سَيِّرْ لَنَا

جہت حق کے جس نے نور محمد کو پیدا کیا۔ اے اللہ ہمارے لئے

عِلْمَ التَّوْحِيدِ وَالْعِرْفَانِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا نُورَ

توحید و عرفان کے علم کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے لئے کھول دے خفی اور

الْخَفِيِّ الْحَكْفِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ افْضُ

اہم کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے خبزنے۔ اے اللہ فیضان فرما مجھ

عَلَى مَوَالِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِفَضْلِ

پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے موابب و عطیات کا۔ اے اللہ مجھے نعمتی فرا دے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اعِزَّنِي بِعِزِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی فضیلت کی بدلت۔ اے اللہ مجھے معزز فرما۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی عزت کے ساتھ

اللَّهُمَّ زَيِّنِي بِزِينَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اے اللہ مجھے آراستہ فرما لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی زینت کے ساتھ

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

چھبیسویں منزل

سرور کو میں نے فرمایا اے اللہ ہریرہ اچھ تو کسی تکلیف وہ گنہاری چیز
پہلائے میں گزربے تو اسے مٹی سے ڈھانچے خدا تعالیٰ قیامت کے
دن تیری پردہ پوشی فرمائے گا۔

خالق تمھاری جمیل خالق تمھارا جمیل
خالق تمھاری گدگدائےمیں الہیہ کرداروں اور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قِيَمُ يَا نَبِيَّ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِينَ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ

الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى

قُلُوبِ الْعَارِفِينَ وَالْهَوَسَاءِ الرَّغْبَاءِ الْكَثِيرَةِ الْبَتِيرَةِ

شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَقْرَبَ الْكَلِمَاتِ الْكَلِمَةَ

عِنْدَكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ
 نورانی اعضاء والوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ
 اہل نصیحت کے سردار

سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ
 امید دلانے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ
 نبیوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ
 اہل تعظیم کے سردار

سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ
 ارباب تنزیل کے سردار

سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ
 اصحاب تجرید کے سردار

سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ
 لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ
 ارباب تجرید کے سردار

سَيِّدُ الْقِسَاكِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

قیس لولا کرنے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْفَلَاكِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

قرآن کو نقشِ اسلوبی سے پڑھنے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْقَلْبَيْنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

جن دانس کے سردار

سَيِّدُ الْفَرَسِيَّينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

رسولوں کے سردار

سَيِّدُ الْبُؤْرِيَّينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

امید دلائے ہوئے لوگوں کے سردار

سَيِّدُ الْاَوَّلِيَّينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اولین کے سردار

سَيِّدُ الْحَاكِمِيَّينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

حاکم (وجہ) کے سردار

سَيِّدُ الْاَعْقَلِيَّينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

عقل و دانش کے سردار

سَيِّدُ الْمُنْتَظِمِيَّينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

انتظام کرنے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْمَقْدُونِ
 بہت ذمہ داریاں نبھانے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْأَكْرَمِينَ
 ارباب کرامت کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَّقِينَ
 نصیب پانے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْأَعْظَمِينَ
 عظمت عظیمہ والوں کے سردار

سَيِّدُ الْأَقْدَمِينَ
 سبقت لے جانے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْأَصْفَرِينَ
 روزہ داروں کے سردار

سَيِّدُ الْأَكْلِيَّةِ
 کھانوں کے سردار

سَيِّدُ الْعَلِيمِينَ
 ارباب علم کے سردار

سَيِّدِ السَّاجِدِينَ
دعوت کرنے والوں کے سردار

سَيِّدِ الْأَطْيَارِ
مہذبہ مقام لوگوں کے سردار

سَيِّدِ الْمَكْرَمِينَ
اربابِ تکریم کے سردار

سَيِّدِ الْمُعْصُومِينَ
معصوموں کے سردار

سَيِّدِ الْقَادِمِينَ
قدیمین کے سردار

سَيِّدِ الْمُظْلَمِينَ
(راہِ خدا میں) ظلم سہنے والوں کے سردار

سَيِّدِ الْمُرْحُومِينَ
مرحومین کے سردار

سَيِّدِ السَّلَامَةِ
اربابِ سلامت کے سردار

سَيِّدِ النَّاعِمِينَ
اربابِ نعمت کے سردار

سَيِّدُ الْعَرَبِ و **سَيِّدُ رَمِيْنٍ**
 اہل عشق کے سردار

سَيِّدُ الْأُمْنِيْنِ
 اربابِ طمانیت و سکون کے سردار

سَيِّدُ نَيْمِيْنٍ
 سرخ رنگت والے حبیبوں کے سردار

سَيِّدُ الْفَرِيْدِيْنِ
 ناد میں کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَدَيْنِيْنِ
 اربابِ دین و مذہب کے سردار

سَيِّدُ الْكَلْبِيْنِ
 محزونین کے سردار

سَيِّدُ الْقَامِيْنِ
 عطا کرنے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُفْتَوِيْنِ
 محبوبِ حقیقی کی محبت کے مفتونین کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَمَيِّنِينَ
 اقتدار بخشنے والوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَمَيِّنِينَ
 روشن و نورانی لوگوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَمَيِّنِينَ
 اربابِ بیان و تشریح کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَمَيِّنِينَ
 اربابِ احسان کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَمَيِّنِينَ
 مومنین کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَمَيِّنِينَ
 نیکوکاروں کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَمَيِّنِينَ
 پاک بازوں کے سردار

سَيِّدُ الْمُتَمَيِّنِينَ
 اربابِ اقتدار کے سردار

سَيِّدُ الْمُسْتَغِيثِينَ
 مدد طلب کرنے والوں کے سردار

رَأْسِ الْمُؤَقِّنِينَ
 ارباب یقین کے سردار

مَلَائِكِي دِينِ
 دوزخ و موتوں کے پالنے والے

وَأَمَامِ
 الْمُؤَقِّنِينَ
 اہل یقین کے امام

أَمَامِ عِبَادِ اللَّهِ
 اللہ کے بندوں کے امام

مَبْتَلِينَ دِينِ
 مومنوں کو بشارت دینے والے

وَأَمَامِ
 الْمُؤَقِّنِينَ
 مومنوں کے امام

وَأَمَامِ
 الْمُؤَقِّنِينَ
 امام

مَبْتَلِينَ دِينِ
 نبی کرنے والوں کو بشارت دینے والے

أَنْزِينَ الْبُرَيْقِينَ
 سب زینت دینے والوں سے زیادہ زینت دینے والے

عَبْدُ الدَّرِّاجَاتِ
بھرا ہوئے بازوؤں والے

صَخْرَةُ السَّاقَاتِ
بھاری پنڈلیوں والے

النَّزَائِنِ
صاحبِ زینت

عَبْدُ الدَّرِّاجَاتِ
بھرا ہوئے بازوؤں والے

صَاحِبُ النُّعْمَاتِ
مبارک ہوئے والے

الصَّائِنِ
خطا سے محفوظ

عَبْدُ الدَّرِّاجَاتِ
بھرا ہوئے بازوؤں والے

صَخْرَةُ الْعَصَدَاتِ
بھاری بازوؤں والے

مَشَابَهُ الْكُسَيْنِ
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مشابہ

ضیاء الخافقین

اللهم صل على محمد وآل محمد

شرقی و غربی افق کی ضیاء

اللهم صل على محمد وآل محمد

مسلك القلمین

اللهم صل على محمد وآل محمد

مبارک و لای

اللهم صل على محمد وآل محمد

یوج الثقلین

اللهم صل على محمد وآل محمد

جن و انس کے آفتاب

اللهم صل على محمد وآل محمد

نور حیاة الدارین

اللهم صل على محمد وآل محمد

دارین کی حیات کا نور

اللهم صل على محمد وآل محمد

مکرم و وفی الامین

اللهم صل على محمد وآل محمد

بہانے والے

اللهم صل على محمد وآل محمد

بدر الدارین

اللهم صل على محمد وآل محمد

دارین کے ماہ تمام

نور جسد المؤمنین

اللهم صل على محمد وآل محمد

کونین کے جسم کے نور

اللهم صل على محمد وآل محمد

محبیبین

اللهم صل على محمد وآل محمد

اللهم صل على محمد وآل محمد

حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پیار کرنے والے

تمثال المعدن

اللهم صل على محمد وآل محمد

بے پروں کے سہارا

اللهم صل على محمد وآل محمد

بقائنی امانی دو دنوں میں سے ایک دنوں شایا میں
بِسْطِ الْكَافِرِينَ کٹارہ ہتھیلیوں والے
أَفْجَ النَّبَتَيْنِ دو دنوں شایا میں کٹا دی رکھے والے
تَعَامُ الْأَشْيَاءِ پورے گوشت مبارک والے
مُبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ محسنین کو بشارت دینے والے
كَلْفِ الْمُسْتَغِيثِينَ دو ماٹھے والے مومنوں کی جائے پناہ
تَارِكِ الشُّقَايَا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جانے والے
جَنَّةِ
مَأْوَى الْمُؤْمِنِينَ مومنین کی جنت الماوی

خِصِّصَانِ الْاِخْصِيَيْنِ
تھوڑے بلند اور درمیان سے اٹھتے ہوئے تلواروں والے

اَلْوَدَّادِ الْكُوْنِيْنَ
ایمان والوں کے لئے پر غلوص روشنی

نُورِ الثَّقَلَيْنِ
جن و انس کے نور

نُورِ الدَّارِيْنَ
دارین کے نور

سَيِّدِ الْمَحْبُوْبِيْنَ
ابنِ اِطْمِيْنَانَ كَسْرٍ
سید محبوبوں کے سردار

نُورِ الْكُوْنِيْنَ
دُنْيَا وَاٰخِرَتِ كَسْرٍ
دنیا و آخرت کے نور

نُورِ السَّبْطِيْنَ
دوڑوں نواسوں کے نور

تَمِيْنِ الْقَلَمِيْنَ
پاؤں گھومتے قدموں والے

نُورِ الْكُسْبِيْنَ
حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَسْرٍ
حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے نور

الرُّسُلِ الْمُرْسَلِينَ
رسولوں کے ترسیں

سُرِّ السَّوَارِ
المُرْسَلِينَ
رسولوں کے امرا کے راز

الرُّسُلِ الْمُرْسَلِينَ
رسولوں کے نفوس کی غذا

الرُّسُلِ الْمُرْسَلِينَ
رسولوں کے چہرے کی زینت

أَبْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ
مؤمنین کے (روحانی) باپ

الرُّسُلِ الْمُرْسَلِينَ
رسولوں کے انوار کا نور

الرُّسُلِ الْمُرْسَلِينَ
رسولوں کی ارواح کی روحانیت

الرُّسُلِ الْمُرْسَلِينَ
تمام جہانوں کی رونق کا نور

وَالَّذِينَ هُمْ
أُولُو الْأَرْحَامِ
اہلِ دَحْشَتِ كَعْلَمِ سَامَانِ أُنْسِ
اہلِ دحشت کے لئے سامانِ انس

جِبْرِ جَنَّا الْجَنَّةِ
جنّتوں کے چرچے ہوئے عمدہ پھولوں کی نیم

رَاحَتِ
شرقی و مغربی افق کے لئے راحت

نَبِيِّ
الْمَخَافِقِينَ
شرق و مغرب کے نبی

الَّذِي وَصَّاهُ لَيْسَ
جن کے اصحاب (رفضان اللہ علیہم) ایک دوسرے کیلئے

رَافِعِ عَالِمِ الْهُونِ
سوانی کے عذاب کو اٹھانے والے

صَائِنِ
حفاظت کرنے والے

الْبَيْتِ الْكَبْرِ لِلْحُسَيْنِ
بچے کے گھر حسن کے لئے

عَائِنِ وَحَيَاةِ الْمَسِينِ
سوز و غم کی سرچشمہ اب جیات

فَاطِمِ
زیرک

اللہم صل علی محمد و آلہ
عاشق الہی
 جو تمام نبیوں پر گواہ ہیں
 اللہم صل علی محمد و آلہ

اللہم صل علی محمد و آلہ
الشیخ السیر المکمل
 ایسا ازہیں جن سے کمال حاصل کیا گیا تمام جہانوں میں
 اللہم صل علی محمد و آلہ

اللہم صل علی محمد و آلہ
عبد المتین
 نامیدوں کیلئے بشارت
 اللہم صل علی محمد و آلہ

اللہم صل علی محمد و آلہ
حیاء حیاتہ الدین
 زہی حیات کی
 اللہم صل علی محمد و آلہ

اللہم صل علی محمد و آلہ
من رو حوہ
 جن کی روح دونوں جہانوں کیلئے محراب ہے
 اللہم صل علی محمد و آلہ

اللہم صل علی محمد و آلہ
مناجی الخرمین
 دونوں حرموں کے تہاج
 اللہم صل علی محمد و آلہ

اللہم صل علی محمد و آلہ
النور المستضاء
 وہ نور اللہ ہے جس کی گنتی دارین میں
 ایسا نور ہے ضیاء حاصل کی گئی دارین میں
 اللہم صل علی محمد و آلہ

اللہم صل علی محمد و آلہ
روح جسد الکونین
 کونین کے جسم کی روح
 اللہم صل علی محمد و آلہ

سِوَاكِ الْعَرَبِ الْمِيْنِ
تمام جہانوں کے چہرے

وَالْحَبِيبِ عِنْدَ الْبَرِّ
تینوں کے پاس محبوب

مَوْلَى الْمُسْلِمِيْنَ
اربابِ تسلیم کے چرانے

صَلَفَةِ الْمُرْسَلِيْنَ
رسولین سے منتخب

كَارِفِعِ اِيْتِي الْعِظَمَاءِ
ظالموں کے شر کو دور کرنے والے

خَيْرِ الْخَافِرِيْنَ
اہلِ مغفرت سے بہتر

بِاللَّهِ اَيَّةُ الْغَافِلِيْنَ
غافلوں کو یاد دلا دینے والے

الَّذِي تَشَاهَرَتْ
جو تمام رسولوں پر گواہ ہیں

الَّذِي تَشَاهَرَتْ
عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ
جو منافقوں پر سخت ہیں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوسَّلُ بِهِ فِي حَضْرَتِكَ وَمَا

اے اللہ میں اُن کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اور جس محتاج

تُوسَّلُ بِهِ كُلُّ ذِي حَاجَةٍ إِلَى جَنَابِ قُدْسِكَ

نے اُن کو وسیلہ بنایا تیری بارگاہ اقدس میں تو نے واسل فرمایا اس کو

إِلَّا أَوْصَلْتَهُ إِلَى مَطْلُوبِهِ بِحَيْبِكَ الَّذِي قُلْتَ

اپنے مطلوب تک بطفیل اپنے حیب کے جنھیں تو نے فرمایا

لَهُ مِنْ لَدُنِّ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ الْأَرْضِينَ

عرش سے لے کر تھت ارضی تک

كُلِّ هُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ

سبھی مخلوق تیری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضامندی چاہتا ہوں

يَا مُحَمَّدٌ اللَّهُ هُوَ قَضَاءُ حَاجَتِي بِالنَّظَرِ

اے محمد اللہ میری حاجت کا پورا کیا جانا میری ہمت

إِلَى اللَّهِ وَمَرْتَبَتِي عَظِيمٌ لَا بِالنَّظَرِ إِلَى

و قوت و مقام و مرتبہ کی نسبت عظیم ہے نہ کہ تیری ذات کبریاء کی نسبت

ذَاتِكَ وَإِلَى الْوَسِيلَةِ الْعَظِيمِ فَأَعْطِنِي مَا

اور نہ اس عظیم وسیلہ کی نسبت سے پس مجھے عطا فرما

رَجَوْتُ مِنْكَ بِحُرْمَةِ أَمْرِهِ وَشَرَفِ حَالِهِ وَعِزِّهِ

جس کا میں تجھ سے امیدوار ہوں بطفیل اپنے محبوب کی حرمت شان شرف حال اور

وَمَنْصَبِهِ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ وَسَمَوْ قُدْرِهِ

عزت و منصب - علو مرتبت اور رفعت قدر و منزلت کے

وَأَرِنِي حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ مَعَ طَوْلِ الْعُمُرِ

اور دکھا دے مجھے اشیاء کے حقائق واقعہ بح درازی عمر کے

فِي مَحَبَّتِكَ وَالْإِسْتِقَامَةِ عَلَى شَرِيْعَةِ حَبِيْبِكَ

اپنی محبت میں اور صحیح استقامت کے اپنے حبیب کی شریعت پر جو واصل کرنے

الَّتِي تُوْصِلُ إِلَى التَّوْحِيدِ الْاِحْدِي بِحُرْمَتِهِ

توحید احدیت تک بطریق ان کی حرمت کے جو تیری بارگاہ

عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ اَجِبْ دُعَائِيْ فَاِنِّيْ مُتَوَسِّلٌ

میں ہے۔ اے اللہ میری دعا قبول فرما کیونکہ میں توسل کئے ہوئے ہوں

بِمَنْ تَجِيْبُ مَنْ يُّتَوَسَّلُ بِهِ اَنْ تَجْعَلَنِيْ

اس ذات سے کہ تو قبول فرماتا ہے کہ ان کے متوسل سے کہ بنا دے مجھے طویل

طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِي تَحْصِيْلِ الْكَمَالَاتِ الْاِنْسَانِيَّةِ

عمر والا کمالات انسانیہ عرفانیہ کے حاصل کرنے میں

الْحُرْفَانِيَّةِ وَاَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ

اور سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ بنائے مجھے دراز عمر والا بغیر

مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَفَقْرٍ وَفَاقَةٍ فِي سَبْأِ اَتِّبَاعِ

بیماری اور فقر و فاقہ کے اپنی شریعت و جامعہ

شَرِيْعَتِكَ الْجَامِعَةِ الْمَحْمَدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ

محمدیہ اکملیہ کی اتباع و پیروی میں۔

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ

سرور کونین ﷺ نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا عظیم کریم ہے
 فقر اور احتیاج کو روکنے والی ہے اور زمانے سے بچنے کی ہے۔ اس میں چھ باتیں
 ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرت میں وہ تین جو دنیا میں وہ یہ ہیں کہ اس
 سے تکلیف چلری آتی ہے اور دولت مندی چلی جاتی ہے اور رزق بند ہو جاتا
 ہے اور وہ تین جو آخرت میں ہیں وہ حساب کی برائی خدا کی ناراضگی اور
 آتش و دوزخ میں ہمیشہ رہنا یا اکیلا رہنا ہے۔ راوی نے شک کیا ہے۔

طیبہ کے ماہ تمام جملہ رسل کے امام
 نوشہرہ ملک خدا تم پہ کر دروں دروں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا ذِي الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِ الْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَكْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِفِينَ وَالْهَيْسَاءِ الْكَثِيرَةِ الْكَثِيرَاتِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْرَمَ الْكُرْمِ الْأَكْرَمِ الْمُقْتَرَبِ
عِنْدَكَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

مَجُوزِ الْقِبْلَتَيْنِ

دونوں قبلوں کے جائز رکھنے والے

عَلَيْهِمَا
السلام

جَدِّ السَّبْطَيْنِ

حسن و حسین رضی اللہ عنہما
کے نانا

عَلَيْهِمَا
السلام

مَجُوزِي
الْأَمَامَيْنِ

دونوں اماموں کے جائز رکھنے والے

عَلَيْهِمَا
السلام

حَاجِي
الْحَرَمَيْنِ

حرمین میں ٹھہرنے اور
قیام کرنیوالے

عَلَيْهِمَا
السلام

مُرْشِدِ الثَّقَلَيْنِ

جنوں اور انسانوں کے ہادی

قُرَّةِ الْعَيْنَيْنِ

دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک

عَلَيْهِمَا
السلام

الْمُقْصُودِ
مِنَ
الدَّارَيْنِ

دارین سے مقصود

عَلَيْهِمَا
السلام

الْقَائِمِ
بِصُورَتِهِ كُلِّ آيَةٍ

قائم ہے جن کی صورت کے طفیل ہر مکان

عَلَيْهِمَا
السلام

الْقَائِمِ
لِلْكَوْنَيْنِ

دونوں جہانوں کے
لئے موجب بقا

عَلَيْهِمَا
السلام

الْمُطْلُوبِ
فِي الْكَوْنَيْنِ

دونوں جہانوں میں مقصود

عَلَيْهِمَا
السلام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُحِبُّوْب
رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ

مشرقوں کے رب کے محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْبِجَامِعَةِ
لِكُلِّ عَيْنٍ

ہر عین و حقیقت کے لئے جامع

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مُحِبُّوْب
رَبِّ

الْمَغْرِبَيْنِ

مغربوں کے رب کے محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے نانا

أَمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

بیت المقدس اور بیت اللہ کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَمَامِ
الْحَرَمَيْنِ

حرم مکہ و مدینہ کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أُمَّامِ أَعْمَةٍ
الثَّقَلَيْنِ

آئمہ جن و انس کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أُمَّامِ الثَّقَلَيْنِ

جن و انس کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

خَيْرِ
الْفَرِيقَيْنِ

(عرب و عجم کے) دونوں فریقوں کے

مہتر اور سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

نَجَلِ الذَّبِيحَاتِ

دو ذبیحوں کے فرزند ارجمند

الْمَطْلُوبِ فِي الثَّقَلَيْنِ

جن دینس میں مطلوب

جَمَالِ الْكُونِينِ

کونین کا جمال

أَقْنَى الْعَرَبِينَ

اوپنی بینی والے

مَبَشِّرِ الْحَسْبِ

حضرت حسین علیہ السلام کو
بشارت دینے والے

السَّكَّانِ الْعَاهِنِ

خلائق کی آنکھ کی پستلی

مَثَبَاتِ الْقَدَمَيْنِ

پاؤں پر جمے رہنے والے

نَرَايِنِ نَرَايِنِ

ہر زینت والے کی زینت

قُرَّةِ الْعَيْنِ

آنکھوں کی ٹھنڈک

الْحَرَمَيْنِ

حرمین شریفین کے نبی

خِلاَصَةُ
الْكُونَيْنِ

کونین کا خلاصہ

صَاحِبِ
الدَّارَيْنِ

دارین کے مالک

قَرَّيْرُ
العَاصِيَيْنِ

آنکھوں کی ٹھنڈک

أَبْلَجُ
النَّارَيْنِ

واضح زینت والے

كَرِيْمُ الْعَنْصَرَيْنِ

دونوں پاکیزہ عنصروں والے

أَبْرَجُ الْعَاصِيَيْنِ

سچے آنکھوں والے

خَاطِرُ
الْفَرِيقَيْنِ

بہترین دونوں فریق (عرب و عجم) سے

صَالِتُ
الْجَبِينِ

کشتادہ پشانی والے

شَرِيفِ
الدَّارَيْنِ

دارین میں شریف
و بزرگ

حِيَاضِ الْكُونِ

موجودات کے حوض

صَافِي ۲
رَبِّ الْعَالَمِينَ
تمام جہانوں کے رب کے
مخلص دوست

مَحْرَضِ الْمُؤْمِنِينَ
مومنوں کو آمادہ کرنے والے

طَوِيلِ
النَّاتِدِينَ
دراز ہتھیلیوں والے

مُقَوِّ
الصِّدِّيقِينَ
حق کی تصدیق کرنیوالوں
کے مددگار

قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ
ایمان والوں کا سہارا اور بنیاد

رَجَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
ایمان والوں کی امید

خَيْرِ الْعَالَمِينَ
تمام جہانوں میں بہتر

بَعِيدِ
مَا بَيْنَ الْمُنْكَبَيْنِ
دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلے والے

مُقَرَّرِينَ
الْحَاجِبِينَ
مٹی ہوئی بھنڈوں والے

الْمُقَصَّدِ
فِي الدَّارَيْنِ
دارین میں مقصود

لَقِيَقِ الْحَاجِبِينَ

باریک ابروؤں والے



لَقِيَقِ الْعَرَبِينَ

ناک کے باریک بانے والے



خَطِيبِ
النَّبِيِّينَ

تمام انبیاء کے ترجمان



مُكِنِّ
الْمُتَوَاضِعِينَ

عاجزی کرنیوالوں کے سہارا



شَفِيعِ الْمَدِينِينَ

گنہگاروں کے لئے بہت زیادہ شفا کرنیوالے

سَهْلِ الْخَدَّيْنِ

نرم و گلاز رخساروں والے



رَحْمَةِ اللَّهِ
الْوَاسِعَةِ
عَلَى الْعَالَمِينَ

اللہ کی رحمت جو وسیع ہے
تمام جہانوں پر



رَحْبِ الرَّحَةِ

کُشَادَهٗ تَهْمِيلِي وَّلِي



الشَّشَنِ

پر گوشت تھمیلیوں والے



رَسُولِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ

رَبِّ الْعَالَمِينَ کے بھیجے ہوئے رسول



مَسَامِرُ
الْكَابِرِ الْمُقَرَّبِينَ

مقربین سے بلند ہمت

رَحِيمٌ
بِالْمُسْلِمِينَ

مسلمانوں پر بہت رحم کرنے والے

مُبَشِّرِ
الْأَسْيِئِينَ

ناامیدوں کو بشارت دینے والے

رِعَايَةِ
الْأَصْفِيَاءِ
الْمُقَرَّبِينَ

مقربین کی رعایت کا سرچشمہ

غَوَاثِ الْمَكْرُوبِينَ

مہصبت کے ماروں کے مددگار

الشَّافِعِ لِلْمَذْنُبِينَ

گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے

جَادِبِ
أَعْيُنِ أَرْوَاحِ

المُقَرَّبِينَ

مقربین کی دعوں کی لگاموں کو کھینچنے والے

خَيْرِ الرُّسُلِ
الْبَشَرِيِّينَ

جو بہتر ہیں تمام رسل بشری سے

خَيْرِ الْمُرَاقِبِينَ

بہتر ہیں مراقبہ کرنے والوں

كِفَايَةِ
الطَّالِبِينَ

طالبوں کی کفایت

غَايَةَ رَغْبَةٍ
السَّارِعِينَ

اہلِ رغبت کی رغبت کا منتہی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

قَائِدِ
الْمُجِبِّينَ

مجتبوں کے رہنما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

طَيِّبِ
الطَّيِّبِينَ

طیبین میں سے مختار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

أَطْيَبِ
الطَّيِّبِينَ

سب پاکیزہ لوگوں سے
پاکیزہ تر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

وَاضِحِ الْجَبِينِ

روشن پیشانی والے

وَاسِعِ الْجَبِينِ

کشادہ پیشانی والے

الْحَقِّ
الْمُبِينِ

واضح حق

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

الْمُبِينِ

ظاہری شریعت والے

أَمَامِ
السَّارِعِينَ

رغبت الی اللہ رکھنے والوں
کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

غَوْثِ
الْمُدْنِيِّينَ

گناہ گاروں کے فریادرس

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ التَّوَابِيْنِ
توبہ کرنے والوں کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ الطَّيِّبِيْنَ
طیبین کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ الْمُقَرَّبِيْنَ
مقربین کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ الرَّاہِبِيْنَ
اہل خوف کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ الْمُقَرَّبِيْنَ
دینِ نبیین کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ الْغُرَبَاۗئِيْنَ
غریبوں کے غمِ خوار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ اَقْرَبِ الْمُقَرَّبِيْنَ
سب سے زیادہ مقرب خداوندی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ الْمَرْفُوعِ الذِّكْرِ
جن کا ذکر مقرب فرشتوں میں بلند ہوا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ رَاۗحَةِ الْغُرَبَاۗئِيْنَ
غریبوں کیلئے راحت


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ ذِي الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ
روشن کتاب والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اِمَامِ الْمَرْفُوعِ الذِّكْرِ فِي الْمَلٰٓئِكَةِ
مقربین فرشتوں میں بلند ہوا





اللہ تعالیٰ

وَقَارِ الْمُتَوَاضِعِينَ

عاجزی کرنیوالوں کی عزت

اللہ تعالیٰ

خَيْرِ الْقَانِعِينَ

بہترین قناعت کرنیوالوں سے

اللہ تعالیٰ

مُحَاحَةِ وَجْهِهِ

خشوع کرنیوالوں کے چہروں کا حُسن

اللہ تعالیٰ

الْمَسَاءِ الْمُعِينِ

جاری چشمہ

اللہ تعالیٰ

الْمُخْلِطِ لَدَيْكَ

اجمعیوں

بہتر و برتر تمام مخلوق سے

اللہ تعالیٰ

الْمَسَامِ

امام

اللہ تعالیٰ

الْمُسْتَكِينِ

مکروغ کرنیوالوں کے امام

اللہ تعالیٰ

الْمَسَامِ

امام

اللہ تعالیٰ

الْمُسْتَكِينِ

امام القانعین

اہل قناعت کے امام

اللہ تعالیٰ

الْمُسْتَكِينِ

امام القانعین


اہل قناعت و خضوع کے امام

اللہ تعالیٰ

الْمُسْتَكِينِ

امام القانعین

اہل قناعت و خضوع کے امام



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَخْلَصَ

الْمُخْلِصِينَ

سب مخلصین سے زیادہ مخلص

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَغْرَى

الْغَاغِرِينَ

سب غازیوں سے بڑے غازی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سِرَاجِ

الْعَالَمِينَ

سب جہانوں کے چراغ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

قِبْلَةَ

الْمُخْلِصِينَ

مخلصین کا قبلہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أُمَامِ الْفَاكِرِينَ

کامیاب ہونیوالوں کے امام

السَّابِقِ بِالدِّينِ

دین کے ساتھ سابق

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَعْرَفِ

الْمُعْرَفِينَ

سب زیادہ جانے پہچانے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أُمَامِ

الْمُخْلِصِينَ

مخلصین کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

هَدَايَةِ

الْحَاكِمِينَ

حیران پھرنے والوں کی ہدایت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَشْرَفِ

الْمُشْرَفِينَ

تمام عزت والوں سے زیادہ عزت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَوَّلِ
الْمُسْلِمِينَ

سب سے پہلے مسلمان

الْأَمِينِ

امین

مُظَهَّرِ رِضَاءِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ

رَبِّ الْعَالَمِينَ کی رضا کے مظہر

رَحْمَةِ اللَّهِ
الْجَامِعَةِ
لِلْعَالَمِينَ

اللہ کی رحمت جو محیط ہے
تمام جہانوں کو

رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ

جہانوں کے لئے رحمت

رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

رَبِّ الْعَالَمِينَ کے پیغمبر

الْمَوْجِدِ
بِالرُّوحِ
الْأَمِينِ

روحِ امین کے ساتھ تائید
کئے گئے

أَفْضَلِ
الْعَالَمِينَ
عَلَى الْعَالَمِينَ


تمام جہانوں کے اربابِ فضیلت
سے افضل

الضَّامِنِ

امت کے ضامن

مُفْرِحِ
الْمُؤْمِنِينَ

غمزدوں کو فرحت بخشنے والے



ظاہری بِالْبُرْهَانِ
دلیل کے ساتھ ظاہر

الدَّاعِيَ إِلَى الْإِيمَانِ
ایمان کی طرف بلائی والے

مُبْلَغٌ إِلَى الْجَنَانِ
جنتوں کی طرف پہنچانے والے

دَافِعُ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ
کفر و سرکشی کو دور کرنے والے

الْمُنْجِي عَنِ النَّيْرَانِ
دوزخ سے نجات دینے والے

مُعْتَدٍ فِي كُلِّ مَكَانٍ
ہر مکان میں تعریف کئے گئے

مُرْتَبِي إِلَى الْخَيْرِ
بھلائی اور احسان کی طرف ترغیب دینے والے

مُؤَيِّدٌ بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ
کتاب میں کے ساتھ تائید کئے گئے

الْحَسَانِ
توکل پر ثبات قدم

حَقِّ الْيَقِينِ
انبیاء مکرہین کا حق یقین

الثَّابِتِ عَلَى التَّكْلَانِ
توکل پر ثبات قدم

خَيْرَةُ اللَّهِ مِنْ
الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ

اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق
سے بہترین

عَلَيْهِ السَّلَام

أَمَامِ
الْخَائِفِينَ

اللہ کا خوف رکھنے والوں کے امام

عَلَيْهِ السَّلَام

اللَّهُمَّ إِنِّي

اللَّهُمَّ إِنِّي

اللہ! میں تجھ
سے نیک کاموں کے کرنے

الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ

اور برے کاموں کو چھوڑنے

الْمُنْكَرَاتِ وَحُبِّ الْمَسْكِينِ وَأَنْ تَخْفِرَ لِي

کی توفیق اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق چاہتا ہوں اور یہ کہ تو مجھے

وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي

بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور یہ کہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھ کو

غَرَمَفْتُونَ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ

اس آزمائش میں ڈالے بغیر ہی (دُنیا سے) اٹھالے۔ اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی

مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ

کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت جو تیری محبت سے

إِلَى حُبِّكَ

قریب کر دے مانگتا ہوں

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيدُ يَا كَرِيمُ يَا ذِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ مَوْعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ مَوْعِ
الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِحَاوِلِ الْمُحْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِفِينَ وَأَلَمِ وَسْأَلِهِ تَعْبِيرِ الْكَبِيرِ الْكَبِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْرَمِ الْكِرَامِ الْمَكْرَمِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>ظہارِ نفوس العابدين</p> <p>عبادت گزاروں کے نفسوں کی پاکیزگی</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>	<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>خيار الدين محبين منتخب اور مختار</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>	<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>ہماتہ نشاطِ العابدین</p> <p>عبادت گزاروں کی روحانی مسرت کی طاقت</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>
<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>فخر النراہمدين</p> <p>دُنیا سے بے رغبتی کرنے والوں کا فخر</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>	<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>حباب الدین</p> <p>دین و مذہب کے بانی</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>	<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>مکفأ الموحدین</p> <p>توحید والوں کی صفائی</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>
<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>خیر المشاہدین</p> <p>بہتر ہیں تمام مشاہدہ کرنے والوں سے</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>	<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>خیر النراہدین</p> <p>بہتر ہیں تمام زہد والوں سے</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>	<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>مقعد الصدق للمہتدین</p> <p>ہدایت پانے والوں کے لئے مجلسِ صدق</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>
<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>ظہارِ سرائر الموحدین</p> <p>توحید پرستوں کے راز نامے سر بستہ کی طہارت</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>	<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>خیر الموحدین</p> <p>بہتر و برتر ہیں اہل توحید سے</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>	<p>اللہم صل علیٰ موسیٰ و آلہ و سلم</p> <p>مقعد الصدق للمہتدین</p> <p>ہدایت پانے والوں کے لئے مجلسِ صدق</p> <p>صَلِّ عَلَى مُوسَىٰ وَآلِهِ وَسَلِّمْ</p>

اللہم صل علی

مُرَشِدِ

الْمُسْتَرَشِدِينَ

ہدایت طلب کرنیوالوں کے ہادی

اللہم صل علیہم

اللہم صل علی

قَائِدِ الزَّاهِدِينَ

زاہدوں کے رہنما

اللہم صل علیہم

اللہم صل علی

خَيْرِ مَنْ

شَهْرِ الدِّينِ

بہتران سے جنھوں نے دین کی شہیر کی

اللہم صل علیہم

اللہم صل علی

هَادِي

الْمُهْتَدِينَ

ہدایت یافتگان کے ہادی

اللہم صل علیہم

اللہم صل علی

فَائِدِ

الْمَوْجِدِينَ

توجہ دہانوں کے رہنما

اللہم صل علیہم

اللہم صل علی

عَيْنِ يَقِينِ

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

خلفاء راشدین کا وسیلہ عین یقین

اللہم صل علیہم

اللہم صل علی

مُبَارِكِ الدِّينِ

مبارک دین والے

اللہم صل علیہم

اللہم صل علی

نَاصِرِ الدِّينِ

دین کے مددگار

اللہم صل علیہم

اللہم صل علی

شِهَابِ

الدِّينِ

دین کے روشن ستارے

اللہم صل علیہم

اللہم صل علی

تَمَامِ الدِّينِ

دین کو مکمل کرنے والے

اللہم صل علیہم

اللہم صل علی

جَامِعِ

شَمْلِ الدِّينِ

دینی فضائل کے جمع کرنے والے

اللہم صل علیہم

<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِمَامِ الْمُجَاهِدِينَ مُجَاهِدِينَ كَ إِمَامِ</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا عَلَمِ الدِّينِ دِينَ كَ عَسَمِ</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا نَاطِرِ عَيْنِ الدِّينِ دِينَ كِي آنِجْ كِي پُتْسِي</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِمَامِ دِينِ حَضْرَةَ الْمَشَاهِدِ إِمَامِ اہل شہود کے مقام مشاہد کے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِمَامِ دِينِ أَحْمَدِ الْحَامِدِينَ تہام حمد کر نیوالوں سے بڑے حامد</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِمَامِ الْمُهْتَدِينَ ہدایت یافتہ حضرات کے امام</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِمَامِ الزَّلَامِدِينَ زاہدوں کے امام</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِمَامِ دِينِ</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِمَامِ الْمُؤِيدِينَ اسلام کی تائید کر نیوالوں کے امام</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِمَامِ الْمُتَعَبِدِينَ عبادت گزاروں کے امام</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِمَامِ دِينِ ساجدین کے امام</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِمَامِ الْمُوَحِّدِينَ ارباب توحید کے امام</p>

اللہم صل علی محمد و آلہ
أَجْوَدِ الْجَوْدِينَ
 تمام اہل سخاوت سے زیادہ سخی
 اللہم صل علی محمد و آلہ
نُورِ الْحَامِدِينَ
 حمد کرنے والوں کے لئے نور
 اللہم صل علی محمد و آلہ
أَسْجَدِ السَّجَادِينَ
 سب سے زیادہ سجدے کرنے والے

اللہم صل علی محمد و آلہ
رَأْسِ الْمُحْمَدِينَ
 حمد کئے ہوؤں کے سردار
 اللہم صل علی محمد و آلہ
رَأْسِ الْحَامِدِينَ
 حمد کرنے والوں کے سردار
 اللہم صل علی محمد و آلہ
فَاهِرِ الْكُفْرَانِ
 کافروں پر قہر فرمانے والے

اللہم صل علی محمد و آلہ
نُورِ الْمُرْشِدِينَ
 مُرْشِدِينَ کے نور
 اللہم صل علی محمد و آلہ
خَطِيبِ الْوَافِدِينَ
 وفود کی طرف خطیب

اللہم صل علی محمد و آلہ
أَقْلِ الْعَابِدِينَ
 بندگی کرنے والوں سے مقدم
 اللہم صل علی محمد و آلہ
عَظِيمِ السَّاعِدِينَ
 عظیم کلاسیوں والے
 اللہم صل علی محمد و آلہ
صَلِيبِ الدِّينِ
 دین میں پختہ

مُصْبِح

المُفَكِّرِينَ

غور و فکر کرنیوالوں کے چراغ

خَيْرُ

الشَّاكِرِينَ

بہتر ہیں شکر
کرنیوالوں سے

مُجِيب

المُضْطَرِّينَ

مجبوروں کی حاجات
پوری کرنے والے

أَنْوَارِ الْمَحَبَّةِ

فِي قُلُوبِ الذَّاكِرِينَ

ذکر کرنیوالوں کے دلوں میں محبت
کے انوار کا فیض

خَيْرُ

الصَّابِرِينَ

بہتر ہیں صبر کرنیوالوں سے

قِبَلَةِ الرَّحْمَاتِ

الْحَائِرِينَ

حیرت والوں کیلئے رحمتوں کا قبلہ

قَائِدِ الصَّابِرِينَ

صبر کرنیوالوں کے قائد

أَشْرَفِ الذَّاكِرِينَ

سب ذاکرین سے افضل

خَيْرِ الْأَوَّلِينَ

وَالْآخِرِينَ

اولین و آخرین کے مختار

كثِيرُ

النَّاصِرِينَ

زیادہ ساتھیوں
والے

طَاهِرِينَ

الطَّاهِرِينَ

طاہرین کے سردار

اِمَامِ الْمُهَاجِرِينَ

مہاجرین کے امام

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اِمَامِ الصَّابِرِينَ

صبر کرنے والوں کے امام

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اِمَامِ الْمُسْتَغْفِرِينَ

اپنی استغفار کے امام

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

خَيْرِ

الْاٰخِرِيْنَ

تمام آخِرین سے بہتر و برتر

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اِمَامِ الذَّاكِرِيْنَ

ذاکرین کے امام

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اِمَامِ الطَّاهِرِيْنَ

طاہرین کے امام

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اَفْضَلِ الْاٰخِرِيْنَ

سب آخِرین سے افضل

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اَصْبَرَ الصَّابِرِيْنَ

تمام صبر کرنے والوں سے زیادہ صبر کرنے والے

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

مُهَيِّدِ الْكٰفِرِيْنَ

کافروں کو ہلاک کرنے والے

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

دَلِيْلِ

لِلْمُتَّحِرِيْنَ

حیرت میں ڈوبے ہوؤں کے رہنما

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

مُؤَيِّدِ

لِلْمُسْتَبْصِرِيْنَ

بصیرت کے طلب گاروں کے لئے نور

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُدَدِ الْعَارِفِينَ فِي رَوْضَةِ التَّمِيمِينَ</p> <p>تمکین کے باغ میں عارفوں کی مدد</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُمَهِّلِ الْكَافِرِينَ</p> <p>کفار کو نہلت دینے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَادَةِ الْإِبْدَاعِ وَالتَّكْوِينِ</p> <p>ایجاد و تکوین کا جوہر اصلی</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُنْذِرِ الْمُشْرِكِينَ</p> <p>مشرکوں کو ڈرانے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَائِدِ الْمُسَاكِينِ</p> <p>مسکینوں کے پیشوا</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رِجَاحَةِ عَقُولِ السَّالِكِينَ</p> <p>ساکلوں کی عقلوں کی قوت</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّمِيمِينَ</p> <p>صاحبِ تمکین</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَائِدِ السَّالِكِينَ</p> <p>ساکلوں کے پیشوا</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُعْرِضِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ</p> <p>مشرکوں سے اعراض کرنے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُؤَدِّ الْهَالِكِينَ</p> <p>ہلاکت زدہ لوگوں کو بچانے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَأْوَى الْمُسَاكِينِ</p> <p>مسکینوں کا سہارا</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعْرِضِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ</p> <p>مشرکوں سے اعراض کرنے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِهِ</p>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سِرَاجِ
السَّالِكِينَ

ساکین کے چراغ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَلَّةِ
التَّكْوِينِ

ایجادِ کونین کی علت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَاحِصِ حَاجَةِ
الْمُسَاكِينِ

مسکینوں کے احوال کی خبر رکھنے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

العَبْدِ
الْمُسْكِينِ

مسکین بندے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السُّكَّيْنِ
السُّكَّيْنِ

مسکین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَاجِ مَمْلُوكَةٍ
التَّامِكِينَ

مملکت تمکین کے تاج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَلْبِ يَسِينِ
سُورَةِ يَسِينِ كَيْ دَلِ

سورة یسین کے دل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَلَاكِ
الْمُرْسَلِينَ

رسولوں کے لئے

سراسر امداد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُقَاتِلِ
الْمُشْرِكِينَ

مشرکوں سے جہاد کرنے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

النُّورِ الْفُرْقَانِيِّ
لِلْمُرْسَلِينَ

رسولوں کے لئے حق و باطل میں

فسق کرنے والے نور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِلِي

مَقَدِّمِ عَسْكَرِي

سَادَاتِ الْمُرْسَلِينَ

پیش رو ہیں اکابر رسولوں کے لشکر کے

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِلِي

خَاتَمِ

الْمُرْسَلِينَ

رسولوں کو ختم کر نیوالے

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِلِي

نُورِ بَصِيرَةٍ

الْوَاصِلِينَ

واصلانِ درگاہ کا نورِ بصیرت

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِلِي

جَامِعِ الْجَبِّيَّتِ

الْوَاصِلِينَ

واصلین حق کے لئے جامع تجلیات

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِلِي

الْعَامِلِينَ

تمام عاملوں کے امام

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِلِي

سَيِّدِ الْحُكَّامِ

الْعَادِلِينَ

عدل کرنے والے حاکموں کے سردار

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِلِي

هِدَايَةِ السَّائِلِينَ

سوالیوں کی ہدایت

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِلِي

خَيْرِ

الْمُتَوَكِّلِينَ

بہتر ہیں توکل کرنے والوں سے

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِلِي

الْآخِرَةِ ظُهُورًا

فِي الْمُرْسَلِينَ

ظہور کے لحاظ سے رسولوں میں آخر

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِلِي

غَايَةِ مُنْتَهَى

السَّائِلِينَ

تمام سائلین کے منتہی مقصود

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

خَيْرُ
الْكَامِلِينَ

بہتر ہیں اہل کمال سے

خَيْرُ
الْمُكْمَلِينَ

بہتر ہیں مکمل کرنے والوں سے

تَمَامُ
عَدَّةِ الْمُرْسَلِينَ

مُرسلین کی گنتی کو مکمل کرنے والوں کے سردار

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَائِدِ الْغُرَى
الْمُحَاجِلِينَ

روشن پشانی اور اعضاء والوں کے قائد

قَائِدِ
الْمُرْسَلِينَ

پیغمبروں کے راہنما

خَيْرُ
الْوَاصِلِينَ

بہتر ہیں واصلین سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نُورِ الْعَامِلِينَ

اہل اعمال صالحہ کے نور

إِمَامِ الْمُرْسَلِينَ

سب رسولوں کے امام

أَفْضَلِ
الْفَاضِلِينَ

سب فضیلت والوں سے زیادہ فضیلت والے

أَمْسَلِ
الْوَاصِلِينَ

واصلین الہی کے امام

خَيْرِ الْأَوَّلِينَ

تمام اولین سے بہتر و برتر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

يَعْسُوبِ
اسرارِ الواصلين

اسرارِ واصلین کے رئیس و امیر

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اَفْضَلِ
الاولين

تمام اولین سے افضل

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

شَهِيدِ الْمُرْسَلِينَ

تمام رسولوں کے گواہ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

قُوْتِ نَرَادِ
الصَّاعِيْنَ

روزہ داروں کا رخت سفر

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

حَمِي
المُسْلِمِينَ

مسلمانوں کا سرمایہ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

مِرَاةِ اَوْلِيَ الْعِزْمِ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ

اولو العزم رسولوں کے آئینہ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ

مومنین کے آقا و مولیٰ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

سَعْدِ الْعَالَمِينَ

سب جہانوں کی سعادت عظمیٰ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

عِصْمَةِ
المُعْتَصِمِينَ

دبستان کا بچاؤ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

مُكْرَمِ
الاکْرَمِينَ

اربابِ کرامت کو کرامت و بزرگی بخشنے والے

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

الاول نوراً
في العالمين

نور کے اعتبار سے جہانوں میں اول

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّحْمَةِ جہانوں کے لئے بھیجی گئی رحمت</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَرَّيْنِ عالمین کی زینت</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّحْمَةِ سب جہانوں کے لئے بہت بڑی نعمت</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قِبْلَةِ جَمِيعِ تمام جہانوں کا قبلہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَكْرَمِ عزت و کرامت والوں کے تخت جگر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رِئِيسِ اہل یمین کے سردار</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أُمَّامِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے امام</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أُمَّامِ قیام کرنے والوں کے امام</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَلِيِّ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے دوست</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أُمَّامِ الْمَكْرَمِينَ مکرمین کے امام</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أُمَّامِ تمام جہانوں کے درمیان</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بَرْزَخِ بَيْنِ برزخ</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ الْمُسْتَأَقِينَ إِلَى لِقَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سردار شوق رکھنے والوں کے طرف
رَبِّ الْعَالَمِينَ کی ملاقات کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

إِمَامِ الْمُتَّقِينَ

اہلِ سبقت کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

أَنْعَمِ الْمُنْعَمِينَ

سب انعام کرنیوالوں سے زیادہ انعام
کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

رَبِّ الْعَالَمِينَ کے محبوب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

إِمَامِ الْعَالَمِينَ

اہلِ عِصْم کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الْمُضِيِّ لِلْعَالَمِينَ

تمام جہانوں کو روشن کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

إِمَامِ الْعَالَمِينَ

تمام جہانوں کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

أَكْرَمِ الْأَكْرَمِينَ

تمام عزت والوں سے عزیز تر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

كَحُبَّةِ الطَّائِفِينَ

طواف کرنے والوں کے کعبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قَبْلَةِ الْعَارِفِينَ

اہلِ عِرْفَان کے
قبلہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قُرَّةِ عَيْنِ الْعَارِفِينَ

عارفوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مُرَوِّقٍ بِالْيَقِينِ

یقین کے ساتھ آراستہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مُدْجَاءِ الْعَارِفِينَ

عارفوں کا سہارا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
طَبْرًا تَقِيًّا
لِلْعَارِفِينَ

عرفاء کے لئے صراطِ مستقیم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
صَاحِبِ حَقِّ
الْيَقِينِ

حق یقین والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
عَلَمِ
الْيَقِينِ

یقین کا جھنڈا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
صَاحِبِ
عَيْنِ الْيَقِينِ

عین یقین والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِمَامِ الصِّدِّيقِينَ

صدیقوں کے پیشوا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِمَامِ الْمُتَّقِينَ

پرہیزگاروں کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
مُقَامَاتِ الْيَقِينِ

یقین کے اعلیٰ مراتب میں مشاہدہ کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِمَامِ
الصَّادِقِينَ

سچوں کے امام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
حُجَّةِ الْيَقِينِ

یقین والوں کی دلیل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>لِبَاسِ النُّقْوَى وَالْمُتَّقِينَ</p> <p>متقین کے لئے نقوی کا لباس</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>	<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>خَيْرِ الْمُتَّقِينَ</p> <p>بہترین متقین</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>	<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>سِدْرَةَ مُنْتَهَى الصِّدِّيقِينَ</p> <p>صدیقوں کا سدرۃ المنتہی</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>
<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>قُدْوَةَ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ</p> <p>اگلے اور پچھلوں کے مقتدا</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>	<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>رَأْسِ الصِّدِّيقِينَ</p> <p>صدیقین کے سردار</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>	<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>شِعَاعِ نُورِ الْيَقِينِ</p> <p>نور یقین کی شعاع</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>
<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>وَلِيِّ الْمُتَّقِينَ</p> <p>متقیوں کے دوست</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>	<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>صَاحِبِ الْيَقِينِ</p> <p>صاحب یقین</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>	<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>رُوحِ الْمُرْسَلِينَ</p> <p>مہینوں کی رُوح</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>
<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>مُحِبِّبِ الْعَالَمِينَ</p> <p>عالموں سے محبب</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>	<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>بَلَدِ الْمَحْمُودِينَ</p> <p>حمد کرنے والوں کے ماہ تمام</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>	<p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p> <p>رُوحِ الْمُرْسَلِينَ</p> <p>مہینوں کی رُوح</p> <p>اللہم صل علیٰ سیدنا محمد و آلہٖ الطیبین</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

قُرَّةُ عَيْنٍ

السَّالِكِينَ

سالکوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

نُورِ عَيْنٍ

الْعَاشِقِينَ

عاشقوں کی آنکھوں کا نور

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

رَيْسِ

الْمُتَوَكِّلِينَ

متوکلین کے رئیس

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

مَاحِي الْبِدْعَةِ

وَالْحَصِيَّانِ

بدعت اور گناہوں کو مٹانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

مَلِيحٍ

الْوَجْهِ وَاللِّسَانِ

مليح چہرے اور زبان والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

مُؤَيَّدِ بِالرُّوحِ

الْأَمِينِ

روح امین کے ساتھ تائید کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

حَبِيبِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِينَ

ارحم الرحیمین کے حبیب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

وَالْهَبِ الْوَلُوءَ وَالْمَرْجَانَ

موتی اور مرجان عطا کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

مُتَقَرَّبِينَ إِلَى عِزِّكَ يَا قَرِيبُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

الْمَرْفُوعِ

السَّانِ

بلند شان عظیم شان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

أَمَانَ الْهَلِكِ الْبَلِيغِ

سِرِّ الْوَاصِلِينَ

بناگ برونے والوں کی امان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

<p>مُشْكِلٌ وَالْمِيزَانُ</p> <p>مُشْكِلٌ میزان کو ہکا کر نیوالے</p>	<p>مُؤْنِسٌ وَالْإِنْسَانُ</p> <p>مُؤْنِسٌ انسان کو انس دینے والے</p>	<p>هَادِيٌ وَالْإِنْسُ وَالْجَائِكُ</p> <p>هَادِيٌ جنوں و انسانوں کو ہدایت دینے والے</p>
<p>مَشْهُودٌ فِي الْبُلْدَانِ</p> <p>مَشْهُودٌ شہروں میں گواہی دینے گئے</p>	<p>عَدِيْمٌ وَالْأَقْرَانُ</p> <p>عَدِيْمٌ بے مثال زمانوں والے</p>	<p>مَكْتَمٌ بِالرُّوحِ وَالرَّيْحَانُ</p> <p>مَكْتَمٌ بِالرُّوحِ روح و ریحان کیساتھ عزت دینے گئے</p>
<p>غَالِبٌ بِالسُّلْطَانِ</p> <p>غَالِبٌ بادشاہت کے ساتھ غالب</p>	<p>رَسُوْلُ الْمَلِكِ الدِّيَانِ</p> <p>رَسُوْلُ الْمَلِكِ الدِّيَانِ مہربانی فرمایا نیوالے بادشاہ کے سول</p>	<p>كَلِمَةُ الْمَلِكِ</p> <p>كَلِمَةُ الْمَلِكِ اصان فرمایا نیوالے بادشاہ سے کلام</p>
<p>حَاكِمٌ حَسْبُ الْمَعْرِفَةِ</p> <p>حَاكِمٌ حَسْبُ الْمَعْرِفَةِ حاکم کے ہوتے علم کے ہوتے</p>	<p>كَلِمَةُ الْإِحْسَانِ</p> <p>كَلِمَةُ الْإِحْسَانِ عام احسان فرمانے والے</p>	<p>كَلِمَةُ الْمَلِكِ</p> <p>كَلِمَةُ الْمَلِكِ اصان فرمایا نیوالے بادشاہ سے کلام</p>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

حَبِيبِ النَّاصِرِينَ

ساتھیوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

فَخْرٍ الدِّينِ

دین کا فخر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

فَاهِرِ الْكَافِرِينَ

کافروں پر قہر فرمانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

قَبْلَةَ السَّالِكِينَ

ساکین کے قبلہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نَاصِرِ الْوَافِدِينَ

دُفود کے مددگار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

وَلِيِّ الْمُؤَيَّدِينَ

تائید کرنے والوں کے دوست

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مُنْذِرِ الْكَافِرِينَ

کفار کو ڈرانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نُورِ الْآخِرِينَ

آخرین کے لئے نور

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللَّهُمَّ

نُرِدُّ نَاوِلَاتِنَا وَقَصْنَا وَكْرَمْنَا وَلَا تَهْلِكْنَا وَأَعْطْنَا

تو ہماری نیکیاں زیادہ فرما اور کم نہ فرما، اور تو ہمیں عزت عطا فرما اور ذلیل و خوار نہ کر اور تو ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما اور محروم نہ کر اور تو ہمیں ہی ترجیح دے اور ہم پر (کسی اور کو) ترجیح نہ دے اور تو ہم کو بھی راضی

آمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

کرنے اور تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔

سرور کونین ﷺ نے فرمایا! اے علی! چغلی سے بچ کیونکہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اے علی! اپنی زبان کو قابو میں رکھ اسے خیر کی عادی بنا، کیونکہ انسان کے لئے قیامت کے دن زبان سے زیادہ خطرناک شے اور کوئی نہیں۔ اے علی! جھگڑے بازی سے بچ کیونکہ یہ موجب پریشانی ہے۔ اے علی! حسد سے بچ کیونکہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔

خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم
تم سے ملا جو ملا تم پہ کر دروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قُدُّوسُ يَا بَدِيعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ مَوْجِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ مَوْجِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ الْفَاسِ الْذَاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَآلِهِ وَسَلِّمْ عَلَى الْكَلْبَاءِ الْكَثِيرَةِ الْكَثِيرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُرْهُ الْكُرْبَ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

نہایتِ یقین
یقین کی انتہا

قِدْوَةُ الْمُتَّقِينَ

متقین کے مقتدا

عقلمندی
عقلمندی کی بشارت

زُلفِ الْمُتَّقِينَ

متقیوں کیلئے موجبِ قرب

نَيْجَةُ الْيَقِينِ

نیجہ یقین

إِمَامِ الْمُؤَفَّقِينَ

اہلِ توفیق کے امام

عالمِ اہلِ یقین
عالمِ اہلِ یقین کی دنیا

عالمِ الصَّادِقِينَ

عالمِ الْمُتَّقِينَ

مراۃ العاشقین
عاشقوں کی راحت

أَسْوَةٌ الْمُرْسَلِينَ

مرسلین کا نمونہ

مَأْوَى الْعَاشِقِينَ

عاشقوں کی جائے پناہ

عَيْنِ الْيَقِينِ

یقین کی آنکھ کی ٹھنڈک

سید الخاضعین
سید الخاضعین
سید الخاضعین

الْمَنْطِقُ بِمَا
أَرْسَلْنَاكَ الْأَرْحَمَ لِلْعَالَمِينَ

جن سے کہلوایا گیا نہیں بھیجا مگر آپ کو سراپا رحمت تمام
جہانوں کے لئے

سید العالمین
سید العالمین
سید العالمین

سید
الأعلمین

زیادہ جاننے والوں کے سردار

صَاحِبِ الْقِبْلَتَيْنِ
وَالْمَسْجِدِ الْجَدِيدِ

دو مسجدوں اور دو قبلوں والے

مفاضلین
الجبابین

برابر پیشانی والے

سید الخاضعین
سید الخاضعین
سید الخاضعین

صَاحِبِ الْمَقَامَيْنِ
وَالْمَقَامَيْنِ

دو مقاموں اور دو مقاموں والے

سید الخاضعین
سید الخاضعین
سید الخاضعین

سید الخاضعین
سید الخاضعین
سید الخاضعین

كَلِمَاتِ
الْكُونَيْنِ

تکمیل کائنات

مَرْمَى أَبْصَارِ الْمَوْجِدِ

موجدین کی آنکھوں کے ہدف (نشانہ)

صَاحِبِ الْمُقَامَيْنِ
وَالْحَرَمَيْنِ

دو حرمین اور دو مقاموں والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

الَّذِي بِهِ عِزُّ الْمُؤَحَّدُونَ

جس کے ساتھ موحدین کو غلبہ ہے

مَا تَلَا الْقُرْآنَ بَعْدَ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

قَائِدِ الْعِزِّ الْمَحْجَلِينَ

روشن پیشانی والوں کے پیشوا

الْبَاطِنِ بِلَكْنِهِمْ

عَنْ أَدْرَاكِ الْأُولَى وَالْآخِرِينَ

جن کی اصل اولین و آخرین کے ادراک باہر ہے

مِرْكَزِ إِحَاظَةِ الْبَاطِنِ

باطن کے احاطہ کے مرکز

فَكَأَنَّ مَدِينَةَ الْحَقِّ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

أَعْلَى النَّاسِ

ان کے اعتبار سے لوگوں میں بلندتر

أَعْلَى النَّاسِ

ان کے اعتبار سے لوگوں میں بلندتر

مُطَهَّرِ تَبَوُّدِ الْبَاطِنِ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مَنْهَجِ طَرِيقِ الرَّحْمَنِ

رستے کے رستے کا ماہرنگ

الظَّالِمِ بِنُورِهِ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ

جو اپنے نور کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں میں عیاں ہے

الْمُتَلَذِّذِ الرَّحْمَنِ

رحمان کی توجید کی لذت لینے والے

صاحبِ جلال
بیتِ رضوانِ والا
والصالحی

صَاحِبِ
تَسْبِيحِ الرَّحْمَنِ
فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ

صاحبِ الامکان
والصالحی

صاحبِ الشفاعة
عند المیزان

میزان کے قریب شفا
فرمانے والے
والصالحی

اللَّهُ تَحَقَّقْ بِجَمِيعِ
كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ

قرآنِ ناطق (تصویرِ قرآن)

المغموس في انهار
الرضوان

رضوان کے دنوں
میں پوشیدہ
والصالحی

صاحبِ جلال
والصالحی

صاحبِ جلال
موزوں والے
والصالحی

صاحبِ جلال
موزوں کے درمیان پروردگار
والصالحی

صاحبِ جلال
مبجاء العاجزین
انگاری کرنے والوں کے لئے پناہ گاہ
والصالحی

عبد العصد
والذراعین
پر گوشت کلاہوں اور
بازوؤں والے
والصالحی

شش الكفین
والقدماتین
پر گوشت ہتھیلیوں اور قدموں والے
والصالحی

مؤطن
خيرات
المسكين
مسطی کی عطاؤں
کے مرکز
والصالحی

عَبْدُ الدَّارِ الْبَيْنِ
 وہ ہے جو سب سے زیادہ باوقوف و پارسا ہے۔

تَوَارِعُ الْعَيْنِ بَيْنَ
 دونوں آنکھوں کے درمیان سے نوزاد ہونے والے۔

الْقَابِضُ عَلَى كُلِّ مَفَاتِيحِ الْخُرَائِنِ
 خزانوں کی تمام کنجیوں کے مالک۔

كَيْفِ لِلْمُسَاكِينِ
 مسکینوں کی کفالت کرنے والے۔

مَأْجَا الْمُسَاكِينِ
 مسکینوں کے لئے پناہ گاہ۔

اللَّهُ الَّذِي مَنَّكَهُ
 وہ جسے اللہ نے خلقِ حسن عطا کیا۔

مَنْعَ الْبُحْرِ
 بحر سے روکنا۔

مَنْعَ الْفَقْدِ مَيْتِنِ
 مہتمم قدموں والے۔

مَنْعَ شَقَائِلِ الدِّينِ
 دین کی خصوصیات سے بچانے والے۔

مَنْعَ الْعُرْضِ كَرِيْنِ
 دنیا پر نہ لانے والے۔

مَنْعَ الْبُحْرِ
 بحر سے روکنا۔

جَامِعُ شَقَائِلِ الدِّينِ
 دین کی خصوصیات کے جامع۔

انْقَارِ الْهَالِكِينَ
 ہلاک ہونے والوں کے لئے ذریعہ نجات۔

الشَّافِعِ
 دوزخ سے بچانے والے صاحب شفاعت۔

مَنْ النِّيْرَانِ
 دو درختوں سے بچانے والے صاحب شفاعت۔

روح الامیدان
بروز کی امید
روح الامیدان

جَامِعٌ لِّشَمَلِ الْمُسْرِقِينَ

بجھرے ہوؤں کے معاملات کو جمع کر نیوالے

عالمی شہرت
دین و دنیا کی شہرت
عالمی شہرت

مُغِيثٌ
لِلْمُسْتَخِيثِينَ

فریادیوں کے
فریاد رس

رَأْفَةٌ لِلْمُسْتَزِفِيْنَ

شفقت چاہنے والوں کے لئے
سراپا شفقت

الْمُبَلَّوْءُ قَلْبِهِ مِنَ الْعِرْفَانِ

معرفة سے بھرے دل والے

مغِيثٌ
لِلْمُسْتَخِيثِينَ
فریاد رس کے
فریاد رس

قَاءِ الْأَحْلَامِ
بہنوں کی شفقت

مَبْلُوءٌ
بہنوں کی شفقت

الْمُسْتَزِفِيْنَ
دین و دنیا کی شہرت

رَأْفَةٌ
شفقت چاہنے والوں کے لئے

وَصَلَةٌ
لِلْمُنْقَطِعِينَ

باہم جدا ہونے والوں
کو ملانے والے

الْمُسْتَغْنَى
عَنْ تَكْرِيمِنَا

باری تکریم
میں مستغنی

رَجَاءٌ
لِلْخَائِفِينَ

ڈرنے والوں
کے لئے امید

عَمُّهُمُ الْكَافِرَاتُ

محبلا جان والے

الَّذِي عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ

جن کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی

سَلِيمٌ بِجَلِيلٍ

مقبلاً

تَامَ الْغُفْرَانِ

منفرت والے

الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ

جو مومنوں کے قریب ہیں

تَأْجِ الرِّضْوَانِ

رضا کا تاج

مَرَاتِقُ الْعَمَلِ

بیان و لا یسیران

سَابِقُ الْعَمَلِ

پیشہ را جانوروں کو چلانے والے

مُؤْتَمِرُونَ

مُذَلِّبِ الطَّغْيَانِ

دور کرنے والے سرکشی کو

دَافِعِ الطَّغْيَانِ

سرکشی کو دور فرمانے والے

الْوَاعِظِ بِالْقُرْآنِ

قرآن کیساتھ معظ فرمانے والے

المُؤْتَمِرِينَ
اِذْ اَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ اَلِى الْاَخْيَارِ
اور ان کی طرف بھرانے والے

وَالَّذِينَ
لَا يَسْتَفِيدُونَ
الْمُبِينِ لِشِدَّةِ الْاِيْقَانِ
مضبوط تریقین کو واضح کرنے والے

وَالَّذِينَ
يُحِبُّونَ
الْحِجَابَ
محبوبین احسان فرماوے والے

وَالَّذِينَ
يَقِظَانِ الْاَجْفَانَ
بیدار پلکوں (آنکھوں) والے

وَالَّذِينَ
يُنْتَفِعُونَ
الْمُنَجِّى عَنِ النَّيْرَانِ
وزنی شخصیت ہونے کے لحاظ سے واضح

وَالَّذِينَ
يُغْفِرُونَ
الْمُتَّقِينَ
پرہیزگاروں کو بخشتے والے

وَالَّذِينَ
يُؤْتُونَ
مُؤْتَمِرِينَ
خودی خوار و مطاع والے

وَالَّذِينَ
يُؤْتُونَ
الْحَقَّ
بمیزان حیات کے

وَالَّذِينَ
يُؤْتُونَ
الْحَقَّ
بمیزان حیات کے

وَالَّذِينَ
يُؤْتُونَ
الْحَقَّ
بمیزان حیات کے

وَالَّذِينَ
يُؤْتُونَ
الْحَقَّ
بمیزان حیات کے

وَالَّذِينَ
يُؤْتُونَ
الْحَقَّ
بمیزان حیات کے

خَيْرٌ مِنْ شَعْرَى
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

مَنْبِرِ الْأُرَشَادِ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

جَانِبِ الْبَيْتِ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

عبرت حاصل کر نیوالوں کے لئے ہدایت کا منبر

الْغَنِيِّ عَنْ تَوْصِيْفِنَا
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

جَامِعِ شَمْلِ الدِّينِ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

ہماری توصیف کے بے نیاز

الَّذِي حُضْرُهُ
 كَمَالِ الْأَحْسَانِ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

بھرے ہوئے قوانین کو
 جمع کر نیوالے

جن کی حضوری مکمل احسان ہے

الَّذِي كَلَّمَكَ بِالْحَقِّ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

فَنُورِ السَّائِبِينَ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

الَّذِي مَا تَلَّا عَلَىٰ خِيَّانِ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

نِيرِ الْأَنْوَارِ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

أَطْوَعِ الطَّائِعِينَ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

سَيِّدِ الْأَنْوَارِ
 اللہ تعالیٰ
 والہ وسلم

نور والوں
 کی روشنی

سب سے زیادہ فرمانبردار

نور والوں کے
 سردار

<p>قَدْ نَزَّلْنَا وَالْقُرْآنِ مِنْ آيَاتِهِ الضُّمُونِ</p>	<p>قَافٍ قَافٍ الْإِمْتِنَانِ انعام و احسان کے قلام کی قاف</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ آيَاتِهِ وَالْقُرْآنِ عَمَلُكَ لِرَحْمَتِي</p>
<p>سَيِّئِينَ سَحَابِ وَالْقُرْآنِ الْغُفْرَانِ منفرت کے سحاب کا سین</p>	<p>عَيْنِ الْعِرْفَانِ معرفة کی عین</p>	<p>مُعِيبَاتِ وَالْقُرْآنِ الرَّحْمَنِ برکات رحمن عام کرنیوالے</p>
<p>مَدَامَا وَالْقُرْآنِ مَدَامَا مَدَامَا</p>	<p>قَوْلِ الْعَمْرِ قَافِ واضح و سلیقہ والے</p>	<p>السَّابِقِ لَامَتِهِ ابنی امت کو جن کی طرف لایمتمہ و لایمتمہ</p>
<p>مِهْوَانِ مدگار</p>	<p>عِلْمِ الْإِيمَانِ ایمان کی علامت</p>	<p>زِعْمِ الْأَمَانِ بہتر امان</p>

نورِ الامکان
نورِ امکان
نورِ امکان

صاحبِ التَّعَاوُنِ
يَوْمَ التَّغَايُتِ
خسارے (قیامت) کے دن مدد کرنے والے

امکان
حکمدار

مُهَيِّئِ الْجَنَانَ
جنتیں عطا کرنے والے

مُرْجِعِ
الْمِيزَانَ
میزان کو بھاری فرمانے والے

نورِ الْقُرْآنِ
قرآن کا نور

مشرق
مشرق

بائیں
بائیں

بائیں
بائیں

مغرب
مغرب

مشرق
البواطن
روشن بواطن
والے

المَّحْبُوبِ
عِنْدَ الْبَاطِنِ
باطن کے ہاں محبوب

مظہری
البواطن
بواطن کو پاک
کرنے والے

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
النَّبِيَّ وَالسَّابِقِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ هُمْ
عِندَ اللَّهِ
يُحِبُّونَ

عَيْنِ يَقِينِ الْخُلَفَاءِ
الرَّاشِدِينَ

خلفاء راشدین کے عین یقین

مَلَائِكَةَ
الْأَرْضِ
الَّذِينَ
يَشْفَعُونَ
عِنْدَ اللَّهِ
لِأُمَّةٍ
بِأُمَّةٍ
وَالَّذِينَ
يُحِبُّونَ

مَنْ حَصَّنَهُ اللَّهُ
بِالْبَيِّنَاتِ

جسے اللہ نے بیان
کے لئے چنانچہ

ابنِ مُعَدِّ بْنِ
عَدْنَانَ

فرزند معد بن
عدنان

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ
ذِي الْعَرْشِ الْمَكِينِ

جو قوت والے ہیں مالک عرش کے حضور عزت والے

الَّذِي لَهُ
خَبِيرٌ مُجْتَبِئِينَ

وہ ذات پر تمام
محبین

مُؤْمِنِينَ

غنی کریموں کے

مُسْتَسْقِينَ

غیر اللہ سے مستحق کریموں کے

الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ
النَّبِيَّ وَالسَّابِقِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ هُمْ
عِندَ اللَّهِ
يُحِبُّونَ

اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي

اے اللہ! بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری اپنے کانوں کے شر سے اور نگاہ کے شر سے
وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنْبَتِي
اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے قلب کے شر سے اور مادہ منویہ کے شر سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَكْدَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
 اَلشَّدَاةِ ۚ اَلشَّدَاةُ: میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ مرنے سے اور پناہ مانگتا ہوں بلندی
 اَلتَّرْدِي ۚ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَدْمِ
 سے گر کر ہلاک ہونے سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں غرق ہونے، جل کر مرنے اور کب کر مرنے سے
 وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ وَكَانَ عِنْدَكَ
 اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری اس سے کہ شیطان مجھے دیوانہ کر دے موت کے قریب
 اَلْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا
 اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ مروں میں تیری راہ میں پیچھے پھیرے ہوئے
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لِدِيغِ اَللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
 اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری کہ مروں سانپ سے ڈسا ہوا۔ اے اللہ! بے شک میں پناہ طلب
 مِنْ مُنْكَرَاتِ اَلْأَخْلَاقِ وَاَلْأَعْمَالِ وَاَلْأَهْوَاءِ وَاَلْأَدْوَاءِ
 کرتا ہوں تیری برے اخلاق و اعمال سے اور بُری خواہشات اور بیماریوں سے۔
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ
 اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری یہ ہر اس شے کے شر سے کہ پناہ مانگی ہے اس سے تیرے نبی
 مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ۚ وَأَنْتَ
 محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اور تو ہی
 اَلْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ اَلتَّكْلَانُ وَلا حَوْلَ
 مدد و توفیق کیا ہوا ہے اور تجھی پر توکل ہے۔ اور نہیں پھرنا (معصیت سے)
 وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اَلْحَنِیْ اَلْعَظِيْمِ اَمِيْنٍ
 اور نہ قوت (اطاعت کی) مگر ساتھ توفیق اللہ کے جو بلند شان عظیم ہے۔

بِحَاكِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ
 قبول فرما اپنے نبی ﷺ کی عزت کے طفیل

سرور کونین ﷺ نے فرمایا اے اللہ ہریرہ بلا کر تو چاہتا ہے کہ آتش دوزخ
پس ہر فریاد
کے ہو یا بوجہ چوری کے یا

شامع و مدافع ہو تم شامع و مدافع ہو تم
تم سے بس انفرادی خدا تم پہ گم دروں دروں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيْدُ يَا كِيْمُ يَا قِيَمُ يَا بَدِيْعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ مَوْجِ الْعَاشِقِيْنَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ مَوْجِ
الْمُعْشُوْقِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِيْنَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوْبِ الْحَافِيْزِيْنَ وَالْإِهْمَالِ وَسَاوِيْهِ الْأَكْبِيْرِ الْكَثِيْرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيْمًا وَأَكْرَامًا لِكُلِّ مُرَادٍ الْمُسْتَرْبِ
عِنْدَكَ يَوْمَ تَكْمُلُ الْأُمَمُ

<p>وَلَدِي لِلْمُتَّقِينَ</p> <p>محبوبوں کے ہایت</p>	<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبین کے محبوب</p>
<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>	<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>
<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>	<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>
<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>	<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>
<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>	<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>
<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>	<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>
<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>	<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>
<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>	<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>
<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>	<p>وَلَدِي لِلْمُحِبِّينَ</p> <p>محبوبوں کے محبوب</p>

مَلْجَاً الْغَرِيبِينَ
الَّذِي حَاوَرَ
الْعِزَّ الْمُتَيْنِ

پر دسیوں کو پناہ دینے والے

جو عزت کے بلند مقام پر فائز ہیں

حَيَاةِ الْاِجْبُنِ

نادم ہونیوالوں کو پناہ دینے والے

بَسِطِ الْيَدَيْنِ
اسْتِ الْكُونَيْنِ

کشادہ ہاتھوں والے

کونین کی بنیاد

مُسْجِعِ الْكُونَيْنِ

دونوں جہانوں کا مقصد

صَاحِبِ الرَّجُلَيْنِ
الْحَمِيدِ الْاِذْنَيْنِ

خوب صورت قدموں والے

خوب صورت کانوں والے

صَاحِبِ
الْعَيْنَيْنِ الْجَمِيلَتَيْنِ

خوب صورت

خوب صورت آنکھوں والے

صَاحِبِ
الْحَاجِبَيْنِ
الْجَمِيلَتَيْنِ

خوب صورت

خوب صورت

صَاحِبِ
الْحَاجِبَيْنِ
الْجَمِيلَتَيْنِ

بروؤں والے

بروؤں والے

صَاحِبِ
الْحَاجِبَيْنِ
الْجَمِيلَتَيْنِ

بروؤں والے

بروؤں والے

صاحب الظہورین
الجَمِیلَتین
خوبصورت پشتوں والے

صاحب
السَّاعِدَینِ الْجَمِیلَتینِ
خوبصورت کلاہوں والے

صاحب السَّاقِینِ
الجَمِیلَتینِ
خوبصورت پنڈلیوں والے

صاحب العَضَدِینِ
الجَمِیلَتینِ
خوبصورت بازوؤں والے

صاحب النَّحْلِینِ الْجَمِیلَتینِ
خوبصورت نعلین والے

صاحب القَدَمِینِ
الجَمِیلَتینِ
خوبصورت قدموں والے

صاحب الیَدِینِ
الجَمِیلَتینِ
خوبصورت ہاتھوں والے

حَمَاةَ
دِینِ الْمُتَمِینِ
مضبوط دین کی حمایت کرنے والے

المُجَاءِ
لِلْمَسَاکِینِ
مسکینوں کے لئے جائے پناہ

أُمَّلَةَ
الْمَدِینِ
گناہ گاہوں کی امیر

سَنَدِ الْعَاصِيْنَ

گنہ گاروں کا سہارا

الْمَوْجِ الْمَتِيْنِ

مضبوط شیر

مُسْجَعِ الْعَافِيْنَ

جو مقصد میں عارفوں کا

مُطَّلِعِ الْعُرْفَانِ

منبعِ معرفت

الْقَمْرِ الزَّيَّانِ

خوب صورت چاند

الْأَسْوَاكِ

اللہ کی محبت میں غمگین

سَيِّدِ الرَّهْبَانِ

عبادت گزاروں کے سردار

الَّذِي حُسْبُهُ
حَقِيْقَةُ الْاِيْمَانِ

وہ ذات جن کی محبت ہی ایمان کی
حقیقت ہے

سَيِّدِ الْكُهَّانِ

دعویدارانِ علمِ غیب کے سردار

سَيِّدِ الرَّهْبَانِ

سافروں کے سردار

مَرْوِجِ السُّنَنِ

اچھے طریقوں کو رواج دینے والے

خَيْرِ اَعْوَانٍ

بہترین مددگار

فَاتَّقِ الْمُسَيْلِينَ
اَعْوَانًا

مہلین سے بلند ہونے والے مسافروں کے
لحاظ سے

نِعْمَ الْمُحْسِنُ

بہترین احسان فرما بیوا لے

الْبِزَارِ كَانِ

سوداگر

الْاَسَانِ

اُمت کے غم میں کراہنے والے

الْمُكَّامِنِ

امن و بے خوفی کی جگہ

الْاُمَّانِ

امانت دار

التَّحَنُّانِ

سراپا مہربانی

الْبَيَّانِ

مقاصد کو کھولنے والے

دَائِلِ
كُلِّ حَيْرَانٍ

ہر حیرت زدہ کے رہنما

صَاحِبِ الْقُرْآنِ

قرآن والے

المختص بالقرآن

قرآن کے ساتھ مخصوص کیے گئے

ملقى القرآن

قرآن کریم تلقین کیے گئے

قلب القرآن

قرآن کا دل

أوضح دقائق القرآن

دقائق قرآن کو واضح کر نیوالے

منبع أسرار القرآن

اسرار قرآن کا سرچشمہ

فہم القرآن

قرآن کا فہم

تشافى الصدور بأسرار القرآن

قرآن پاک کے اسرار کے ساتھ سینوں کو شفا دینے والے

تفسير القرآن

قرآن کی تفسیر کرنے والے

المختص بمشاهد القرآن

مشاہدہ قرآن کے ساتھ مخصوص

المجاهد بالقرآن

قرآن کے ذریعہ

جہاد کر نیوالے

منزل القرآن

قرآن کے جائے نزول

<p>مُرِّي الْكُونِينَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَانِ</p> <p>کونین میں انسانوں اور جنوں کو مرئی</p>	<p>صَاحِبِ السُّلْطَانِ</p> <p>حکومت والے</p>
<p>السُّلْطَانِ</p>	
<p>عَظِيمِ السُّلْطَانِ</p> <p>عظیم سلطنت والے</p>	<p>خُلَاصَةِ الْإِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْجَانِ</p> <p>انسانوں فرشتوں اور جنوں کا خلاصہ</p>
<p>يَقْظَانِ</p>	
<p>عَظِيمِ الشَّانِ</p> <p>بڑی شان والے</p>	<p>صَاحِبِ شَهْرِ رَمَضَانَ</p> <p>ماہ رمضان والے</p>
<p>صَاحِبِ الْوُدَّانِ</p> <p>دلان والے</p>	<p>رَفِيعِ الشَّانِ</p> <p>اُونچی شان والے</p>
<p>اِسْتِ الْاَكْوَانِ</p> <p>اکوان کی بے سیاد</p>	

صاحب
تَشْهِيرِ الْفُرْقَانِ

قرآن کو مشہور کرنے والے

صاحبِ الْفُرْقَانِ

قرآنِ فرقان والے

الْمِيزَانِ

ترازو

مِثْقَالَةِ الْأَمْكَانِ

عالمِ امکان کی آنکھ

فُرْقَانِ كُلِّ فُرْقَانِ

مجسم فرقان ہیں ہر امتیاز و فرقان کا

زَعِيوِ الْأَرْكَانِ

ارکان (ولایت خداوندی) کے قائم

الْمُخَاطَبِ بِكُلِّ

مُعَانِي الْعِرْفَانِ

جو مخاطب ہیں عرفان کے تمام معانی کے ساتھ

إِمَامِ الْأَهْلِ الْعِرْفَانِ

اہل معرفت کے امام

تَكْوِينِ

الْأَكْوَانِ

سراپا تخلیق تمام مخلوقات کی

الْمُرُوقِ بِالْعِرْفَانِ

معرفت کے ساتھ آراستہ

مِفْتَاحِ

الْأَكْوَانِ

موجودات کے لئے چابی

شَمْسِ الْأَكْوَانِ

موجودات کے سورج

نُقْطَةِ بَيْتِكُمْ
دَائِرَةِ الْأَكْوَانِ

مرکزی نقطہ مخلوقات کے دائرہ کی
پرکار کا

خَضِرِ الرِّضْوَانِ

رضوان کی سبزی

مَوْصِلَةِ الرِّضْوَانِ

اللہ کی رضائیک پہنچانے والے

مُبْعَثِ الرِّضْوَانِ

رضائے خداوندی کا ذریعہ

صَاحِبِ الْبَيَانِ

بیان کرنے والے

فَاحِشِ الْبَيَانِ

فحیح بیان والے

حَبِيبِ اللَّهِ
الْمَلِكِ الدِّيَّانِ

اللہ کے حبیب
اللہ کے جزاء دینے والے کے حبیب

المَوْضِعِ
لِلْبَيَانِ

بیان خداوندی کی وضاحت فرماتے والے

النَّذِيرِ الْحَرِيكَ

صاف ڈرانے والے

وَحْيِ الْبَيَانِ

وحی بیان کرنے والے

مِفْتَاحُ الْإِحْسَانِ
احسان کی کنجی

الَّذِي جَعَلَ دِينَ
اللَّهِ خَيْرَ الْأَدْيَانِ
اللہ تعالیٰ کے دین کو تمام دینوں سے بہتر بنا کر نیوالے

بِاللِّسَانِ
زبان کے ساتھ جہاد کر نیوالے

طَلَقَ اللِّسَانَ
رواں و سلیس زبان والے

قَدِيمِ الْإِحْسَانِ
قدیم احسان والے

فَصِيحِ اللِّسَانِ
فصیح زبان والے

الرُّوحِ الْأَعْظَمِ
فِي صُورَةِ إِنْسَانٍ
صورت انسان میں عظیم تر روح

فَرْدِ الْإِحْسَانِ
احسان میں یکتا

عَبْدِ الرَّحْمَنِ
رحمن کے بندے

اللِّسَانِ
زبان حق

فِي ضَمَنِ
الْإِحْسَانِ
کنز احسان

السَّبَبُ وَوُجُودُ
كُلِّ إِنْسَانٍ

سبب ہیں ہر انسان کے وجود کا

مُدَدِ الْعَارِفِينَ
فِي سَاحَةِ الْإِحْسَانِ

احسان کے میدان میں عارفوں کی مدد

خَلِيلِ الرَّحْمَنِ

رحمن کے دوست

رَافِعِ لَوَائِ
الْإِحْسَانِ

احسان کا جھنڈا اٹھانے والے

خَازِنِ
رَحْمَةِ الرَّحْمَنِ

رحمتِ رحمن کا ذخیرہ کرنے والے

حَبِيبِ الرَّحْمَنِ

رحمن کے پیارے

سِرِّ تَفْرِيدِ الرَّحْمَنِ

توحیدِ رحمن کا رازِ مخفی

مَجْلَى اسْمِ الرَّحْمَنِ

اسمِ رحمن کی جگہ گاہ

قَلْبِ الرَّحْمَنِ

سورۃِ رحمن کا دل

مِطْهَرِ الْجَنَانِ

پاک دل والے

الْحَنَّانِ

نرم مزاج والے

صَفَاءِ الْهَائِمِينَ

فِي فَكْبَةِ الرَّحْمَنِ
رحمن کی محبت میں ہائیمان کی رفق

مِفْجِ الْأَسْنَانِ

دو دانتوں کے درمیان کشادگی رکھنے والے

خِزَانَةِ الْأَمْتَانِ

خزانہ احسان

صَاحِبِ الْبُقْعَةِ

الَّتِي فَاقَتْ الْجَنَانَ

جنت پر فوقیت رکھنے والے قطعہ ارامنی کے مالک

يَتَابِعِ الْأَمْتَانِ

احسان خداوندی کے سرچشمے

الْمَوْصِلِ
إِلَى الْحَسَنَانِ

جنت کی طرف پہنچانے والے

أَجْوَدِ مَنْ

جَادَ بِالْبَنَانِ

بہت زیادہ سخی ہاتھوں کے ساتھ سخاوت کرنے والوں سے

أَفْضَلِ مَنْ

طَعَنَ بِالسَّنَانِ

تمام نیزہ کے ساتھ جنگ کرنے والوں سے افضل

مِنْحَةِ الْمَنَانِ

احسان فرمایا والے رت کریم کا عطیہ

ثَمَرَةِ الْإِيمَانِ

ایمان کا ثمرہ

عَلَى الْإِيمَانِ

ایمان کا جھنڈا

صَافِي الْأَعْيَانِ
مِنْ حَضْرَةِ الْمُتَّكِنِ

مہم موجود آئے خالص زہر جاہل گاہ و سنان ہیں

الْحَرِيصِ
عَلَى الْإِيمَانِ

لوگوں کے ایمان پر حریص

دَعَائِمِ الْإِيمَانِ

ایمان کے ستون

أَسَاسِ الْإِيمَانِ

ایمان کی بنیاد

كِتَابِ الزِّيَادَاتِ
فِي الْجَنَّةِ

بند چوٹی ہیں جنات میں تزیین کیئے

مَوْضِعِ الْأَمَانِ

جائے پناہ

فَلَكَ الْأَمَانِ

جود و امان کے فلک دار

نَاشِرِ لَوَاءِ الْإِيمَانِ

لواء ایمان کے لہرنے والے

كَاتِبِ الْأَمَانِ

امان لکھ کر دینے والے

صَاحِبِ عَمَّانِ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاص

ظِلَالِ الْأَمَانِ

امان کے مجسم سائے

ضَمِيمُ الزَّمَانِ

زمانے کی ضمیر

مَجْلَى حَقَائِقِ وَ

دَقَائِقِ الزَّمَانِ

جلوہ گاہ ہیں زمانہ کے حقائق اور
باریکوب کی

نُورِ الْإِيمَانِ

ایمان کا نور

مُضِي الْقُلُوبِ

بَانُورِ الْإِيمَانِ

نورِ ایمان کے دلوں کو روشن فرمانی والے

صَاحِبِ الْبُرْهَانِ

برہان والے

الْبُرْهَانِ

اللہ کی برہان

شَمْسِ
الْوُجُودِ بِالْبُرْهَانِ

وجود کے آفتاب بسبب برہان کے

الْمُخْتَوُونَ

پیدائشی ختمہ کئے گئے

الْمُصَوَّنُونَ

محفوظ

الْمُخْزَوُونَ

غمگین

مُرْكَزِ الْبُطُونِ

اخفاء (حقائق) کا مرکز

دُونَ الدُّونِ
بِلَادُونَ

قریب تر ہیں ہر قریب کی نسبت
بغیر کسی فصل و فرق کے

الْمَلْحَ مَنْ
تَبَخَّرَتْ إِلَيْهِ الْعِيُونَ

ان تمام سے پرکشش جنہیں خلائق کی
نظروں نے دیکھا

الْقِدْوَةَ الْمَيْمُونِ

مبارک قیادت والے

سَلْوَةَ الْمُحْزُونِ

غمزدوں کے لئے تسلی

الْجَوْهَرَ الْمَكْنُونِ

مخفی گوہر بیتا

مُطْلِعَ النُّورِ الْمَكْنُونِ

مکھنوں و مستور نور کی جائے طلوع

أَوَّلَ مَنْ حَقَّقَتْ
لَدَيْهِ الظُّنُونِ

اول و مقیم ان سب کے محقق ہو ان کے
بلن ظن اور گمان (خیرا)

عَيْنِ الْغَيْبِ الْمَكْنُونِ

سرپا غیب مکتوں

يَا رَبِّ دَخَلْتُ دَخْلِي كُنْتُ وَكَيْسِي كَارِحِي يَكْفِيَنِي
اے میرے رب میں نے اپنا دخل داخل کر دیا تو میرا دلیل ہے۔ کفایت کر نیوالا ہے

رَبِّي يَكْفِيَنِي مَعْبُودِي وَيَكْفِيَنِي مَقْصُودِي وَيَكْفِيَنِي مَطْلُوبِي

میرا رب میری کفایت کریگا وہ کفایت کرے گا میری میرا معبود، وہ کفایت کریگا میری میرا مقصود، وہ کفایت کریگا میری میرا مطلوب

يَكْفِيَنِي حَافِظِي يَكْفِيَنِي حَفِيْظِي يَكْفِيَنِي حَنَّانُ مَنْانُ يَكْفِيَنِي

حافظ (اللہ) میری کفایت کریگا، میرا حفیظ میری کفایت کریگا، حنان منان میری کفایت کرے گا

غَفُورٌ غَفَّارٌ يَكْفِيَنِي قَلْبًا رَجَبًا يَكْفِيَنِي حَيِّي وَيَوْمٌ يَكْفِيَنِي خَالِقٌ

غفور و غفار میری کفایت کریگا، قنار و جبار میری کفایت کرے گا، حی و یوم میری کفایت کریگا، خالق خلاق

خَالِقٌ يَكْفِيَنِي عَلِيمٌ عَلَامٌ يَكْفِيَنِي رَازِقٌ رَازِقٌ يَكْفِيَنِي شَاهِدٌ

میری کفایت کریگا، علیم و علام میری کفایت کرے گا، رازق و رزاق میری کفایت کرے گا، شاہد

نَاطِرٌ يَكْفِيَنِي اللَّهُ يَكْفِيَنِي يَكْفِيَنِي فَاللَّهُ خَيْرٌ

ناظر میری کفایت کریگا، اللہ میری کفایت کریگا، کفایت کریگا، پس اللہ بہتر حفاظت

حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنِي

فرمانیوا ہے۔ وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نہ ڈر اور نہ غم کرے

إِنَّا رَادُّوهُ إِلَىكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ يَا مُوسَى

بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ اے موسیٰ (علیہ السلام)

أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا

ساتنے آ ڈر نہیں بے شک تجھے امان ہے۔ پس تم رجوع کرو پس تم رجوع کرو

فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا

پس تم رجوع کرو پس تم رجوع کرو پس تم رجوع کرو پس تم رجوع کرو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَكَّامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَارْجِعُوا

اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم (علیہ السلام) پر پس تم رجوع کرو

فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا بِسْمِ اللَّهِ أَرَادُوا وَمَا كَانَ

پس تم رجوع کرو پس تم رجوع کرو اللہ کے نام سے ساتھ انہوں نے ارادہ کیا اور نہیں تھے

حَتَّىٰ أَرِيدُ وَإِنِّي لَمُطِوبٌ لَّهُمْ مِنْ مُرَادٍ مُرِيدٌ

یہاں تک کہ وہ ارادہ کئے گئے ارادہ کرنے والے کی مراد سے ان کے لیے خوشخبری ہے۔

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

قبول فرمائیے نبی کریم ﷺ کی عزت کے طفیل

سرور کونین ﷺ نے فرمایا اے نبی جگڑے بازو سے بچ کیونکہ یہ
اعمال کو ضائع کرتا ہے اے نبی مسائل کو سخت جھڑک اگرچہ گھڑے پر سوار ہو
کر بھی آئے اہلک سے خیرات دے کیونکہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے
سے پہلے خدا کے ہاتھ میں طاری ہوتا ہے

جائیں نہ جب تک غلامِ خالد ہے سب پر حرام

ملک تو ہے آپ کا تم پہ کر دروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا كَلِمَةَ الْكَلَامِ وَالْأَكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ
الْمُعْشِقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِقِينَ وَالْأَهْلِ وَسَائِرِ تَشَابُهَاتِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْثَرِ الْكَلِمَاتِ الْكَلِمَاتِ الْكَلِمَاتِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

الْمَامُون

امین بنائے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ

الْعَرَضِ الْمُدْحُونِ

محفوظ عزت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

السَّائِدِ الْمُدْحُونِ

مخفی رازوں والا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

النُّورِ الْأَوَّلِ

نورِ اول بلحاظِ بطون

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مَجَلِّي الْأَعْمَرِ الْأَعْظَمِ

جلوہ گاہ میں پوشیدہ امِ عظیم کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

الْمُبْلَغِ الْمَامُونِ

اعتماد کئے گئے مبلغ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

الْحَائِزِ لِعِلْمٍ وَمَا كُنْ

جو جانتے ہیں آگاہ مایکون علم کے

اللہ تعالیٰ

السِّرُّ الْمَكْنُونُ
مخفی راز

اللہ تعالیٰ

مَعْدِنُ حِكْمٍ وَجَبَّارِ
جبار کی مخفی
مخزون و
دیکھار کی
قوی یاد

اللہ تعالیٰ

مُهَيْبَةُ الْكُونِ
کائنات کے فیضِ اسی

اللہ تعالیٰ

الْحَرَمِ الْأَمِينِ
امن و امان دینے والا حرم

اللہ تعالیٰ

اللَّانِ الْكَافِرِ
ابھکاروں پر لعنت کرنے والا

اللہ تعالیٰ

الْبَاطِنِ
پوشیدہ

اللہ تعالیٰ

الْأَمِينِ
امن والے

اللہ تعالیٰ

الْأَمَانِ
مجسم امن

اللہ تعالیٰ

الْأَحْسَنِ
سب زیادہ حسین

اللہ تعالیٰ

الْقَارِنِ
جمع قرآن کرنے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُبِیِّن

شریعت کو بیان کرنے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُنِیْم

جس نے دین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُنِیْم

جس نے دین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السَّيِّدِ الْاَلِیْنِ

وہ سوار جو نرم مزاج ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُؤْمِنِ

میں از مومن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُؤْمِنِ

میں از مومن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُحَلِّیْنِ

اعلان فرمانی والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُبَشِّرِ الْاَكْسَنِ

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بشارت دینے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَبْدِ الْمُهَلِّیْمِیْنِ

حفاظت کرنے والے کے بندے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُؤْتَمِنِ

امین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُؤْمِنِ

ایمان والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُرْتَمِلِينَ غم سے پہلے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُكَلِّمِينَ امین</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُؤْتَمِنِينَ کامل یقین والے</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُجْتَمِعِينَ جمع ہونے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْوَالِيَّ الْمُحْسِنِينَ محسن و معادن</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بِاطِنِ الْبَوَاطِينِ مخفیوں کے مخفی</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ذِي حَسَنِ اچھے اعمال والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ امن دینے والے کے بندے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ هُدَايَةِ الْجَنِّ جنات کو ہدایت دینے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بِبَابِ الْمُعَادِينَ سب معادن کا مغز و خلاصہ</p>

اللہ تعالیٰ

مُحِبِّ
الْحَسَنِ

حضرت حسن رضی اللہ عنہ
سے پیار کرنے والے

اللہ تعالیٰ

وَالْحَسَنِ

اچھے اور بہترین اعمال کے

اللہ تعالیٰ

وَالْحَسَنِ

بہترین اعمال کے

اللہ تعالیٰ

خَيْرٍ مِّنْ

سَنَّ السُّنَنِ

بہتر سب سنن کے جاری کرنے والوں سے

اللہ تعالیٰ

اِيَّا خَيْرٍ لِّاٰمِنِيْنَ

اللہ تعالیٰ

مُشَبَّهٍ
الْحَسَنِ

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مشابہ

اللہ تعالیٰ

صَاحِبِ
الرُّكْنِ

حجرِ اسود والے

اللہ تعالیٰ

عُرَّةِ الْيَمَنِ

يمن و برکت کی علامت

اللہ تعالیٰ

الْمُحْفُوْظِ
بِالْيَمَنِ

برکت (اساد تمندی) سے ڈھکے ہوئے

اللہ تعالیٰ

الْمُنْتَقَى
مِنْ جَوَاهِرِ
الْحَسَنِ

چنے ہوئے جواہرِ حسن سے

<p>وَأَكْبَرُ كُلِّ مُؤْمِنٍ</p> <p>۱۰ مومن کا درجہ</p>	<p>قَبْلَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ</p> <p>ہر مومن کے قبلہ</p>	<p>وَأَكْبَرُ كُلِّ مُؤْمِنٍ</p> <p>۱۰ مومن کا درجہ</p>	
<p>وَأَكْبَرُ كُلِّ مُؤْمِنٍ</p> <p>۱۰ مومن کا درجہ</p>	<p>ظَاهِرِ كُلِّ بَاطِنٍ</p> <p>ہر باطن کا ظاہر</p>	<p>وَأَكْبَرُ كُلِّ مُؤْمِنٍ</p> <p>۱۰ مومن کا درجہ</p>	
<p>أَكْثَرُ النَّاسِ عِرْفَانًا</p> <p>سب سے زیادہ عرفان والے</p>	<p>أَخِرُ النَّاسِ أَيْمَانًا</p> <p>لوگوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے</p>	<p>أَكْمَلُ النَّاسِ أَسْكَانًا</p> <p>سب انسانوں کے کامل ترین ازل</p>	<p>أَبْعَدُ النَّاسِ مَكَانًا</p> <p>سب لوگوں سے بلند تر مرتبہ و مکان والے</p>

أَوَّلِ النَّاسِ
إِيْمَانًا

سب لوگوں سے پہلے ایمان لائے

أَوْفَرِ الْأَنْبِيَاءِ
وَأَوْفَرِ الْأَنْبِيَاءِ

سب انبیاء میں زیادہ ایمان والے

أَوْفَرِ الْأَنْبِيَاءِ
وَأَوْفَرِ الْأَنْبِيَاءِ

سب انبیاء میں زیادہ ایمان والے

أَرْجَحَ

النَّاسِ مِيزَانًا

سب لوگوں کو ذرا سا میزان والے

أَفْضَلَ
النَّاسِ فِي بَيَانِ

سب لوگوں کے بیان میں زیادہ اچھے

أَفْضَلَ
النَّاسِ فِي بَيَانِ

سب لوگوں کے بیان میں زیادہ اچھے

أَظْهَرَ

الْأَنْبِيَاءِ سُلْطَانًا

سب انبیاء سے زیادہ تسلط والے

أَوْفَرِ الْأَنْبِيَاءِ
أَحْسَانًا

سب انبیاء سے زیادہ احسان والے

ﷺ

أَوْفَحَ
الْأَنْبِيَاءِ
لِسَانًا

سب انبیاء سے زیادہ فصیح زبان والے

ﷺ

أَرْجَحَ
الْأَنْبِيَاءِ
إِيْمَانًا

سب انبیاء سے زیادہ کامیاب ایمان والے

ﷺ

أَرْجَحَ
الْأَنْبِيَاءِ
مِيزَانًا

سب انبیاء سے ذرا سا میزان والے

ﷺ

أَعْلَى النَّاسِ إِيْمَانًا

سب لوگوں کے اعلیٰ ایمان والے ہیں

أَتَمُّ الْخَلْقِ جَلَالًا

سب مخلوق کے کامل از روئے جمال کے

أَتَمُّ الْخَلْقِ لِسَانًا

سب مخلوق کے کامل لسان کے اعتبار سے

أَشْرَفُ

أَعْرَبُ إِيْمَانًا

اہل عرب سے بلند از روئے ایمان کے

أَكْرَمُ

أَكْرَمُ

عَفْوٌ

معافی دینے والے

نَاجِ الْأَهْلِ الْبَدْوِ

قبائل عرب کے نجات دہندہ

صَاحِبِ الْعَدْلِ وَالْحَفْوِ

معافی میں عدل والے

نُقْطَةِ الْبَدْوِ

آفرینش کے نقطہ آغاز

سَيِّدِ الْأَهْلِ الْبَدْوِ

دیہاتیوں کے سردار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ذِي الشَّفَقَةِ
وَالْجَنُودِ

شفقت اور ہرمانی
فرمانیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ

صاحبِ بیت اور مہندی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْقَائِدِ الْأَمِينِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دول دوز اور امین اور اللہ اور اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِبِ

الْهِدْيَةِ وَالسَّمْوِ

رعب اور ہندی درجات والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْقَدْرِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

قدر اور ہندی میں اور ہندی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْقَائِمِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

قائم اور اللہ اور اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

أَوَّلِ مُدْعَوٍ

سب سے اول بلائے جانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

خَطِيبِ

النَّحْلِقِ

إِذَا حَسُوا

مشرکوں کی طرف سے اللہ سے کلام کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

شَفِيعِ

الْحِبَادِ

إِذَا يَسُؤُوا

لوگوں کے شفیق جب ناامید ہونے لگیں گے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

قَائِدِ الْأُمَّمِ

إِذَا حَسِبُوا

سب امتوں کے قائد جب ان سے حساب لیا جائے گا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الْحَاكِمِ لِكُلِّ

رُفْعَةٍ وَعُلُوٍّ

ہر رفعت و ہندی کے جامع

اللہ عزوجل

ظہ

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل
الذی لا نور الا لہ
جو نہیں ہے نور مگر اسی کا

اللہ عزوجل
الذی لا یظلم العباد
جو نہیں ہے ظلمت کو

اللہ عزوجل

ظاہر اللہ

اللہ کے ہاں پاک

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل
احاط بالکونین
جو سمیٹتا ہے تمام کونین

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل
جواد اللہ
جو دے گا جو دے گا

اللہ عزوجل

شکور اللہ

اللہ کا شکر ادا کر نیوالے

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل
طیب

اللہ

اللہ کے ہاں پاکیزہ

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل
کلیم

اللہ

اللہ سے کلام کر نیوالے

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل
فاتح

اللہ

اللہ کے نبی اول اور
مخلوق اول

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل
مجاہد

اللہ

اللہ کی دلیل

اللہ عزوجل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

رَحِيمَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کی رحمت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مُؤْتَمِنَةً

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کی مطمئنہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

عَزِيزَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کے ہاں معزز

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مُؤْتَمِنَةً

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کی مطمئنہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

بَابِكِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کے ہاں سرِبابیان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مُؤْتَمِنَةً

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کی مطمئنہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

دَلِيلَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کی دلیل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مُؤْتَمِنَةً

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کی مطمئنہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مُطَهَّرَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کی طہارت بیان کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مُبِينَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کی ذاتِ معظم کو بیان کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مُطَيَّبَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کے پاک کئے ہوئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مُطِيعَةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللہ کے اطاعت گزار

اللہ تعالیٰ

مَدِيقُ
اللہ کے
اللہ کے دست

اللہ تعالیٰ

مُتَمَصِّدًا قَوْلًا
اللہ کے زجان

اللہ تعالیٰ

تَشْفِيعِ اللہ
اللہ شفاعت طلب کرنے والا

اللہ تعالیٰ

فَصِيحِ اللہ
اللہ سے صاف گوئی کے مالک

اللہ تعالیٰ

اللہ بَرَّاهُ فِي اللہ
اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا

اللہ تعالیٰ

كُنْزِ اَمَانِ اللہ
اللہ کی امن کے خزانے

اللہ تعالیٰ

اللہ قَلْبِي اللہ
اللہ قدرت خداوندی کی علامت

اللہ تعالیٰ

فَرَشِي
اللہ
اللہ کی طرف سے قریش میں ظاہر کئے جانے والے

اللہ تعالیٰ

كِرِيْمِ
اللہ
اللہ کی طرف سے عزت مالک

اللہ تعالیٰ

كِرَامَةِ
اللہ
اللہ کی عزت کے مظہر اتم

اللہ تعالیٰ

نَذِيرِ
اللہ
اللہ کی طرف سے ڈرانے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سِرِّ تَكْوِينِ
اللّٰهِ

تکوین الہی کے راز

سَبِيلِ اللّٰهِ

اللہ کی طرف رہنمائی فرمانبرداری

بَيْنِ تَوْفِيقِ اللّٰهِ

اللہ کی توفیق کی برکت

خَاصَّةً اَصْفِيَاءِ اللّٰهِ

اللہ کے چنے ہوئے میں سے خاص ترین

خِلاَصَةِ عِبَادِ اللّٰهِ

حاصل بندگان خدا

لِسَانَ حِجَّتِهِ

اللہ کی دیسل کی زبان

وَأَمْرًا لِلّٰهِ

اللہ کی طرف سے حکم

مَلِكِي
اللّٰهِ

اللہ کی طرف سے حکم میں بھیجے گئے

مُدَنِي
اللّٰهِ

اللہ کی طرف سے مدینہ میں بھیجے ہوئے

مُنِيب
اللّٰهِ

اللہ کی طرف سے جوئے کرنے والے

غَنِي
اللّٰهِ

اللہ کی صفت غنا کا مظہر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُعْتَصِمِ
 بِاللَّهِ
 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُعْتَصِمِ
 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُعْتَصِمِ
 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُتَكِدِّينَ بِدِينِ اللَّهِ
 اللہ کے سر پر اچھڑنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُتَكِدِّينَ بِدِينِ اللَّهِ
 اللہ کے سر پر اچھڑنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الْمُتَكِدِّينَ بِدِينِ اللَّهِ
 اللہ کے سر پر اچھڑنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الَّذِي هُوَ
هَدَاةُ اللَّهِ
 جن کو اللہ نے اپنی راہ دکھائی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الَّذِي هُوَ
هَدَاةُ اللَّهِ
 جن کو اللہ نے اپنی راہ دکھائی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الَّذِي هُوَ
هَدَاةُ اللَّهِ
 جن کو اللہ نے اپنی راہ دکھائی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الَّذِي هُوَ
هَدَاةُ اللَّهِ
 جن کو اللہ نے اپنی راہ دکھائی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شُكْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ

اللہ کی نعمت کا شکر

بِقَوْلِهِمْ

اللہ کی کلمت کا قول

عَلَمُونَ مَلِكِ اللَّهِ

اللہ کی مملکت کی پہچان

دَلَالَةُ كَرَامَاتِ اللَّهِ

اللہ کی بزرگیوں کی نشانی

مُؤْصَوِّفٍ بِاصْطِفَاءِ اللَّهِ

اللہ کے انتخاب سے موصوف

مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

اللہ کے عباد میں

بِأَنَّ فِيهَا كَرَامَاتُ اللَّهِ

اللہ کی بزرگیوں کی نشانی

أَجْسِدِ خَلْقِ اللَّهِ

اللہ کی مخلوق سے حسین تر

بِأَنَّ

اللہ کے انوار کا سمندر

مَخْزَنِ

اللہ کے رازوں کا خزانہ

مَزِينٍ بِصِفَاتِ اللَّهِ

اللہ کی صفات کے ساتھ راستہ

حَافِظِ حُدُودِ اللَّهِ

اللہ کی حدوں کے محافظ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

نَاشِرِ أَمْرِ اللَّهِ
اللہ کے حکم کو پھیلائیے والے

مُسْتَسْرِبِ الْوَجْهِ الْكَامِلِ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

كَثِيرِ أَنْوَارِ اللَّهِ
اللہ کے کثیر انوار والے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

مَلُوكِ الْمَلَكِ الْمَلِكِ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

كَبِيرِ أَسْرَارِ اللَّهِ
اللہ کے بڑے رازوں والے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

بِإِذْنِ اللَّهِ
اللہ کے اذن کے ساتھ حرام کرنے والے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

رَبِّسِ جُنُودِ اللَّهِ
اللہ کے لشکروں کے رئیس

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

بِإِذْنِ اللَّهِ
اللہ کے اذن سے حلال کرنے والے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

اللہ عزوجل

اللہ عزوجل

کَمَالِ
قُدُسِ اللَّهِ

اللہ کی پاک
کا کمال

اللہ عزوجل

مُتَّكِلِ الْوَالِدِ

اللہ کے والد کا
متکا

اللہ عزوجل

نُظْفِرِ الْجَمَالَ

اللہ کے کمال کا
جمال

اللہ عزوجل

مِرَاةِ جَمَالِ اللَّهِ

اللہ کے جمال کا
آئینہ

اللہ عزوجل

مُسْتَهْوِلِ كَمَالِ اللَّهِ

اللہ کے کمال کا
شہو

اللہ عزوجل

بُرْدَةِ جَلَالِ اللَّهِ

اللہ کے جلال کی
چادر

اللہ عزوجل

مُتَّكِلِ الْوَالِدِ

اللہ کے والد کا
متکا

اللہ عزوجل

سِرَاجِ
أَفْقِ اللَّهِ

اللہ کے افق کے
چراغ

اللہ عزوجل

نُورِ عَرْشِ اللَّهِ

اللہ کے عرش کی
روشنی

اللہ عزوجل

زِينَةِ
عَرْشِ اللَّهِ

اللہ کے عرش کی
زینت

اللہ عزوجل

رِضْوَانِ اللَّهِ

اللہ کی
رضنا کا کمال

اللہ عزوجل

جَمَالِ
قُدُسِ اللَّهِ

اللہ کی پاک
کا جمال

اللہ عزوجل

أَمِيرِ
أَسْرَارِ اللَّهِ

اللہ کے رازوں کے
امین

اللَّهُمَّ أَنْتَ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَاعْفِرْ ذُنُوبِي وَأَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ
 اے اللہ! تو میرا آقا و مولا ہے میرے گناہ بخش دے اور مجھے آتش دوزخ سے آزاد فرما۔

يَا قُدُّوسُ يَا سُبُّوحُ أَنْتَ الْمُنَزَّاهُ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْمُعَائِبِ وَالْمَرَاتِبِ
 اے قدوس اے سبح تو پاک ہے تمام نقائص اور عیوب سے اور ترقیوں سے

وَأَنْتَ الْمُعَظَّمُ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ يَا عَلِيُّ يَا مُتَعَالِي
 اور تو ہی لائق تعظیم ہے (حقیقت میں) تمام مشرق اور مغرب علاقوں میں۔ اے بلند شاندار اے بلند

لَكَ الْحُلَى وَالشَّاءُ مِنْكَ وَإِلَيْكَ مُنْتَهَى الْأَمَلِ وَأَنْتَ هَاءِ الْأَمْرِ
 درجات والے تیرے ہی لئے ہے بلندی اور شفاء اور تجھی سے اور تجھی تک ہے انتہا ہر امید و آرزوی اور انتہا

وَالرَّجَاءِ يَا أَوَّلَ يَا آخِرَ لَا يَخْلُفُ بَدَايَةَ لَكَ وَلَا أَنْتَهَاءَ لَكَ يَا قَادِرُ
 ہر امر اور رجاء و امید کی۔ اے اول کے آخر نہیں ابتدا تیری اور نہ ہی انتہا تیرے لئے۔ اے قادر

يَا قَدِيرُ يَا مُقْتَدِرُ لَا قُدْرَةَ إِلَّا لَكَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اے قدیر اے مقتدر نہیں قدرت مگر تیرے لئے نہیں طاقت اور قوت مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے

يَا وَاحِدٌ لَا وُجُودَ وَلَا غِنَاءَ لِأَحَدٍ مِّنْ غَيْرِكَ يَا سَمِيعُ
 اے واحد نہیں وجود اور نہ غنا کسی کے لئے سوائے تیری عطا کے۔ اے سمیع

يَا بَصِيرُ يَا عَلِيمُ تَسْمَعُ النُّجُومَ وَتَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى يَا فَاطِرُ
 اے بصیر۔ اے در علم تو سنتا ہے سرگوشیوں کو اور جانتا ہے علانیہ کو اور جو مخفی ہے۔ اے پیدا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَطَرْتَ فِطْرَةَ فَايْدَعْتَ وَصَنَعْتَ فَاحْسِنَاتِ
 کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے تو نے پیدا فرمایا پس عمدہ انداز میں پیدا کیا اور ڈھالا پس اچھی طرح ڈھالا

وَخَلَقْتَ يَا مَالِكُ يَا مَلِكُ أَنْتَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ وَالسُّلْطَانُ الْعَظِيمُ
 اور موجود کیا اے مالک۔ اے شہنشاہ تو ہی قدیم بادشاہ اور عظیم سلطان ہے۔

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبِصَرِّي وَاجْعَلْهُمَا
 اے اللہ! تو مجھ کو میرے کانوں اور آنکھوں سے (صحیح) فائدہ پہنچا اور انہی

الْوَارِثِ مِنِّي وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي وَخُدُّ
 دونوں کی (منفعتوں) کو میرا وارث (یادگار) بنا دے اور جو شخص مجھ پر ظلم کرے اس کے مقابلے

مِنْهُ بِشَارِي أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
 پر میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے۔

سرور کو میں نے فرمایا اللہ علی ما طعام نمک سے شرع کر اور نمک کے
ساتھ ختم کیا کر کیونکہ نمک ستر بیماری سے شفا ہے جن میں جنون اور جنام
اور برص کا اور وہاں نماں کا اور وہاں پیٹ کا درد ہے۔

منظہر حق ہو تمہیں منظہر حق ہو تمہیں

تم میں ہے ظاہر خدا تم پہ کر و دروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قِيَمُ يَا بَدِيْعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ
الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْفَاسِ الْذَكَرِ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُعْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِفِينَ وَالْهَوَسَاءِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْثَرِ الْأَقْوَالِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<p>بِرَهْمَانِ آيَاتِ اللّٰهِ</p> <p>اللہ کی آیات کا معجزہ</p>	<p>أَفْضَلُ حُضْنٍ مَّمْلُوحٍ</p> <p>اللہ نے جسکی تعریف فرمائی ان میں سے سب سے افضل</p>
<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>وہ ذات جن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے</p>	<p>زِينَةُ اللّٰهِ</p> <p>اللہ کی زینت</p>
<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>وہ ذات جن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے</p>	<p>أَشْرَفُ الْمُنَادِينَ</p> <p>ہدایت الہی کے رستوں کی طرف بلائیوں میں سب سے زیادہ عزت والے</p>
<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>وہ ذات جن کی محبت اللہ کی محبت ہے</p>	<p>يَتَّبِعُوا اللّٰهَ</p> <p>اللہ کے (پہنچے ہوئے) کو ہر یکتا</p>
<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>وہ ذات جن کی محبت اللہ کی محبت ہے</p>	<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>وہ ذات جن کی تعریف اللہ کی تعریف ہے</p>
<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>وہ ذات جن کو قوت دی</p>	<p>قَرِيبِ اللّٰهِ</p> <p>اللہ کے ہاں قریب</p>
<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>اللہ کے خاص بندوں سے خاص</p>	<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>اللہ نے جن کو قوت دی</p>
<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>اللہ کے محبوبوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ</p>	<p>نُورِ اللّٰهِ</p> <p>اللہ کے نور</p>
<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>بارگاہِ خلدندی میں حضوری والے</p>	<p>أَحَبُّ أَحْبَابِ اللّٰهِ</p> <p>اللہ کے محبوبوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ</p>
<p>الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ</p> <p>بارگاہِ خلدندی میں حضوری والے</p>	<p>نَدِيمِ حَضْرَةِ اللّٰهِ</p> <p>اللہ کے ہمراہ</p>

انیس طلاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منس طلاب اللہ
 الصادع بما أمر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر خداوندی کے ساتھ
 پھٹ پڑنے والے

امین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امین
 اور محرم راز

من احبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے محبوب بنایا
 من شرفہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے شرف عالی بخشا

خيار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے
 ہوئے

من کرمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے مکرم بنایا
 امام جنود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لشکروں کا امام

عامر کعبۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ
 کو آباد کرنے والے

امام دین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اللہ کے امام
 امام حزب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت اللہ کے امام

من قربہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اپنا مقرب بنایا

امام شرع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کے امام
 امام حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کے امام

صَاحِبِ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
 مالک ہیں اس مرتبے کے "جس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی"

بَدْرِ جَلالِ اللَّهِ
 اللہ تعالیٰ کے جلال کے ماہ تمام

صَفِيَّ اللَّهِ
 اللہ کے مخلص دوست

الَّتِي آيَاتِ اللَّهِ تَلَاوتُ فَرَائِدَ الْوَالِدِ
 اللہ کی آیات کی تلاوت فرمانے والے

صِرَاطِ اللَّهِ
 راہِ خدا

الْحَاكِمِ بِمَا آرَأَى اللَّهُ
 اللہ کی ہدایت کے مطابق فیصلہ کرنے والے

نِعْمَةِ اللَّهِ
 اللہ کی نعمت

الْحَافِظِ لِعَهْدِ اللَّهِ
 اللہ سے کئے ہوئے عہد کے پاسبان

الْوَاعِي لَوْحِي اللَّهِ
 وحی کی حفاظت کرنے والے

مَخْطِيبِ الْوَأْفِدِينَ عَلَى اللَّهِ
 اللہ کی بارگاہ میں باعزت حاضر ہونے والوں کے ترجمانِ خوش بیان

مَكْدِيَّةِ اللَّهِ
 اللہ کا تحفہ

النَّاصِحِ لِعِبَادِ اللَّهِ
 اللہ کے بندوں سے خیر خواہی کرنے والے

عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ
 اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے والے

الْمُبْعُوثَاتِ بِرِسَالَاتِ اللَّهِ
 الشّد کے پیغامات کے ساتھ بھیجے ہوئے

مَنْفِذِ أَمْرِ اللَّهِ
 امر اللہ کو نافذ کرنے والے

نَجِيٍّ لِلَّهِ
 اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے

الْمُخَازِنِ لِأَمْرِ اللَّهِ
 خدا کے خزانوں کے پاسدار

الْمُنْفِذِ لِحُكْمِ اللَّهِ
 احکام اللہ کو نافذ کرنے والے

نَبِيٍّ لِلَّهِ
 اللہ کے نبی

الْمُقَاتِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے

خَازِنِ عِلْمِ اللَّهِ
 خدائی علم کے پاسدار

الْأَخْشَى لِلَّهِ
 اللہ سے زیادہ ڈرنے والے

صَاحِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 لا الہ الا اللہ والے

الْمُبِينِ لِأَحْكَامِ اللَّهِ
 احکام خدا و وحی کو بیان کرنے والے

ذِكْرِ اللَّهِ
 اللہ کی یاد

الْمُنْفِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے

الْمُهَاجِرِ إِلَى اللَّهِ
 اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے

الأصْدَقِ فِي اللَّهِ اللَّهُ **الدَّاعِيَ إِلَى اللَّهِ** اللَّهُ
 اللہ کے بارے میں سب زیادہ سچے اللَّهُ اللہ کی طرف دعوت دینے والے اللَّهُ
الْوَجِيهَ بَارِعًا اللَّهُ
الْأَعْلَى بِاللَّهِ اللَّهُ **سَيِّدِ خَلْقِ اللَّهِ** اللَّهُ
 اللہ کو زیادہ جاننے والے اللَّهُ اللہ تعالیٰ کی تمام اللَّهُ
 مخلوق کے سردار اللَّهُ
رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ
 اللہ کے رسول اللَّهُ
الْمَجَاهِدِ اللَّهُ **الْمُسْتَعْنَى بِاللَّهِ** اللَّهُ
 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اللَّهُ اللہ کے ساتھ غنی اللَّهُ
رِضْوَانِ اللَّهِ رِضَائِهِ اللَّهُ
الْمُصْعَدِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ **الْمُقَابِلِ** اللَّهُ
 اللہ کی طرف لے جانے والے اللَّهُ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللَّهُ
الْمُعَزِّزِ بِاللَّهِ اللَّهُ **عِزَّتِهِ** اللَّهُ
 اللہ کی طرف سے اللَّهُ عزت دینے والے اللَّهُ
الْمُسْكِنِ بِاللَّهِ اللَّهُ **الْمُسْلِمِ مِنَ اللَّهِ** اللَّهُ
 اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللَّهُ اللہ کی طرف سے بہام اللَّهُ
 عطا فرمائے گئے اللَّهُ

مِنَّةُ اللَّهِ

اللہ کے عظیم احسان

الْعَارِفِ بِاللَّهِ

اللہ کو پہچاننے والے

عَبْدِ اللَّهِ

اللہ کے بندے

عِصْمَةُ اللَّهِ

اللہ کی طرف سے محفوظ

تَنْوِيرِ اللَّهِ

اللہ کے نور

الْغَنِيِّ بِاللَّهِ

اللہ کے ساتھ غنی

سَبِيلِ اللَّهِ

اللہ کا راستہ

فَضْلِ اللَّهِ

اللہ کا فضل

سَعْدِ الشَّيْءِ

اللہ کے نیک بخت

أَهْلِ اللَّهِ

اللہ والے

أَنْعَمِ اللَّهِ

اللہ کا انعام

آيَةِ اللَّهِ

اللہ کی نشانی

بُرْهَانِ تَنْوِيرِ اللَّهِ

اللہ کے نور کی دلیل

مُخْتَابِ اللَّهِ

اللہ کے پُچھے ہوئے

ابن عبد اللہ صلى الله عليه وسلم **باب الحوائج الى الله** صلى الله عليه وسلم
 عبد اللہ کے بیٹے صلى الله عليه وسلم اللہ کی طرف حاجات کا دروازہ صلى الله عليه وسلم
حبیب اللہ صلى الله عليه وسلم **المؤيد بروح** صلى الله عليه وسلم
 اللہ کے محبوب صلى الله عليه وسلم اللہ کی روحانیت کے ساتھ تقویت دینے کے صلى الله عليه وسلم
المُنور بانوار صلى الله عليه وسلم **لا اله الا الله** صلى الله عليه وسلم
 اللہ کے ساتھ منور کئے گئے صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله کے ساتھ منور کئے گئے صلى الله عليه وسلم
حزب اللہ صلى الله عليه وسلم **المُتوج بانوار** صلى الله عليه وسلم
 اللہ کی جماعت صلى الله عليه وسلم اللہ کے انوار کا تاج پہنانے کے صلى الله عليه وسلم
الجالس على صلى الله عليه وسلم **لا اله الا الله** صلى الله عليه وسلم
 اللہ کے بیٹھنے والے صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله کے بچھونے پر بیٹھنے والے صلى الله عليه وسلم
خليفة الله صلى الله عليه وسلم **المُطعم من** صلى الله عليه وسلم
 اللہ کے خلیفہ صلى الله عليه وسلم اللہ کے دسترخوان سے کھانے والے صلى الله عليه وسلم
المُسقى من صلى الله عليه وسلم **شراب لا اله الا الله** صلى الله عليه وسلم
 اللہ کے پینے والے صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله کے شراب سے پینے والے صلى الله عليه وسلم
خيل الله صلى الله عليه وسلم **المُرفور كل** صلى الله عليه وسلم
 اللہ کے دوست صلى الله عليه وسلم جو محیط ہیں ماسوا اللہ کو صلى الله عليه وسلم
خيرة الله صلى الله عليه وسلم **مأسوى الله** صلى الله عليه وسلم
 اللہ کے پسند فرمائے ہوئے صلى الله عليه وسلم جو محیط ہیں ماسوا اللہ کو صلى الله عليه وسلم

خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ اللہ کی مخلوق میں سے افضل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نُورِ جَلَالِ اللَّهِ اللہ کے جلال کے نور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِهَاءِ نُورِ اللَّهِ اللہ کے نور کی زینت

النَّبِيِّ حُجَّةِ اللَّهِ وہ نبی جو اللہ کی دلیل ہیں صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 النَّبِيِّ كَنْزِ اللَّهِ وہ نبی جو اللہ کا خزانہ ہیں صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْإِلَاحِ بِالله اللہ تعالیٰ سے ملنے والے

النَّبِيِّ مِنْ أَطَاعَةٍ وہ نبی کہ جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 النَّبِيِّ مِنْ عَصَاةٍ وہ نبی کہ جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمَأْمُورِ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے مامور

أَعَزُّ مَنْ أَنْتَ صَرِيحٌ بِاللَّهِ اللہ سے مدد حاصل کرنے والوں سے عزیز تر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَشْرَفُ خَلْقِ اللَّهِ اللہ کی ساری مخلوق سے بزرگ تر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّبِيِّ عَبْدُ اللَّهِ وہ نبی جو اللہ کے خائن بندے ہیں

أَفْضَلُ اللہ کی ساری مخلوق سے افضل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 خَلْقِ اللَّهِ اللہ کی ساری مخلوق سے مکرم ترین صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُقِنِّعِ بِقِنَاعِ الشَّدِّ كَيْفَ نُورِ الشَّدِّ
قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اللہ کے نور کی منیہ کا نقاب اڑھنے والے
لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں افضل

سِرِّ الشَّدِّ
اللہ (بندوں کیلئے) سہولت
نِدَاءِ الضَّمِيرِ
اللہ کی اطاعت کی طرف منیر کی آواز
دَلِيلِ الْقُلُوبِ
اللہ کی رحمت کے متعلق اچھا امتقاد رکھنے کی طرف لوں کو رہنا
إِلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ

طَاعَةِ الشَّدِّ
اللہ کی اطاعت

أَرْحَمِ خَلْقِ اللَّهِ
اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے
أَحْلَوْ خَلْقِ اللَّهِ
ساری اللہ کی مخلوق سے زیادہ حلیم

قَائِمِ الشَّدِّ
اللہ کے لئے قائم

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
جو اللہ پر ایمان لائے
صَاحِبِ
اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے
الْهُدَايَةِ فِي اللَّهِ

سِرِّ الشَّدِّ
اللہ کے سراپا راز

صَاحِبِ الْمَنَاهَا
اللہ کی راہ میں بلندی تک پہنچنے والے
صَاحِبِ الْبَقَاءِ بِاللَّهِ
مقامِ فنا فی اللہ کے مالک

بَدْرِ اعْظَامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْدِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمَامِ رَسْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ماہ تمام اللہ تعالیٰ کی عظمت کے
 اللہ کے پیغمبروں کے امام

مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وہ ذات جن سے اللہ نے وعدہ فرمایا

الْمُسْتَعْرِقِ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَعْرِقِ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَقَامِ الْبَقَاءِ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِ الْبَقَاءِ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مقام لقاہ اللہ میں مشتغرف مقام بقاہ باللہ میں مشتغرف

مَنْ اجابَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وہ ذات جن کو اللہ نے قبول فرمایا

مَنْ ارشَدَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اجْتَبَاهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وہ ذات جن کو اللہ نے رُشد و ہدایت عطا فرمائی وہ ذات جن کو اللہ نے چنا

مَنْ مَدَحَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وہ ذات جن کی اللہ نے تعریف کی

مَنْ ظَهَرَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اصْطَفَاهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وہ ذات جن کو اللہ نے پاک فرمایا وہ ذات جن کو اللہ نے پسند فرمایا

خَيْرَةَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اللہ کے بزرگزیادہ

اَفْضَلِ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَكْمَلِهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اللہ کی بڑائی بیان کرنیوالوں سے افضل وہ ذات جن کو اللہ نے مکمل کر دیا

عِظْمَةُ عِزَّةِ اللَّهِ اللَّهُ عِظْمَةُ عِزَّتِهِ
 اللہ کے غلبہ کی عظمت کے ساتھ عظیم

مِیْلَتُكَ صُنْعِ قُدْرَةِ اللَّهِ اللَّهُ مِیْلَتُكَ صُنْعِ قُدْرَتِهِ
 اللہ کی قدرت کی صنعت کے بادشاہ

ظُهُورِ اللَّهِ اللَّهُ ظُهُورِ اللَّهِ
 اللہ کے ظہور

أَفْ صَنْعِ اللَّهِ اللَّهُ أَفْ صَنْعِ اللَّهِ
 اللہ کی مصنوعات میں افضل

قُدْرَةِ اللَّهِ اللَّهُ قُدْرَةِ اللَّهِ
 اللہ کی قدرت

يَدِ اللَّهِ اللَّهُ يَدِ اللَّهِ
 اللہ کے دست راست

حِشْمَةُ اللَّهِ اللَّهُ حِشْمَةُ اللَّهِ
 اللہ کی عظمت

ضِيَاءِ اللَّهِ اللَّهُ ضِيَاءِ اللَّهِ
 اللہ کا نور

جَارِ اللَّهِ اللَّهُ جَارِ اللَّهِ
 اللہ کی طرف سے پناہ

مُنْ دَعَاؤِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ دَعَاؤِ اللَّهِ
 جسے رب نے مخاطب کیا

حَنَّانِ عَطْفِ اللَّهِ اللَّهُ حَنَّانِ عَطْفِ اللَّهِ
 اللہ کی مہربانی کے ساتھ مہربان

دَوْلَةِ اللَّهِ اللَّهُ دَوْلَةِ اللَّهِ
 اللہ کی حکومت

أَقْرَبِ مُقَرَّبِي اللَّهِ اللَّهُ أَقْرَبِ مُقَرَّبِي اللَّهِ
 اللہ کے مقربین میں سے سب سے بڑھ کر مقرب

نَجْوَى غَيْبِ اللَّهِ اللَّهُ نَجْوَى غَيْبِ اللَّهِ
 اللہ کے غیب کے نجی

رَافِعُ مَنْزِلَةِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ **الْكَرِيمُ يُؤَبِّدُكُمْ مِنَ اللَّهِ**
 مخلوق کے مقام کو بلند کرے نبوالے اللہ کے ہاں صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جو کریم ہیں اللہ کے کرم کے ساتھ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَسْعَدُ كَوْنِ اللَّهِ
 اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ سعادتمند صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِلَطْفِ اللَّهِ **الْمُخْتَارِ لِمَعْرِفَةِ اللَّهِ**
 جو ہر بیان میں اللہ کی مہربانی کے ساتھ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ کی معرفت کیلئے چنے ہوئے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَبْلَةَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ
 اولیاء اللہ کا قبلہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُحَقِّقِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ **الْمُحَقِّقِ بِصِفَاتِ اللَّهِ**
 جو محقق ہیں اللہ کے اسماء کے ساتھ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جو محقق ہیں اللہ کی صفات کے ساتھ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْكَافِي بِكَفَايَةِ اللَّهِ
 کفایت کرنے والے اللہ کی کفایت کے ساتھ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشَّافِي شِفَاءِ اللَّهِ **سِرِّ مَنْ سِرِّ اللَّهِ**
 شفا دینے والے اللہ کی شفا کے ساتھ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ کے رازوں کا راز صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نُورٍ مِّنْ نُورِ اللَّهِ
 اللہ کے انوار مخصوصہ کا نور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رُوحٍ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ **الْقَائِمِ لِعَظَمَةِ اللَّهِ**
 امر خداوندی کی روح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ کی عظمت پر قائم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَتَّبِعِ الْوَجْهَ **بَسِطِ الْوَجْهَ**
 روشن چہرے والے **بَسِطِ الْوَجْهَ** ہنس مکھ
الْمُجْعَلِ مَتَّه
 اپنی اُمت کیلئے بناو گاہ
الْمُسْتَنْبِرِ الْوَجْهَ **مَكْلِعِ الْوَجْهَ**
 بارونق چہرے والے **مَكْلِعِ الْوَجْهَ** دلکش و جاذب نظر چہرے والے
طَلِقِ الْوَجْهَ **بِرَّه**
 ہنس مکھ **بِرَّه** برہ
يَا أَيُّهَا الْأَنْعَامُ مِنَ اللَّهِ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**
 اللہ دستِ انعام کی یا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کلمہ لا الہ الا اللہ کی دلیل مطلق
مَحِيطِ كَرَامَاتِ اللَّهِ
 کراماتِ الہیہ کے محیط
الَّذِي خُلِقَ مِنْ نُورِ اللَّهِ **مُحَمَّدٍ خَلَقَ اللَّهُ**
 جو اللہ کے نور سے پیدا کئے گئے **مُحَمَّدٍ خَلَقَ اللَّهُ** اللہ کی مخلوق میں محمود
أَحْمَدِ أَمْرِ اللَّهِ
 اللہ کے امر کی حمد کرنے والے
قَبْلَةَ أَصْفِيَاءِ اللَّهِ **بَرْقِ أَفْقِ اسرارِ اللَّهِ**
 اللہ کے اصفیاء کا قبلہ **بَرْقِ أَفْقِ اسرارِ اللَّهِ** اللہ کے اسرار کے افق کی بجلی

الشُّكْرُ كَمَلٌ لِنِعْمَاءِ اللَّهِ وَهُدًى إِلَى الْمَشْتَقِ إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ

اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر نیوالے اللہ سے ملاقات کے مشتاق

مَتَلَذُّ ذِكْرِ اللَّهِ

اللہ کے ذکر کیساتھ لطف اندوز ہونے والے

الْمُتَوَجِّهِ إِلَى جَنَّةِ اللَّهِ

بارگاہِ خداوندی کی طرف متوجہ ہونے والے

عَيْنِ الْمُتَوَصِّلِينَ إِلَى اللَّهِ

ذاتِ خداوندی تک پہنچانے والوں کی چشم بینا

كَرَّمَ كَرَمَاءَ اللَّهِ

اللہ کے تمام مہربان لوگوں سے زیادہ مہربان

اللَّهُمَّ اقْذِفْ فِي قَلْبِي رِجَاكَ فَاقْطَعْ رِجَائِي

اے اللہ! اڈال تو میرے دل میں اپنی امید اور قطع کر امید میری ماسوائے اپنے یہاں تک کہ نہ امید

عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُوا أَحَدًا غَيْرَكَ اللَّهُمَّ

رکھوں میں کسی سے تیرے سوا۔ اے میرے اللہ

وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِي وَقَصُرَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَوْ بِنَاءِ

اور وہ چیز کہ ضعیف ہے اس سے قوت میری اور قاصر تھا اس سے عمل میرا۔ اور میری رغبت

إِلَيْهِ رَغْبَتِي وَلَوْ تَبَلَّغَهُ مَسْأَلَتِي وَلَوْ يَجْرَعُ عَلَى لِسَانِي

اس کی طرف منتہی نہیں ہوتی اور نہیں پہنچا اس تک سوال میرا اور جاری ہوئی میری زبان پر وہ چیز

مِمَّا أُعْطِيتَ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ

جو تو نے عطا کی کسی ایک کو اولین و آخرین سے

الْيَقِينِ فَخَصِّصِي بِهِ يَا رَحْمَتُ الرَّاحِمِينَ

یقین پس خاص کر اس کو اے رحم الرحیمین۔

تینتیسویں منزل

سرور کو میں نے فرمایا
اے علی! کیا تجھے لوگوں سے بلا قرین آدمی سے بتاؤں؟ عرض
کی ہاں! فرمایا! جہاں گیا سفر کرے اور دوسرے سے اپنا شیخ روک رکھے اور
اپنے قلام کو مارے کیا تجھے ان سے بد قرین آدمی سے بتاؤں؟ عرض کی ہاں!
فرمایا! جس سے اچھا لگی امید ہے اور جس کے شر سے امن ہے۔

برسے کرم کی بھرن پھولیں انم کے چمن
اسکی چلا دو ہوا تم پہ کروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيدُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا وَجِدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِانْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُحْمَوْرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَالْأَلْمِ وَتَكْرِيبِ الْأَكْثَرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَقْرَبِ الْكَلِمَاتِ الْكَلِمَاتِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مُدَوَّرِ الْوَجْهِ ۷
قِبْلَةَ ۷

موزوں گول چہرے والے

قبلہ میں تجلیاتِ حقیقت کے چہروں کا

كَمَالِ كُنْهِ الْكُنْهِ ۷
عَيْنِ الْكُنْهِ فِي الْكُنْهِ ۷

حقیقتِ اصلہ کے کمال مجسم

عین حقیقت میں حقیقت میں

الذَّاتِ الْكُنْهِ ۷
كُلُّ مَنْ يَتَوَجَّهُ ۷

ذات حقیقیہ

وہ ذات جن کی طرف توجہ کرتا ہے ہر توجہ کرنے والا

لَيْسَ لَهُ شِبْهُ الَّذِي ۷
أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۷

جن کے کوئی بھی مشابہہ نہیں (فضل و کمال میں)

اپنے رب کی طرف سے وحی کردہ پیغام کو پہنچانے والے

الْمُسْرَىٰ بِهِ ۷
الْكَامِلِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ ۷

جنہیں رات میں سفر معراج کرایا گیا

سب چیزوں میں باکمال

الْمُقْصُوصِ عَلَيْهِ ۷
الْمَوْحَىٰ إِلَيْهِ ۷

جن کو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں

جن کی طرف وحی کی گئی

التَّائِظِ مِنْ خَلْفِهِ ۖ الْمُسْتَضَاءِ بِهِ ۖ

پیچھے والوں کو دیکھنے والے جن سے روشنی حاصل کی جائے

الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ ۖ الشَّهِيدِ كَيْفَ دَعَا يَوْمَ تَبَايَعُوا ۚ

اللہ کی طرف دعوت دینے والے اللہ کے ایک بندے اور نالی ہیں۔

طُورِ النَّبُوءَةِ الَّذِي ۖ

مُوسَىٰ مِنْ جَوَانِبِهِ ۖ كَمَالِ إِلَىٰ كَمَالِهِ ۖ

نبوت کے کوہ طور کہ حضرت کلیم علیہ السلام بھی اس کا ایک کنارہ ہیں جو ہر کمال میں انتہا کو پہنچنے والے

أَفْضَلِ نِعَمِ اللَّهِ وَالْآبِئِهِ ۖ

اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت تمام انبیاء قیامت کے دن جن کے جھنڈے تلے ہونگے

مَنْوَرِ الْعَدْلِ بَسْطًا ۖ

عدل کو اپنے تسلط اور غلبے سے روشن کرنے والے زبان حق ترجمان سے قرآن کی تبلیغ کرنے والے

الْمُتَوَكِّلِ جَالِهِ ۖ

اپنے کلام میں اظہار تو وضع فرمانے والے اپنے حال میں توکل کرنے والے

الْمُظْهِرِ فِي مَقَالِهِ ۖ

رِعَايَةِ اللَّهِ فِي مَلِكِهِ | خَيْرٌ
مَنْ صَكَّيْتِ عَلَيْهِ

اللہ کی حفاظت اس کی بادشاہی میں بہتر ان تمام سے جن پر اللہ نے مسلولہ بھیجی۔

صَاحِبِ طَهٍ | الْمَنْزِلِ عَلَيْهِ
طہ والے وحی نازل کئے گئے

الْمَسَاحِ عَلَى رَبِّهِ | الْمَسَكَلِ فِي
جَمِيعِ امُورِهِ
اپنے رب کے ساتھ زاری کرنے والے تمام امور میں مکمل

مَعَلُوا أُمَّتَهُ | الْمَضْحَى بِيَدِهِ
امت کو تسلیم دینے والے اپنے دست مبارک قربانی فرمائیے

الْمَضْحَى عَنْ أُمَّتِهِ | الْمَضْحَى عَنْ أَرْوَاجِهِ
اپنی امت کی طرف قربانی کرنے والے اپنی اڑج مطہرات کی طرف قربانی کرنے والے

الْمُصَلِّي عَلَيْهِ | الْمُصَلِّي عَلَى نَفْسِهِ
دُرود شریف بھیجے گئے دُرود شریف پر خود دُرود بھیجنے والے

الْمَسْلُوعِ عَلَيْهِ | مَبْلَغِ أُمَّتِهِ
 السلام کئے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 اپنی اُمت کو تبلیغ کرنیوالے

الْمَرْجَحِ فِي قِرَاتِهِ | مَحْسَرِ الْوُجْهِ
 قرأت میں نوش الحان قرأت میں
 سرخ چہرے والے

السَّرَاوِي عَنْ رَبِّهِ | الْمُنْفِقِ عَلَى أُمَّتِهِ
 اپنے رب سے روایت کرنیوالے اپنی اُمت پر خرچ کرنیوالے

الْمُؤَرَّودِ حَوْضِهِ | الْمَوْحَى إِلَيْهِ
 صاحب حوضِ گوثر وحی کئے گئے

الْمُنْفِقِ عَلَى الْإِسْلَامِ | الْمَشْهُوفِ عَلَيْهِ
 اپنے اہل دعیال پر خرچ کرنیوالے جس پر فریفتہ ہوا جائے

الْمُسْتَلَوْ عَلَيْهِ | مَبَشِّرِ أُمَّتِهِ
 تلامذات کرائے گئے اپنی اُمت کو بشارت دینے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

خَيْرِ لَأَمِّهِ

اپنے گھر والوں کے لئے بہتر

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

كَاشِفِ الْوَجْهِ

چہرہ انور کا دیدار کروانے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

الَّذِي بَادَرَ

مِيكَائِيلَ لِي خِدْمَتِهِ

جن کی خدمت کے لئے میکائیل علیہ السلام نے جلدی کی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

الَّذِي رَغِبَ

الرِّيحُ فِي اَرْضَاءِهِ

جن کی طرف رغبت کی ہواؤں نے ان کو راضی کرنے کی

الَّذِي رَغِبَ

الْمَلَائِكَةُ فِي اَرْضَاءِهِ

جن کی طرف رغبت کی ملائکہ نے ان کو راضی کرنے میں

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

الَّذِي رَغِبَ

السَّحَابُ فِي اَرْضَاءِهِ

جن کی طرف رغبت کی بادلوں نے ان کو راضی کرنے میں

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

الَّذِي رَغِبَ

الطَّيْرُ فِي اَرْضَاءِهِ

جن کی طرف پرندوں نے رغبت کی ان کو راضی کرنے میں

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

مَعْدَانَ ظُهُورِ

سَرْحَقِهِ

معدن ہیں سر حق کے ظہور کیلئے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

مَلَاكٍ مِنْ لَدُنْ جَنَابِهِ

جائے پناہ میں ہر اس کے لئے جو پناہ پکڑ لے ان کی بارگاہ میں

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

اَمْنَةَ اصْحَابِهِ

اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے لئے امان

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

الَّذِي خُصَّ

اللَّهُ بِمَحْرَفِنِهِ

جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کیلئے مخصوص بنایا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

مُظْهِرِ الْحَقِّ بِرُكْنِهِ

اپنے وجود کی دیسل کو ظاہر کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 الَّذِي لَاجِبَاتُهُ عَلَى جَلَالِهِ
 لَادَمَ وَمَنْ بَعْدَهُ
 آدم علیہ السلام اور ما بعد انبیاء کے سببے دل وترقی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 ظُهورِہ
 جن کی دُنیا میں تشریف آوری
 تمام جہانوں کے لئے بابرحت ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 الْمُرْفُوعِ ذِكْرِهِ
 بلند ذکر والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 الْمُرْفُوعِ دَرَجَتِهِ
 بلند درجوں والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 رُويَتِ الذُّبَابُ نُورِ طِينَتِهِ
 جنکی طینت کو نور سے سیراب کیا گیا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 ثَابِتِ الْمِيثَاقِ حَافِظِهِ
 میثاق پر ثابت قدم اور اس کے محافظ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 الْمَعْرُوفِ جَامِعِهِ
 وسیع جامع سخاوت والے

قَوَامِ الْحَقِّ وَنَظْمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | بَلَدِ جَدَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 حق کے قائم ہونے اور اس کے نظم و ضبط کا ذریعہ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | اسلام کی رونق اور اس کے چراغ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

حَبَالِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | رُوحِ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 سراپا جمال دین اور اس کی تکمیل صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | عالمین کی روح اور اس کی رحمت صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

الَّذِي طَهَّرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | الْجَسْمَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 جن کے جسم کو پاک رکھا گیا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | جن کی فضیلتیں بیان کر دی گئیں صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

الَّذِي عُرِفَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | قَدْرُهُ وَمَحَلَّتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 پہچان کرانی گئی جن کے مقام و مرتبے کی صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | جن کا بوجھ اتار دیا گیا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

الَّذِي عَمَّ نُورُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | النَّبِيلِ النَّبِيِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 وہ ذات جن کا فیض عام ہے صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | فضیلت و شرافت والے صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

الَّذِي رَفَعَ قَدْرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | الَّذِي أَوْجَبَ أَمْرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 جن کی شان بلند ہے صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ | جن کا حکم ماننا ضروری قرار دیا گیا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّذِي كَمُلَ ظَهْرُهُ

وہ جن کا ظہور مکمل ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّذِي جَلَّ سِرُّهُ

وہ جن کا راز بڑا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّذِي شَكَلَ بِرُّهُ

وہ جن کی نیکی عام ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّذِي بَلَغَ مَأْمُولَهُ

اپنے مقصد تک پہنچنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّتِي خَفُّوْا

بِخْتِ بَوْنِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّتِي حَطَّيْ سُوْلَهُ

جن کا سوال پورا کیا گیا

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَمَّنْ ظَلَمَتْهُ

دُرُكْرُ كَرِيْمُوْلِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

شَرَفَ اَبْرَاهِيْمُو

وَمِنْ دَوْنِهِ

بِزُرْكِ حَضْرَتِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي اُوْرَانِكِي عِلَادَه سَبْ كِي

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فَخُرَادَمٍ وَمِنْ بَعْدِهِ

حَضْرَتِ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُوْرَانِ كِي بَعْدِ دَالُوْنِ كِي فَخْرِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بِدْرِ الْاِسْلَامِ وَنُوْرِهِ

اِسْلَامِ كِي مَاهِ تَمَامِ اُوْرَا سِ كِي نُوْرِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

غَيْبِ اَسْرَارِ الْاِلٰهِ

اِسْرَارِ الْهَيْبَةِ كِي چھپنے كا مقام

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّذِي نَوَّرَ اللّٰهُ

مُظْهَرَ

جِن كِي مَحَلِّ ظَهْرِ كُو الشَّرِّ نِي مَنُوْرِ فَرَمَا يَا

سِرِّ الْوَجُودِ وَسَنَاهِ | نُورِ كُلِّ شَيْءٍ وَوَبْهَاهِ
 وجودِ ہستی کا راز اور اس کی روشنی | ہر چیز کا نور اور اس کا حسن

اللَّهُ تَعَظِيمُهُ وَتَكْرِيمُهُ | الْمَغْشَى الْمَلَكُ
 جن کی تعظیم و تکریم کو اللہ نے ظاہر فرمایا | کالی کالی میں اپنے اہل و عیال کو ڈھانپنے والے

الْمُرْحَصِ لَهُ | الْمَلِكِ دِي لَهُ
 رحمت دیئے گئے | تحفہ قبول فرمانے والے

أَوْجَهُ مِنْ تَوَجُّهِ | صَاحِبِ الْجَاهِ
 سب زیادہ توجہ فرمایا والے | عزت والے

مَنْ رَأَاهُ بَدِيهَةً | نُورِ اللَّهِ الْمُنِيرِ
 جن کو چاہک دیکھنے والے پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی | اللہ کے صاف ستھرے نور

مِنْ زَكَى نَفْسَهُ | أَحْيَا الْأَنْعَامِ وَجْهًا
 جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا | ساری مخلوق سے شرمیلے چہرے والے

أَعْلَى الْخَلْقِ لَأَيُّ جَاهًا ۥ دَاجِيَةٌ

تمام مخلوق سے اونچے مرتبے والے نعمت کاملہ

أَمْنَةٌ ۥ مَرْغَمَةٌ

امین بنائے گئے کفر کو ذلیل کرنے والے

مُرْحَمَةٌ ۥ رَحْمَةٌ مُهْلَاةٌ

مہربان ہادی رحمت

رَبْعَةٌ ۥ لَهْفَةٌ

درمیانہ قد سچی زبان والے

أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۥ الْأَلَهَةُ

بہترین نمونہ (نبوت کا) مہر تاباں

الْأَيْلَةُ ۥ الْمُبَصَّرَةُ

روشن آفتاب روشن دلیل

الْأُمَّتُ الْأَنْثَى

اُمّت کے غم میں کراہنے والے

الْأُمَّتُ الْبُحْرَى

جس پر بھروسہ کیا جائے

الْأُمَّتُ الْكَاثِبَةُ

کامل پیشوا

الْأُمَّتُ الْكَاذِبَةُ

کفر کے لئے اعلان جنگ کرنے والے

الْأُمَّتُ الْكَاثِبَةُ

سہارا

الْأُمَّتُ الْكَاثِبَةُ

نشانِ راہ

الْأُمَّتُ الْكَاثِبَةُ

بہترین سردار

الْأُمَّتُ الْكَاثِبَةُ

اللہ کے منتخب رسول

الْأُمَّتُ الْكَاثِبَةُ

فمیح زبان والے

الْأُمَّتُ الْكَاثِبَةُ

مخفی خزانہ

الْأُمَّتُ الْكَاثِبَةُ

رحمت

الْأُمَّتُ الْكَاثِبَةُ

سیدھا راستہ

الْوَسِيلَةَ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

واسطہ - وسیلہ

الْهِمَّةَ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

بامراد - بڑے کامیاب

الْمُهْدَاةِ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سراپا ہدایت

النِّعَمَةَ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

انعام

اللَّيْبَةَ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

آخری اینٹ

الْمُوعِظَةَ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سراپا نصیحت

الْكِرَامَةَ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

بڑے بزرگ

كِنْدِيدَةً

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

کامل

الْبَيْئَةَ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

واضع حجت

الْخَلِيفَةَ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

نائب

الْقُدْوَةَ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

رہنما

التَّذْكَرَةَ

بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

نصیحت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 الْاَكْمَلِ اِحْسَانِيَّاتِ اللّٰهِ
 عناية خداوندی کے مظہر اکمل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 الْمَطْفِ اِحْسَانِيَّاتِ اللّٰهِ
 الطاف خداوندی کے مظہر اتم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 الْوَاقِفِ عَلَى حُدُودِ اللّٰهِ
 اللہ کی حدود پر ٹھہرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 وَلِيِّ الْاِيمَانِ
 اللہ کی نعمتوں کے مالک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 حَيْبِ ذَاتِ اللّٰهِ
 ذات خداوندی کے حیب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 الشَّكْرِ بِاللّٰهِ
 اللہ کا شکر ادا کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 الْفَسَانِي فِي اللّٰهِ
 جو فانی ہیں اللہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 الْبَاقِي بِاللّٰهِ
 جو بقاء باللہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 الْخَاضِعِ بِاللّٰهِ
 عند اللہ مجسمہ و خضوع

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 الْخَاشِعِ بِاللّٰهِ
 اللہ سے ڈرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 مَقْصُودِ
 اللہ کی نظر میں مقصود

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 الْاَصْدَقِ فِي اللّٰهِ
 سب سے زیادہ سچے اللہ کے حق میں

أَفْضَلُ مَمْدُوحٍ | أَوْضَلُ قَائِدٍ بِحَقِّ اللَّهِ
بِقَوْلِ اللَّهِ

الَّذِي مِنْ نُورِهِ خُلِقَ
كُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ
الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ
الْعَرْشَ مِنْ نُورِهِ
جن کے نور سے تمام ماسوی اللہ کو پیدا کیا گیا
جن کے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا

الَّذِي خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ
مِنْ عَرْقِ رَأْسِهِ
الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ
الْجَنَّةَ مِنْ نُورِهِ
جن کے کپینے سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا
جن کے نور سے اللہ نے جنت پیدا کی

الزَّاحِجِ فِي الْمَلَكُوتِ
بِرَحْمَتِهِ وَجَمَالِهِ
الْقَائِمِ فِي الْمَلِكِ
بشْرَعِهِ وَجَلَالِهِ
رحم فرمائے والے عالم اعلیٰ و اسفل میں نبی رحمت اللہ علیہ جمال کے
قائم کرنیوالے ملک خداوندی میں نبی شریعت اور جلال کے

أَكْمَلُ مَنْ لَيْلِكَ كَمَالُ نَالِهِ
کمال تر تمام ارباب کمال سے

مِنْ أَيْرِ الْمَلِكِ بِنُورِ ظُهُورِهِ
ملک خداوندی کو منور کرنیوالے اپنے نورِ ظہور سے

مَنْ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ

بِسِرِّ مَطْوُونِهِ
ملکوت کو روشن کرنے والے اپنے سر بطون سے

الْأَمَانَ لِأُمَّتِهِ

اپنی امت کے لئے سراپا امان

الشَّاكِرِ فِي أُمَّتِهِ

اپنی امت میں شریعت جاری کرنے والے

الْمُشْفَعِ لِأُمَّتِهِ

اپنی امت کے لئے مقبول شفاعت

الَّذِي أَعَزَّ اللَّهُ دِينَهُ

الستعالی نے عزت دی جن دین کو

الشَّاكِرِ لِأُمَّتِهِ

امت کی شفاعت کرنے والے

الَّذِي خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ

جنکے نور سے ملائکہ کو پیدا کیا گیا

إِمَّا كَانَ الْجَمَالَ لَانزَرَهُ

پاکیزہ تر جمال کی حد امکان

مَظْهَرِ حَقِيقَةِ الْوُجُودِ الْمُنزَرِ

پاک وجود کے مظہر حقیقت

الَّذِي هُوَ رَجِيؤُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

جو مومنوں پر رحیم ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
الْكَافَّةُ | **الْحَسَنَاتِ الْجَامِعَةِ**
 تمام جہان کیلئے کافی | جامع خوبیوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
الْفِيُوضَاتِ | **الْإِشْرَاقَاتِ**
الْمُكَامِلَةِ | **الْإِمْرِعَةِ**
 بہتے ہوئے فیوض | چمکتے ہوئے جلوے

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ عَنْ دِيَاغِ الظُّلُمَاتِ الْإِنَانِيَّةِ
 اے اللہ! بیشک تیری پناہ طلب کرتے ہیں انانیت موہومہ کی تاریک ترظلمتوں سے
وَالْوَهْمِيَّةِ وَخَدَاجِ الْقَاذِرَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الْمَوْلُومِيَّةِ
 اور بشری الآشوں بشری الآشوں کے نقصان سے جو موہوم انانیت و ہستی والی
الْإِنَانِيَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَوْءِ الذِّكْرِ وَسَوْءِ الْفِكْرِ
 ہے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے ذکر سے اور برے فکر سے
وَسَوْءِ الذُّوقِ وَسَوْءِ الشُّوقِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَوْءِ الْعِلْمِ
 برے ذوق سے اور برے شوق سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے
وَسَوْءِ الْحِلْمِ وَسَوْءِ الْخَدْبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَوْءِ الْأَدَبِ
 علم سے برے علم سے اور برے جھوٹ سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے ادب
وَسَوْءِ الْعَجَبِ وَسَوْءِ الْعَجَبِ وَسَوْءِ الْغَضَبِ وَأَعُوذُ بِكَ
 اور طریقہ سے اور برے تعجب سے اور برے تعجب سے اور میں تیری پناہ
مِنْ سَوْءِ الْفِكْرِ وَسَوْءِ الْعَمْرِ وَسَوْءِ الْوَلَسِ وَسَوْءِ الْفَهْمِ
 طلب کرتا ہوں برے منہ سے اور برے اندے پن سے اور برے وہم سے اور سو فہم

وَسُوءِ النَّرْعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ وَسُوءِ

اور بُری پندار سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بُرے گمان سے اور بُرے

الفنِّ وَسُوءِ الْخَيْرِ وَسُوءِ الضَّرِّ وَسُوءِ الْمَكْرِ

اسلوب و انداز سے اور بُری تبدیلی سے۔ اور بُرے ضرر و نقصان سے اور بُری خوراک سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الشَّيْءِ وَسُوءِ الشَّيْءِ وَسُوءِ الْمَشِيءِ

اور میں پناہ طلب کرتا ہوں بُرے مکر سے اور بدترین مکار سے اور مکر کئے ہوئے سے

وَسُوءِ الْيَأْسِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُرْبِ وَالَّذِي

اور بُری مکاری سے۔ اور میں پناہ طلب کرتا ہوں بطفیل تیرے چہرہ کریم کے نور کے کہ روشن و

أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ

ہو گئے بسبب اس کے سب آسمان اور جگمگا اٹھیں بسبب اس کے سب تاریکیاں اور درست

عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ لَا تَحِلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ

ہو گیا اسی پر معاملہ دُنیا اور آخرت کا کہ تُو نہ حلال ٹھہرائے مجھ پر اپنے غضب کو

وَلَا تُنْزِلْ عَلَيَّ سَخَطَكَ وَلَكَ الْحَبِيبِي حَتَّى تَرْضَى

اور نہ نازل کرے مجھ پر اپنی ناراضگی کو اور تیرے شایانِ شان ہے عتاب کو روکے رکھتا حتی کہ تو راضی

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَمِنْكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

ہو جائے۔ اور نہیں پھرنا (موصیت سے) اور نہ طاقت (نیکی کی) مگر ساتھ تیرے اور مجھ سے۔ اور میں تیری پناہ

فَسَادِ الزَّمَانِ وَتَسْبِيحِهِ وَظُلْمِ الْمَسْلُومِ

طلب کرتا ہوں زمانہ کے فساد اور اس کی بیابکاری سے۔ اور اہلِ اسلام کے ظلم سے

وَتَرْوِيحِهِ وَمِنْ كُلِّ ظَالِمٍ وَحَاسِدٍ وَتَصَدِّقِهِ

اور اس کے خوف زدہ کرنے سے اور ہر ظالم اور حاسد سے اور اس کی چیرہ دستی سے۔

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

سرور کونین ﷺ نے فرمایا: اے نبی ﷺ! جب تیرے منہ پر تیری تعریف کی جائے تو پڑھو: اللھم اجعل لی خیرا من منی ما یقولون و اغفر لی ما لا یعلمون و لا تؤاخذنی فیما یقولون تسلم من ما یقولون (اے اللہ جو کچھ وہ کہتے ہیں مجھے اس سے اچھا بنا اور جو نہیں جانتے وہ معاف فرما اور جو کچھ کہتے ہیں اس میں مجھے مواخذہ نہ فرما) اس طریقہ سے تو ان کی گفتار سے محفوظ رہے گا۔

اک طرف اعدائے دیں اک طرف ہیں جاسدیں

بندہ ہے تنہا شہا تم کہہ دو اول درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيدُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا وَهَّابُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَالْأَهْلِ وَسَائِرِ تَسْلِيمِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْثَرِ الْكُنُوزِ الْمَكْرُوبِ
عِنْدَكَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبِسْمَةِ الْحَكَاذِلَةِ ایسی شہادت جو سراسر عدالت ہے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ النَّسْمَةِ الْكَرِيمَةِ پاکیزہ نفس</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبُرُكَةِ الدُّرَّةِ الْفَاخِرَةِ قابل فخر درختا</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ الْحَبَقَةِ النَّافِحَةِ بہکنے والی خوشبو</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبُرُكَةِ الشَّامِلَةِ ایسی برکت جو سب کو محیط ہے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ الدُّرَّةِ الْفَاخِرَةِ قابل فخر موتی</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الدَّخِيْرَةِ الْوَافِرَةِ دافر ذخیرہ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ الْخَزَائِنَةِ الْكَامِلَةِ کامل خزانہ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الدَّلَالَةِ الْكَافِيَةِ کفایت کرنے والی ہدایت</p>		<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْغُرَّةِ السَّامِيَةِ الشَّافِيَةِ بلند مرتبت اور شفا بخش روشنی</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَعْمِ الْوَسِيْلَةِ بہترین وسیلہ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ النَّعْمَةِ الْمُكْمَلَةِ نعمت کاملہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نِعْمِ الذَّرِيْعَةِ بہترین ذریعہ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ الذَّاتِ الْمُكْمَلَةِ ذات کاملہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَكْمَةِ الْكَابِحَةِ جامع حکمت</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ القِسْمَةِ الْكَرِيْمَةِ مہربان تقسیم والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَقِيْقَةِ الْمُعْتَوِيَةِ ہر شے کی معنوی حقیقت</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ الْهُدِيَّةِ الْمُهَلِّدَةِ مخلوق کو دیا جانے والا عظیم تحفہ</p>

<p>النَّشْأَةُ الْحَسَنَةُ</p> <p>ابتداءً مجتہد</p> <p>صَلَّى</p>	<p>الَّذِي وَافَتْهُ الْمَلَائِكَةُ</p> <p>وہ جسے عطاؤں نے پایا</p> <p>صَلَّى</p>	<p>الْحَقِيقَةُ الْمُقَدَّسَةُ</p> <p>حقیقت مقدسہ</p> <p>صَلَّى</p>	<p>الْمُبْرَرَةُ الْجَامِعَةُ</p> <p>سر اسر جامعہ</p> <p>صَلَّى</p>
<p>الْحُجَّتُ الْبَيْتِ</p> <p>واضح و کھل نشان</p> <p>صَلَّى</p>	<p>الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ</p> <p>محکم دلیل</p> <p>صَلَّى</p>	<p>طَيْبُ الضَّرِيبَةِ</p> <p>پاک خوش</p> <p>صَلَّى</p>	<p>سَمَّيْحُ الْخَلِيفَةِ</p> <p>جہاں سے نرم خوش</p> <p>صَلَّى</p>

صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ صَاحِبِ الْحَقِيقَةِ

بزرگ تر مقام والے صاحب حقیقت

<p>صَاحِبِ الطَّرِيقَةِ</p> <p>طریقیت والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>حَسَامِ الشَّرِيعَةِ</p> <p>شریعت کی تیج</p> <p>صَلَّى</p>	<p>هَلَالُ الطَّرِيقَةِ</p> <p>طریقیت کے ماہ نور</p> <p>صَلَّى</p>	<p>عُنْوَانُ الشَّرِيعَةِ</p> <p>حقائق شریعت کی رسانی</p> <p>صَلَّى</p>
<p>خَيْرِ الْبَرِيَّةِ</p> <p>بہترین ساری مخلوق سے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>مَسْلُوكِ الشَّرِيعَةِ</p> <p>شریعت کے بادشاہ</p> <p>صَلَّى</p>	<p>نَذِيرِ الْعَشِيرَةِ</p> <p>قربی رشتہ داروں کو ڈرانے والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>نُورِ الطَّرِيقَةِ</p> <p>طریقیت کے روشن نور</p> <p>صَلَّى</p>

<p>ذِي الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ پاکیزہ اخلاق والے</p> <p>سِرِّ الْأَسْرَارِ اللطيفة اسرار لطیفہ کا سر نہال</p>	<p>تَمَسُّسِ الْحَقِيقَةِ حقیقت کے سورج</p> <p>يَبُوعِ العناصِرِ پاکیزہ عنام کا سر حشہ</p> <p>الشَّرِيفَةِ الشَّرِيفَةِ شرف والے</p>	<p>عَوْنِ الْحَضْرَةِ الْوَسِيلَةِ وسیلہ والی بارگاہ میں فریاد رس</p> <p>جَرَّارِ الْكَتِيبَةِ باطل کو مٹانے کیلئے شکر والے جانیوالے</p>	<p>مُحَقِّقِ الْحَقِيقَةِ حقیقت کو تحقیقی انداز میں بیان کرنے والے</p> <p>مِيمُونِ النَّبِيِّ مبارک حکومت والے (مبارک طبیعت والے)</p>
<p>الْحَامِعِ بَيْنَ الشَّرِيعَتَيْنِ وَالْحَقِيقَةِ شریعت و حقیقت کے جامع</p>		<p>الْمَمْدُوحِ عِنْدَ اللَّهِ وَالْخَلِيفَةِ اللہ اور مخلوق کے نزدیک ممدوح</p>	
<p>نَامِصِ الْخَلِيفَةِ مخلوق سے ہم مددی سر و مانیوالے</p> <p>المُهَاجِرِ إِلَى الْمَدِينَةِ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے</p>	<p>وَاضِحِ الطَّرِيقَةِ طریقیت کو واضح کرنے والے</p> <p>قَاسِمِ الْغَنِيمَةِ غنیمت تقسیم کرنے والے</p>	<p>جَوْهَرِ النَّفِيسِ نفس و عمرہ جوہر</p> <p>صَاحِبِ الْهَيْبَةِ ہیبت والے</p>	<p>ضَاحِمِ الدَّسِيعَةِ عظیم بخشش و قوت والے</p> <p>نَحَارِ الْأَحْدِيَةِ الْمُحِيطِ احدیت کے محیط سمندر</p>

<p>ذی السَّكِينَةِ</p> <p>صاحبِ اطمینان</p> <p>صَلَّى</p>	<p>ذی الْمَدِينَةِ</p> <p>مدینہ والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>ذی الْوَسِيلَةِ</p> <p>وسیلہ والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>ذی الْجَنَّةِ</p> <p>ذبیحہ کے ساتھ پیار کرنے والے</p> <p>صَلَّى</p>
<p>مَكْرَمِ الْمَدِينَةِ</p> <p>مدینہ منورہ کو تلام</p> <p>تسار دینے والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>صَاحِبِ الْخَمِيصَةِ</p> <p>چادر والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ</p> <p>اوپر کے درجے والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ</p> <p>فضیلت والے</p> <p>صَلَّى</p>

مُكَرَّمِ السَّمَاءِ مَكْرَمِ الْأَخْلَاقِ الْعَظِيمَةِ

مکارمِ اخلاقِ کاملہ کے آسمان کے بادل

صَلَّى

<p>ذَاتِ الْفَضِيلَةِ</p> <p>فضیلت ذات والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>صَاحِبِ السَّكِينَةِ</p> <p>سکونت والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>صَاحِبِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورتی والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>صَاحِبِ الْحَيَاءِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>سرخوبصورتی حیا والے</p> <p>صَلَّى</p>
<p>صَاحِبِ الدَّوَائِبِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت زلفوں والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>صَاحِبِ الْحَلَةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت جوتا پہننے والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت شفاعت والے</p> <p>صَلَّى</p>	<p>صَاحِبِ الْأَصَابِعِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت انگلیوں والے</p> <p>صَلَّى</p>

<p>صاحب الفِخْرَةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت نضیلت والے</p> <p>صاحب الْأُمَّةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت امت والے</p>	<p>صاحب الْوَسَاةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت تیکے والے</p> <p>صاحب الْبَشَارَاتِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت بشارتوں والے</p>	<p>صاحب الْعَمَامَةِ السُّودَاءِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت کالے عمامے والے</p> <p>صاحب آيَاتِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت آیات والے</p>	<p>صاحب الْعَمَامَةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت عمامہ والے</p> <p>صاحب الْمَدِينَةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت مدینہ والے</p>
<p>صاحب الْبَطْنِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت قد قامت والے</p>		<p>صاحب الْبَطْنِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت حاصلت والے</p>	
<p>صاحب الْبُرْدَةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت چادر والے</p> <p>صاحب الصَّوْتِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت آواز والے</p>	<p>صاحب الْأَقْدَامِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت قدموں سے لگنے والی مٹی والے</p> <p>صاحب الْمِصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت صفات والے</p>	<p>صاحب النَّاحِيَةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت کوچہ والے</p> <p>صاحب الذَّاتِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت ذات والے</p>	<p>صاحب السُّنَّةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت طریقہ والے</p> <p>صاحب الْحَبْرَةِ الْجَمِيلَةِ</p> <p>خوبصورت دھاری دار لنگی اور طعنے والے</p>

<p>صاحب القلسوة الجيلة خوبصورت ٹوپی والے</p>	<p>صاحب الوفرة الجيلة خوبصورت زلفوں والے</p>	<p>صاحب الجمة الجيلة خوبصورت گیسوؤں والے</p>	<p>صاحب التجيلة الجيلة خوبصورت عظمت بزرگی والے</p>
<p>صاحب السيادات الجيلة خوبصورت سرداری والے</p>	<p>صاحب الخلق الجيلة خوبصورت خلقت والے</p>	<p>صاحب الخطبات الجيلة خوبصورت خطبات والے</p>	<p>صاحب المقليات الجيلة خوبصورت حلیہ والے</p>

صاحب اباؤ الجيلة صاحب السعادت الجيلة
خوبصورت اباؤ اجداد والے خوبصورت سعادت والے

<p>صاحب الفصاحت الجيلة خوبصورت نفاحت والے</p>	<p>صاحب الروضة الجيلة خوبصورت رضے والے</p>	<p>صاحب الرباعيات الجيلة خوبصورت سامنے کے چاروں دانتوں والے</p>	<p>صاحب الناصية الجيلة خوبصورت پیشانی والے</p>
<p>صاحب الآية الجيلة خوبصورت بزن والے</p>	<p>صاحب الولادات الجيلة خوبصورت پیدائش والے</p>	<p>صاحب العذلة الجيلة خوبصورت صُح والے</p>	<p>صاحب الظهير الجيلة خوبصورت دوپہر والے</p>

<p>صاحب السلسلة الجميلة</p> <p>خوبصورت زنجیر والے</p> <p>صاحب الصفة الجميلة</p> <p>خوبصورت چہرے والے</p>	<p>صاحب القراءات الجميلة</p> <p>خوبصورت قرات والے</p> <p>صاحب الحجرة الجميلة</p> <p>خوبصورت حجرہ والے</p>	<p>صاحب الجفنة الجميلة</p> <p>خوبصورت پیالے والے</p> <p>صاحب الظلة الجميلة</p> <p>خوبصورت سایہ دار جگہ والے</p>	<p>صاحب الجدة الجميلة</p> <p>خوبصورت گھرے والے</p> <p>صاحب الساحة الجميلة</p> <p>خوبصورت صحن والے</p>
--	---	---	---

صاحب
الاسطوانة
الجميلة

خوبصورت سٹون والے

صاحب
السلسلة
الجميلة

خوبصورت چوکت والے

<p>صاحب الرصا الجميلة</p> <p>خوبصورت آنکھ والے</p> <p>صاحب الجميلة الجميلة</p> <p>خوبصورت پشانی والے</p>	<p>صاحب الدين الجميلة</p> <p>خوبصورت دین والے</p> <p>صاحب التقظة الجميلة</p> <p>خوبصورت بیداری والے</p>	<p>صاحب السكة الجميلة</p> <p>خوبصورت کوچہ والے</p> <p>صاحب السنات الجميلة</p> <p>خوبصورت نشانیوں والے</p>	<p>صاحب الاسكفة الجميلة</p> <p>خوبصورت دہلیز والے</p> <p>صاحب الخوخة الجميلة</p> <p>خوبصورت کھڑکی والے</p>
--	---	---	--

<p>اللہم صل علی</p> <p>صاحب الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ</p> <p>داناؤی والے</p> <p>اللہم صل علی</p> <p>صاحب الْبَاطِنِ وَالْحَقِيقَةِ</p> <p>حقیقت کے باطن</p>	<p>اللہم صل علی</p> <p>صاحب الْمَحَاسِنِ وَالْبَدِيعَةِ</p> <p>عمدہ محاسن والے</p> <p>اللہم صل علی</p> <p>صاحب الطَّلَعِ وَالسَّعِيدِ</p> <p>سیدشان والے</p>	<p>اللہم صل علی</p> <p>صاحب الْحَالَةِ وَالْحَمِيدَةِ</p> <p>قابل تعریف حالت والے</p> <p>اللہم صل علی</p> <p>صاحب الْوَاقِفِ فِي مَيْدَانِ الشَّرِيعَةِ</p> <p>میدان شریعت میں کھڑے ہونے والے</p>	<p>اللہم صل علی</p> <p>صاحب الْأَسْنَانِ وَالْحَمِيدَةِ</p> <p>خوبصورت دانتوں والے</p> <p>اللہم صل علی</p> <p>صاحب الْأَحْوَالِ وَالنَّبِيلَةِ</p> <p>عمدہ احوال والے</p>
---	--	---	---

حُسامِ الشَّرِيعَةِ كَنْزِ الْحَقِيقَةِ

شریعت کی تیغ برساں

حقیقت کے خزانہ

<p>اللہم صل علی</p> <p>التَّحْصِيلِ بِالرَّفْعَةِ</p> <p>رفعت کے ساتھ متصل</p> <p>اللہم صل علی</p> <p>تَابُوتِ الْهَدْيَةِ</p> <p>ہدیت کے تابوت</p>	<p>اللہم صل علی</p> <p>الْمُتَّحِفِ بِالْفَضِيلَةِ</p> <p>فضیلت کے ساتھ متصف</p> <p>اللہم صل علی</p> <p>تَابُوتِ الرِّسَالَةِ</p> <p>آخری رسول</p>	<p>اللہم صل علی</p> <p>حَامِي الْحَقِيقَةِ</p> <p>حق کی حمایت کرنے والے</p> <p>اللہم صل علی</p> <p>وَعَاءِ النُّبُوَّةِ وَالْوَلَايَةِ</p> <p>ایسا ظرف جو محیط ہے نبوت و ولایت کو</p>	<p>اللہم صل علی</p> <p>كَرْبُو الطَّبِيعَةِ</p> <p>شریف الطبع</p> <p>اللہم صل علی</p> <p>قَامِرِ السَّعَادَةِ</p> <p>سعادت کے مافہ تاباں</p>
---	--	---	--

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الظَّاهِرِ فِي النُّزُلِ الْمَدِينِيِّ وَالْقَنَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ رَحْبِ السَّاحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كشادہ بارگاہِ ولے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَرْبَابِ الْحِنَائِيَّةِ سراک میں لطفِ کرم کے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ قُطْبِ الْوَلَايَةِ قطبِ ولایت</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مَدْرَجِيكَ الْوَلَايَةِ چار دیواری کی اینٹیں اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَعْطَى مُبْدَا الْكِرَامَةِ جنس عطا کیا گیا منبر کرامت کا</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ضَاحِمِ اللَّهُ كَامَةِ سرمعظم سر مبارک والے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْمُقَدَّمِ فِي الشَّفَاعَةِ شفاعت میں سے مقدم</p>
---	--	---	---

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
قَبْلَةَ الشَّفَاعَةِ كَرَحْبَةِ الطَّاعَةِ
قبیلہ شفاعت کعبہ طاعت

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَاحِبِ الْقِيَامَةِ روزِ قیامت کے مالک اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ سَلَالَةِ السَّلَالَةِ جوہرِ دروحِ خلاصہ کائنات کی</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَاحِبِ الضَّرَاعَةِ زاری کرنوالے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فَاتِحِ بَابِ الشَّفَاعَةِ بابِ شفاعت کھولنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَاحِبِ الْخِطَابَةِ خطبات کے مالک اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مُحْرِزِ وَصَبَاتِ الرِّسَالَةِ جمع کرنوالے رسالت میں علاماتِ نبوت کے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مُصْبِحِ اللَّهُدَايَةِ ہدایت کے چراغ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَاحِبِ السَّخَاوَةِ صاحب سخاوت</p>
---	--	---	--

اللّٰهُ اِنَّكَ اِنْ لَوْ تَحْكُمُوْنَا فَاَكَيْفَ نَكُوْنُ وَالْعَصِيَا نَ مَرْكُوْمًا
اسے میرے اللہ اگر تو ہمارے ساتھ بڑباری سے کام نہ لے تو کس طرح موجود رہ سکتے ہیں جب کہ عصیاں

فِي اِسْتِعْذَادٍ تِنَامَعُ اَنَّ الشَّيَاطِيْنَ اَعْدَاؤُنَا يَخُوْمُوْنَ
ہماری فطری صلاحیتوں میں مرکوز ہے علاوہ ازیں شیاطین ہمارے دشمن ہیں جو کہ ہمارے گرد گھومتے

حَوْلَنَا وَلَا يَخِيْبُوْنَ عَنَا وَنَحْنُ لَا نَرَا لِمُؤَلِّمِيْهِمْ سُوْرًا وَاِنَّكَ
ہیں اور غائب نہیں ہوتے۔ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے جب کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور تو نے انہیں ہم

قَدْ سَلَّطْتَهُمْ عَلَيْنَا وَلِمُؤَلِّمِيْهِمْ سُوْرًا بِعِيُوْبِنَا فَاَصْرَفْتَهُمْ
پر مسلط کیا ہے، وہ ہمارے عیوب دیکھتے ہیں لہذا تو انہیں ہم سے دور فرما

عَنَا وَلَا تَأْخُذْ نَابِغْتَهُ وَتُبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
اور ہمیں اچانک گرفت میں نہ لینا اور ہم پر نظر رحمت فرمانا بیشک تو ہی تو رب رحیم ہے۔

فَارْحَمْنَا وَاَعْمُرْ عَنَا وَلَا تَجْعَلْ ذُنُوْبَنَا فِيْ عُقَدٍ تَنَا وَاِيْمَانِنَا
پس ہم پر رحم فرما درگزر فرما اور نہ بنا ہمارے گناہ ہمارے عقیدہ و ایمان میں اور ہمارے گناہ

وَسَيِّئَاتِنَا خَافِيَةً عَنَّا فَاِنَّكَ اِنْ تَجْعَلْ ذُنُوْبَنَا فِيْ حَقْنًا فَكَيْفَ
ہم نے مخفی ہیں اگر تو ہمارے گناہوں کو ہمارے حق میں (لازم) فرما دے تو ہم کیسے توبہ کریں جب کہ

تُؤْتِيْ وَاَنْتَ تَحِبُّ التَّوَّابِيْنَ فَاَحْلُوْا عَنَا حَتّٰى تَحْصُلَ التَّوْبَةُ الَّتِي
تو توبہ کرنیوالوں کو محبوب رکھتا ہے پس ہم سے درگزر فرما تاکہ ہمیں توبہ نصیب ہو جو تجھے پسند ہے

مَحْبُوْبَةٌ لَّكَ وَلَا نَقْدِرُ عَلٰى تَحْصِيْلِ التَّوْبَةِ اِلَّا بِتَوْفِيْقِكَ وَتَقْدِيْرِكَ اَوْ اِلَّا بِرِزْقِ
اور ہم اس کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے مگر تیری توفیق اور تقویت سے یہ اور ہمیں نصیب فرما دم ہے

التَّوْبَةِ عَنَا وَعَنْ وُجُوْدِنَا فَاِنَّ وُجُوْدَكَ نَادِيْكَ لَا يُقَاسُ فِيْهِ ذُوْ
توبہ اپنے آپ سے اور اپنے وجودوں کے کیونکہ ہمارے وجود ہی وہ گناہ ہیں کہ جن کے برابر کوئی گناہ نہیں

اٰخِرٌ وَّلَيْسَتْ التَّوْبَةُ بِيَدِنَا فَاَلَمْ نَأْتِ بِكَ اَمْحَتَصُّ بِكَ وَلَا يَعَادِلُكَ شَيْ
اور توبہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ (دس کی توفیق) تیرے ساتھ خاص ہے اور مخلوق میں سے کوئی تیرے

مِنْ خَلْقِكَ اَمِيْنٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ
برابر نہیں ہے۔

سرور کونین ﷺ نے فرمایا: اے علی! امارت میں نماز پڑھا اگر چھپو گری کے
دوہنے کے قدر بھی ہو اور سحر کے وقت خدا سے دعا مانگ کیونکہ حق تعالیٰ
بیک لوگوں کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ وہ سحر کے وقت خدا سے بخشش
چاہنے والے ہیں

کیوں کہوں چکس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں
تم ہو میں تم پر فدا تم پہ گرووں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيدُ يَا كَرِيمُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرَاتِ دُؤُوعِ
الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُؤُوعِ الْأَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَجْوَالِ الْمُصْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِفِينَ وَالْأَهْلِ وَسَائِلِ تَكْوِينِ الْكَيْفِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِ الْمَكْرَمِ
عَمَّا كُنْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

مُرِّي الصَّحَابَةَ

اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم
کی تربیت فرمانے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

الصَّادِقِ الْمُقَالَءِ

سچی گفتگو والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

الْبَاحِي شُبُهَةِ الضَّلَالَةِ

ضلالت کے شبہات
مٹانے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

مُدْرِجِي طَائِفَةَ الْفَضَالَةِ

فضیلت کی چار دیواری
کی اینٹیں

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَصْلِ الْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ

ہدایت اور ثابت قدمی کی بنیاد

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

الْبَاحِي لِدَوَائِنِ الْبَطَالَةِ

بطالت کے دوائے کو مٹانے والے

ﷺ

مُحْصِدِي

الْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ

امن و سلامتی کا سرچشمہ

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

مَوْئِلِ الْعِزِّ وَالْكَرَامَةِ

عزت و بزرگی کی جائے پناہ

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

الْمُنْفِرِ بِالشَّفَاعَةِ

قیامت کے دن تنہا
شفاعت فرمائے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

صَاحِبِ السَّرِيَاةِ

صاحب ریاست

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

دَافِعِ النَّكَارَةِ

برائیوں کو دور کرنے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

صَاحِبِ الْهُدَايَةِ

رشد و ہدایت کے مالک

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْعِنَايَةِ

صاحبِ شفقت



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الدِّيَانَةِ

دیانت والے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْوِلَايَةِ

صاحبِ ولایت و
تصرف



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْعَلَامَةِ

مخصوص امتیازی
علامت والے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي جَمَعَ
وَجُوهَ الْكِرَامَةِ
الْمَامِ
الْمَسَلِ الدِّرَايَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
خِلَاصَةِ الرِّسَالَةِ

جمہور و روحِ خلاصہ رسالت کی



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَبِّ دِرَايَةِ كَرَامَتِهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمَامِ

اربابِ درایت کے امام



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
النَّاهِضِ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ

رسالت کی عباؤں کے ساتھ قیامِ زمانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمَامِ
الْمَسَلِ
السِّيَادَةِ

سواروں کے امام



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمَامِ
الْمَسَلِ
الطَّاعَةِ

مقتداؤں کے امام



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمَامِ
الْحَضْرَةِ
الْمُشَاهِدَاتِ
وَالْجَمَاعَةِ

امام ہیں مشاہدات کے مقام
میں اور جماعتِ شاہدین کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمَامِ
الْمَسَلِ
الْعِنَايَةِ

اہلِ عنایت کے امام



عَزِيزِ
الْمُقَامَةِ

اوپر کے مقام
والے

ﷺ

زَيْنِ مَنْ
وَأَفِي الْقِيَامَةِ

قیامت
کی زینت

ﷺ

أَمَامِ
الشَّهَادَةِ

حقدارانِ شہادت کے امام

ﷺ

أَمَامِ
السَّعَادَةِ

اہلِ سعادت کے امام

ﷺ

صَاحِبِ الْمَرْوَةِ

اعصار والے

صَاحِبِ الْعِمَامَةِ

مبارک دستار والے

ﷺ

صَاحِبِ الْوَسَادَةِ

پکے والے

ﷺ

الْمُظْلُوبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

جن کو قیامت کے دن ڈھونڈا جائے گا

ﷺ

الْمُقَدَّمِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

روزِ قیامت سب پر تقدم

ﷺ

دُرِّ تَاجِ
الرِّسَالَةِ

تاجِ رسالت کا موتی

ﷺ

قَائِدِ رُكْبِ
الْوِلَايَةِ

شہسوارانِ ولایت کے قائد

ﷺ

الْمُطَّلِعِ
عَلَى الصَّحَابَةِ

اصحابِ کرامِ رضوان اللہ علیہم
پر نمودار ہونے والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُوصِوْفِ
بِالصِّدْقِ
وَالْحَصِيَانَةِ
صداقت و پاک دامنی
کے ساتھ موصوف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الَّذِي
كُتِبَ بِالْخُلُوءِ
الْخَاصَّةِ
جن کو عزت دی گئی
خلوتِ خاصہ کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُبَارَكِ
الرِّسَالَةِ
بارکت رسالت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُبْلَغِ
الرِّسَالَةِ
رسالت کی تبلیغ کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُتَّكِمِلِ
لِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ
رسالت کا بوجھ اٹھانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُعَدِّنِ السَّعَادَةِ
سعادت کی کان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَافِعِ بَلْبَلَةِ
بلند بزرگی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
حَامِلِ لِيَؤَاءِ الْأَمَانَةِ
امانت کا جھنڈا اٹھانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُنْقِدِ مِنْ
الضَّلَالَةِ
گمراہی سے بچانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُنْقِدِ
مِنَ الْجَهَالَةِ
جہالت سے بچانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
خَاتَمِ
الرِّسَالَةِ
خاتم رسالت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
ظَاهِرِ
الدَّلَالَةِ
جن کی نبوت کے
دلائل ظاہر ہیں

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
نُقْطَةِ الْأَمْرِ
الْمَجْوَالَةِ

پر عظمت امر کے
نقطہ متحرک

ﷺ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
دَائِمِ
الطَّاعَةِ

ہمیشہ اپنے رب کی
اطاعت کرنے والے

ﷺ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
رَحَبِ
الرَّاحَةِ

فراخ ہتھیلی والے

ﷺ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
عَيْتِ دَائِرِ
الْعَدَالَةِ

عدالت خداوندی کے
دائروں کی بارانِ رحمت

ﷺ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الرَّوَايَةِ

روایت والے

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْأَمَانَةِ وَالطَّاعَةِ

امانت اور طاعت والے

ﷺ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ التَّوَكُّلِ وَالْعِبَادَةِ

عبادت اور تہجد کے مالک

ﷺ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
مُعَلِّمِ الصَّحَابَةِ

صحابہ رضوان اللہ علیہم کو تعلیم دینے والے

ﷺ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْحِرَاسَةِ

بہرے داری والے

ﷺ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
السِّيَاسَةِ

سیاست والے

ﷺ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُبْعُوثِ
بِالْبَشَائِرِ
وَالنِّدَاسِ

پورانے اور خوشخبری دینے
کے ساتھ بھیجے گئے

ﷺ

اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى
مُنْبِيعِ
الْفَحَاخَةِ

فصاحت کے مرکز

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْبَسَاكَةِ
بہادر والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَحْوَلِ
أُمَّتٍ
لِلشَّفَاعَةِ
اپنی امت کی شفاعت
کے لئے جملہ کرنیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْبَلَاغَةِ
بلاغت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
النَّفَاسَةِ
عُمَدِ
وَالِے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْبِرَاعَةِ
چمک والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْبِرَاعَةِ
چمک والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْبِرَاعَةِ
چمک والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْبِرَاعَةِ
چمک والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
شَمْسِ
هَكَالَةِ
الرِّسَالَةِ
سورج ہالہ رسالت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
دَوْرِ
الْمَخْصُوفِ
بِحَمُومِ
الرِّسَالَةِ
جن کو رسالت عامہ کے ساتھ
نوازا گیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ
الْأَهْلِ
وَالْقَرَابَةِ
اہل اور اقرباء والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمَشْرِفِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ
قیامت کے دن شرفِ خاص
پانے والے

صَاحِبِ الشَّهَادَةِ فِي الْقِيَمَةِ

قیامت میں شہادت دینے والے

صَاحِبِ النَّاقَةِ

اونٹنی والے

رَحَبِ الرَّاحَةِ

فراخ، تھیلی والے

مَحَلِّ الْأَغَاثَةِ

مدد کے محل

صَاحِبِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ

نبوت و رسالت والے

مُحَرِّبِ جَمِيعِ الْبَدَايَةِ

آسانی کو جمع کرنے والا محراب

صَاحِبِ اللَّيْمَةِ وَالشَّامَةِ

اونچی زلفوں والے

مُؤَدِّي الْأَمَانَةِ

امانت کو پورا پورا ادا کرنے والے

رَاكِبِ النَّاقَةِ

اونٹنی پر سواری کرنے والے

ظَاهِرِ الْوَضَائِعِ

نمایاں حسن والے

عَظِيمِ الْهَامَةِ

بڑے سروالے

مَرْضِيِّ الْمَقَالَةِ

پسندیدہ بات کرنے والے

وَلِيَّ النَّصْرَةِ

مالکِ نصرت

ﷺ

وَجْهٍ
وَالْوِلَايَةِ

ولایت کی آبرو

ﷺ

قَدَمِ الْحَيَاةِ

عنایت باری کا پیش خیمہ

ﷺ

مُقْبُولِ
الشَّهَادَةِ

جن کی گواہی قبول ہے

ﷺ

كَثِيرِ الصَّدَقَةِ

زیادہ خیرات کرنیوالے

ﷺ

نَبِيِّ التَّوْبَةِ

توبہ کے نبی

ﷺ

كَثِيرِ الْمَشُورَةِ

زیادہ مشورہ کرنیوالے

ﷺ

قَسِيمِ الصَّدَقَةِ

صدقات تقسیم کرنے والے

ﷺ

بَابِ
الْكُضْرَةِ

بارگاہِ الہیہ کا دروازہ

ﷺ

سِرِّ الْحِكْمَةِ

رازِ حکمت

ﷺ

عَيْنِ
الرَّحْمَةِ

رحمت کے
سرچشمہ

ﷺ

غَيْثِ
دَوَائِدِ
الْمَمْلَكَةِ

مملکتِ خلدونڈی کے دائروں
کی بارانِ رحمت

ﷺ

مُقْصُودِ النَّظَرِ
مَقْصُودِ نَظَرٍ

سَابِقِ الْخَلْقِ فِي مَضَامِرِ الْقُرْبَةِ
تمام مخلوق میں سے آگے پہنچنے والے قرب خداوندی کے میدان میں

مُقَبَّلِ الْحَجَرَةِ
بیت اللہ کے کونوں کا بوسہ لینے والے

مُرَبِّيِ الْحِثْرِ
اولاد و اصحاب کی تربیت فرمایا نوالے

رَأْسِ الْفَصَاحَةِ
فصاحت کے سردار

فَلَكَ السِّيَادَةُ
سیادت کے سپہر اعظم

كَاوِ الْكَفْرِ
کفار کو منگلوب کر نوالے

الْحِثْرِ الْمُقَدَّسَةِ
بارگاہِ قدسیہ کے امام

قَابِلِ الْمُعْذِرَةِ
معذرت قبول کر نوالے

سُلْطَانِ الْمَمْلَكَةِ
مملکتِ البہیہ کے بادشاہ

كَمَالِ الْذَاتِ الْمُقَدَّسَةِ
ذاتِ مقدسہ کی تجلی کمال

حَسَنِ الْأَرْبَابَةِ
ناک مبارک کی خوبصورت نوک والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رَحْمَةٍ
الْبِسْمِ الْكَلِمَةِ
سر پار صحت
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
بِرِّهِمْ سَانِ
الْمُعْرِفَةِ
معرفت کی دلیل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نُورِ اللَّهِ
عَلَى
الْأَفْعِدَةِ
اللہ کے نور کہ جن کا عکس
دلوں پر ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُبَرِّدِ
نَارِ اللَّهِ
الْمُوقِدَةِ
اللہ کی بھڑکانی ہوئی
نار جنہم کو ٹھنڈا کر نیوالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْمَعْرِفَةِ
معرفت والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
صَاحِبِ الْحَبْرَةِ
دھاری دارنگی پہننے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَنْقَدِ النَّاسِ
لُؤْكَوْ كُو بِلَاكِي بِي جَانِيْرَالِي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
كِنَايَةِ الْحَسْبَلَةِ
جو کنایہ و عبازت میں حسبی اللہ سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نَبِيِّ
الْمُرْحَمَةِ
رحمت کے نبی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نَبِيِّ
الْمَسْأَلَةِ
جنگ جو نبی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
دَقِيقِ
الْمَسْرَبَةِ
سینہ پر باریک بالوں
کی دھاری طالے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
دَرِّ الْبَرَكَةِ
برکت والا موتی

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>فِي الْحِكْمَةِ</p> <p>حکمت میں بلند مرتبت</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>ذِي الْقُوَّةِ</p> <p>طاقتور</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>مُبَارَكِ</p> <p>النَّبِيِّ</p> <p>بارکت نبوت والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ</p> <p>الْحَزْبِ</p> <p>وَالْقَبِيَّةِ</p> <p>درد و مشکیزہ والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
---	---	---	--

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>ظِلِّ لَيْلِ الرَّحْمَةِ</p> <p>سایہ رحمت</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>مُزِيلِ الشَّدَّةِ وَالْكَرْبَةِ</p> <p>شدت و تنگی دور کرنے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>نُورِ الْحِكْمَةِ</p> <p>نور حکمت</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ الْبِحَّةِ</p> <p>حجت قائم کرنے والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>		

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>مُنَازِلِ</p> <p>الْكَتَابِ</p> <p>الْقِيَمَةِ</p> <p>زبردست آسمانی کتب کے جائے نزول</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ</p> <p>الْبُحْمَةِ</p> <p>گیسو والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ</p> <p>الْبُحْبَةِ</p> <p>جبہ والے</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الظَّاهِرِ</p> <p>فِي الْمَلَكُوتِ</p> <p>بَيْنَ سَائِرِ</p> <p>الْجَلُوتِ</p> <p>ظاہر میں ملکوت میں علی جلوہ کے ساتھ</p> <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
---	--	---	--

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 الْمُقَرَّبِ
 بَابِ الْجَنَّةِ
 جنت کا دروازہ کھٹھانیا والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 مَقِيْمِ
 السُّنَّةِ
 سنت کو قائم کرنیوالے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 فَرَطِ
 الْأُمَّةِ
 امت کے میر سامان

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 سَيِّدِ
 هَذِهِ الْأُمَّةِ
 اس امت کے سردار

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ
 جنت کی کئی

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 مَرْحُومِ الْأُمَّةِ
 امتِ مرحوم والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 مُزِيلِ الْخُمَةِ
 غم دور کرنے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

قَائِدِ الْأُمَّةِ
 امت کے قائد

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 شَمْسِ
 أَفَاقِ الْهَلِ
 الْمَوَدَّةِ
 اہل مودت کے آفاق کا آفتاب

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 رَحْمَةٍ
 الْأُمَّةِ
 امت کے لئے رحمت

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 مُبَارَكِ
 السُّنَّةِ
 بابرکت طریقے والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 مُبَارَكِ
 الْأُمَّةِ
 بابرکت امت والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَاحِبِ
الْمَسْنَةِ

فضل و احسان والے

ﷺ

نُورِهَا كَالنُّبُوَّةِ

نبوت کے ہالہ کے نور

ﷺ

كَثِيرِ
الْأُمَّةِ

سب زیادہ اُمت والے

ﷺ

خَيْرِ هَذِهِ
الْأُمَّةِ

اس اُمت کے افضل

ﷺ

قَتُّوا الثُّحَفَةَ

بہت سخی

سِرِّ خَصَائِصِ
الرَّحْمَةِ

رحمت کے خصائص کا راز

ﷺ

مِفْتَاحِ خَزَائِنِ
الْحِكْمَةِ

حکمت کے خزانوں کی کُنجی

ﷺ

رَسُولِ الرَّأْفَةِ

رسولِ رافت

ﷺ

نَبِيِّ
الرَّحْمَةِ

نبی رحمت

ﷺ

أَنْجَلِ
الْمُقَلَّةِ

موٹی آنکھوں والے

ﷺ

مَكِينِ
الْمُسْكِنَةِ

عظیم و قوی طاقت والے

ﷺ

مُشْرِقِ
الْوَجْنَةِ

روشن رخساروں والے

ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
الْمُخْتَارِ
لِلنَّبْوَةِ
نبوت
کے لئے چنے ہوئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
عَيْنِ
الْأَحَدِيَّةِ
عین احدیت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
لَطِيفَةِ
سِرِّ الْخَلِيفَةِ
الْأَدَمِيَّةِ
خلافتِ انسانیت کے
لطیف راز

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
نُورِ
الْأَحَدِيَّةِ
احدیت کا نور

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
نُورِ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ
ذاتِ الہیہ کا نور
نُورِ الْقُوَّةِ
قوت کا نور
نُورِ النِّيَّةِ
نور نیت
مَعْدَنِ الْحِكْمِ الرَّبَّانِيَّةِ
حکمتِ ربانہ کے معدن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
زِعْمِ
النِّعْمَةِ
بہترین نعمت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
مُسْتَقَى
شَرَابِ
الْمَحَبَّةِ
شرابِ محبت نوش
فرمانے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
كِتَابِ
جَمْعِ
الْأَحَدِيَّةِ
جمع احدیت الہی کی
لکھی ہوئی کتاب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
صَاحِبِ
الْكَرَامَاتِ
الْإِصْنَائِيَّةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
شَمْسِ
الْمَعَانِي
الزَّاهِرَةِ
معانی کا روشن سورج

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
عَالِمِ
كُلِّ
خَفِيَّةٍ
ہر مخفی امر کے جاننے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَشْرَفِ
مَنْ سَكَنِي
بِحُسْنِ مَقَالَتِهِ
جو بزرگ ترین ہیں ان سب
جنہوں نے من کلام سے شہریں
جام پائے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُفْرِقِ
غَلْبَةِ نَفْسِ
أَمَارِيَّةٍ
نفسِ امارہ کے غلبہ کو پارہ پارہ
کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أَصْدَقِ النَّاسِ لِلْجَنَّةِ
سب زیادہ سچے اذوقے لہجہ کے
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُجَرِّدِ عَنِ
الشَّهَوَاتِ التَّعَدِيدَةِ
خواہشاتِ متعددہ سے پاک
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَلِكِ الْمَعْرِفَةِ
معرفة کے شہنشاہ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نَفْسِ الْأَمَارَةِ
نفسِ امارہ سے پناہ دینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسْتَخْلِصِ
مِنْ خَالِصَةِ
الْخُلُوصَةِ
جو نکالے گئے ہیں خالص
خلاصہ سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُخْتَارِ
لِلْعِبَادَةِ
جو عبادت کے لئے چنے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُخْتَارِ
لِلصَّلَاةِ
دروہ کے لئے چنے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مَانِعِ
الْغَوَايَةِ
بے راہ روی کے مانع

سرور کونین ﷺ نے فرمایا! اے علی صبح سویرے صدقہ کیا کر کیونکہ
مصیبت صدقہ سے تجاوز نہیں کر سکتی اے علی لازم کر حسن خلق کو کیونکہ اس
سے تجھے روزے دار نمازی کا ثواب ملے گا۔

گندے فکے کپڑے پہننے سے بچو کیونکہ کوڑی کے تین

کوڑیوں میں پالتا تم چھ کر دو روں دو روں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا حَبِيبُ يَا حَبِيبُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ قَطْرَاتِ دُمُوعِ

الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِحَالِ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى

قُلُوبِ الْحَازِقِينَ وَاللَّهُمَّ وَسَّالِمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُرْهُ الْكَثِيرَ الْمَقْرَبَ

وَعِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<p>اللہ عزوجل العُدَّة ذخیرہ</p>		<p>اللہ عزوجل صاحبِ القدرِ بستی (مدریہ) والے</p>	
<p>اللہ عزوجل صاحبِ القدرِ تقدیر بارگاہِ اولیٰ</p>		<p>اللہ عزوجل صاحبِ القدرِ بستی (مدریہ) والے</p>	
<p>اللہ عزوجل کاشفِ دیکاجِ الظلمۃ ظلمت کی اندھیری راتوں کو روشن کر نیوالے</p>			
<p>اللہ عزوجل صاحبِ القدرِ صفا مرہ والے</p>		<p>اللہ عزوجل صاحبِ القدرِ بستی (مدریہ) والے</p>	
<p>اللہ عزوجل صاحبِ القدرِ زرہ پہننے والے</p>		<p>اللہ عزوجل صاحبِ القدرِ بستی (مدریہ) والے</p>	
<p>اللہ عزوجل صاحبِ الشَّمْلَةِ دس بیج چادر والے</p>	<p>اللہ عزوجل صاحبِ الْقَلَسُوۃِ ٹوپی پہننے والے</p>	<p>اللہ عزوجل صاحبِ الْمُكْحَفَةِ بڑی چادر اور ٹھننے والے</p>	<p>اللہ عزوجل صاحبِ الْبُرْدَةِ کالی کٹی والے</p>

<p>مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ</p> <p>رحمت کی کنجی</p>		<p>مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ</p> <p>داناؤں کے سیر</p>	
<p>مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ</p> <p>داناؤں کے سیر</p>		<p>مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ</p> <p>داناؤں کے سیر</p>	
<p>مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ</p> <p>خانہ کعبہ میں نمسا ز پر ہننے والے</p>			
<p>مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ</p> <p>دعا کا ذخیرہ رکھنے والے</p>		<p>مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ</p> <p>دعا قبول کرنے والے</p>	
<p>رَسُولِ الرَّحْمَةِ</p> <p>رحمت کے پیغمبر</p>			
<p>حَسَنِ</p> <p>اللِّحْيَةِ</p> <p>خوب صورت ریش مبارک والے</p>	<p>كَثِيرِ</p> <p>الْيَقِظَةِ</p> <p>زیادہ جاگنے والے</p>	<p>نَبْرَاسِ الرَّحْمَةِ</p> <p>رحمت کا چسراغ</p>	<p>كَارِ الحِكْمَةِ</p> <p>داناؤں کا گھر</p>

فُصُوصُ الْحِكْمَةِ

حکمت کے موتی

عَيْنِي بِعَبْرَةِ الْوَعْدِ عَطَاكَ

بجز وعدت کے عین

خَافِضُ الْجَنَاحِ

لِلْأُمَّةِ

اُمّت کے لئے رحمت باز دست کرنے والے

لِجَاهِ الْفَوْزِ مَوَدَّةً

جو لڑی لاکر اس مندر

قَائِدِ جَيْشِ النَّبِيِّ

جیش نبوت کے قائد

رِيَاضِ الْخَمَلَةِ

خلت اور دوستی خق کے ریاض

بَدْرِ الْمَحَبَّةِ

محبت کے ماہ تمام

سَيْفِ الْبَلَّةِ

محافظِ ملت کی تلوار

زَيْنِ الْوَجْهِ وَالْخَمَلَةِ

چہروں اور خلعتوں کی زینت

<p>اللہم صل علی</p> <p>عَالِي الْهَيْمَةِ</p> <p>بلند ہمت</p>	
<p>اللہم صل علی</p> <p>صَاحِبِ الْوَلَدِ</p> <p>امتیازی پوتل والے</p>	<p>اللہم صل علی</p> <p>صَاحِبِ الْوَمْرِ</p> <p>دوست والے</p>
<p>اللہم صل علی</p> <p>أَهْلِ الْمَكَامِ</p> <p>اہل جنت کے امام</p>	
<p>اللہم صل علی</p> <p>صَاحِبِ الْمَحَبَّةِ</p> <p>محبت کی اصل بنیاد</p>	<p>اللہم صل علی</p> <p>عَلْوِ الْمَجْدِ</p> <p>جنت و پیار کے دریا</p>
<p>اللہم صل علی</p> <p>صَاحِبِ الْجَنَّةِ</p> <p>جنت کے مالک</p>	
<p>اللہم صل علی</p> <p>صَاحِبِ الْبَسْطَةِ</p> <p>وسعت والے</p>	<p>اللہم صل علی</p> <p>صَاحِبِ الرُّكُوءِ</p> <p>چھاگل (چمڑے کا تھیلا) والے وہ برتن جو کوہو کے نیچے رس جمع کرنے کے لئے رکھے ہیں۔</p>
<p>اللہم صل علی</p> <p>الْمُبْعُوثِ</p> <p>رحمت کے ساتھ بیجھے گئے</p>	<p>اللہم صل علی</p> <p>شَارِحِ الْخُرْسَاءِ</p> <p>کشادہ روشن پیشانی والے</p>
<p>اللہم صل علی</p> <p>بِالرَّحْمَةِ</p>	

اللهم صل على
خُطْبَةِ الْكِتَابِ
الْمُؤَدَّةِ
 کتاب عشق کا دیباچہ

اللهم صل على
صَاحِبِ كَلِمَاتِهِ
وَأَقْوَمِهَا
 ختمی اور قوت والے

اللهم صل على
الْبَيِّنَاتِ بِالْقُوَّةِ
 بیزدین غار قوت کا ساتھ

اللهم صل على
الَّذِي أَبْرَهُ اللَّهُ
غَايَةَ الْمُبْرَةِ

اللهم صل على
عَلَامِ الْمَلِكِ الَّذِي جَلَدَا
 حضور نے دین البرہم کا
 شہادت زندہ کیا

اللهم صل على
صَاحِبِ كَلِمَاتِهِ
 ختمی اور قوت والے

اللهم صل على
صَاحِبِ
الْبِرِّ الْمَيْنِ لَسَا
 روشن دلائل والے

اللهم صل على
صَاحِبِ
بَيْعَةِ
الشَّجَرَةِ
 بیعت ضوان والے

اللهم صل على
صَاحِبِ
بَيْعَةِ
العُقْبَةِ
 عقبہ کی بیعت والے

اللهم صل على
صَاحِبِ
الْوَفْرِ
العَطْرِ
 خوشبودار زلفوں والے

اللهم صل على
صَاحِبِ
الفِطْرَةِ
 فطرت سلیمہ والے

<p>اللہ عزوجل نَبِيِّ الْمُرَحَّمَةِ رحمت والے نبی ﷺ</p>	
<p>اللہ عزوجل عِلَّتِ كَعْدِ الْوَكَلِ عِلَّتِ كَعْدِ الْوَكَلِ اللہ عزوجل</p>	<p>اللہ عزوجل رَافِعِ الْوَكَلِ رَافِعِ الْوَكَلِ اللہ عزوجل</p>
<p>اللہ عزوجل الْمُرَّادِ اللہ عزوجل</p>	
<p>اللہ عزوجل عَنِ الْاَبْنَاءِ عیب سے بری ﷺ</p>	
<p>اللہ عزوجل صَاحِبِ الْوَكَلِ صَاحِبِ الْوَكَلِ اللہ عزوجل</p>	<p>اللہ عزوجل مَوَدِّي الْوَكَلِ مَوَدِّي الْوَكَلِ اللہ عزوجل</p>
<p>اللہ عزوجل صَاحِبِ الرَّافَةِ زری والے ﷺ</p>	
<p>اللہ عزوجل كَامِلِ کامل اللہ عزوجل</p>	<p>اللہ عزوجل قَاصِرِ قَاصِرِ اللہ عزوجل</p>
<p>اللہ عزوجل الْفُتُوَّةِ کامل اللہ عزوجل</p>	<p>اللہ عزوجل الْجَبَابِرَةِ جباروں (کے جبر) کو توڑنے والے اللہ عزوجل</p>
<p>اللہ عزوجل قَالِمِ رُؤَسِ قَالِمِ رُؤَسِ اللہ عزوجل</p>	<p>اللہ عزوجل الْفَرَاعِنَةِ فرعونوں کے سر کاٹنے والے اللہ عزوجل</p>
<p>اللہ عزوجل مِنْ خَاصَّةِ مِنْ خَاصَّةِ اللہ عزوجل</p>	<p>اللہ عزوجل اللَّهُ بِالْحِكْمَةِ اللہ نے خاص فرمایا جن کو حکمت کے ساتھ اللہ عزوجل</p>

جَالِي الظُّلْمَةِ

تاریخی کو دور کرنے والے

مَذْهَبُ التَّشْكِيقِ

تشریح کو دور کرنے والے

مَذْهَبُ الوَحْشَةِ

وحشت کو دور کرنے والے

المَّعْرُوفِ

فِي الْمَرْوَةِ

مروت میں معروف

عَنْ الْمَرْوَةِ

عراق سے نبی پانی کو دور کرنے والے

الظُّلْمَةِ

عزت میں ظاہر

مَذْهَبِ الْكُرْبَةِ

کربت کو دور کرنے والے

بَدْرٍ مَكَالَةٍ

چودھویں کے چاند
ہالہ نبوت کے

أَقْوَمُ نَوْمِ

وحدت کا
اصول

نَقْطَةٍ

بسمہ
کا نقطہ

كَتِيرِ شَعْرِ

زیادہ موٹے ریش
مبارک والے

<p>اللہم صل علی شَمْسِ بُرُوجِ الْعِزَّةِ <small>عزتِ بروج کے سورج ﷺ</small></p>		<p>اللہم صل علی الْكَاشِفِ الْفِتَنِ <small>فتنوں کو دور کرنے والے</small></p>	
<p>اللہم صل علی كَاثِبِ الْهَمَمِ <small>رج و تم کو دور کرنے والے</small></p>	<p>اللہم صل علی مَقِيْمِ السَّنَةِ <small>سنہ کو قائم کرنے والے</small></p>		<p>اللہم صل علی اَبِي سُنَّتِكَ <small>ابن سنت کے امام</small></p>
<p>اللہم صل علی بَعْدَ الْفِطْرِ <small>زمانہ فطرت کے بعد سنت قائم کرنے والے</small></p>		<p>اللہم صل علی اَبِي سُنَّتِكَ <small>ابن سنت کے امام</small></p>	
<p>اللہم صل علی صَاحِبِ السَّنَةِ <small>سنت والے</small></p>	<p>اللہم صل علی صَاحِبِ الْمَعَارِفِ الْجَمَّةِ <small>کثیر المعارف</small></p>		<p>اللہم صل علی سَمَاءِ الْعَظْمَاءِ <small>عظمت کے آسمان</small></p>
<p>اللہم صل علی صَاحِبِ الْحَرْبَةِ وَالْقُرْبَةِ <small>جنگ و قربت والے</small></p>	<p>اللہم صل علی صَاحِبِ الْمَعَارِفِ الْجَمَّةِ <small>کثیر المعارف</small></p>		<p>اللہم صل علی عُرْوَةِ الْمَلَكَةِ <small>محبت کے دُولہا</small></p>

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

محبت و اخلاص کا تاج
پہنائے جانے والے

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

مفید نکت کا احاطہ فرمانے والے

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

عظمت والے

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

مظالم کو ختم
کرنے والے

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

بہنے سے ناف تک باریک
بالوں کی لمبی لکیر والے

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

سرخی آمیزش
سفید رنگت والے

اللہم صل علی
صاحب
تاج المحبۃ

مروت کے
سمندر

<p>عَظِيمِ الْجَمَّةِ بزرگ گیسوؤں والے</p>		<p>مَلِكِ الْمَلَكَاتِ فرشتوں کے لئے سرخیز املاؤں والے</p>	
<p>الْفَرْدِ ذِي الْمَنَابِقِ قایل فرشتوں والے</p>	<p>الَّذِي وَهَبَ الْهَابِ اللَّسِيْبَةَ جس محبوب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ہیبت کی خلوت بشری عطا کی گئی</p>		<p>الْحُرُوفِ الْعَالِيَةِ حروف اعلیٰ کی اصل</p>
<p>الْمُتَمَسِّسِ الْأَنْوَارِ الْكِبَارِ جھکتے انوار کا آفتاب</p>		<p>عَيْنِ الْيَمِيَاهِ الصَّافِيَةِ صاف ستھرے پانیوں کے چشمہ</p>	
<p>صَاحِبِ الْأَفْعَالِ باوقار افعال والے</p>	<p>صَاحِبِ الْأَرَاءِ النَّاجِحَةِ کامیابی بخشنے والی آراء کے مالک</p>	<p>خَيْرِ أَرْبَابِ الْمُعَايِنَةِ بہتر ہیں ارباب معائنہ سے</p>	<p>خَيْرِ أَصْحَابِ الْمَكْشَفَةِ بہتر و برتر ہیں اصحاب مکاشفہ سے</p>

عِنْدَ الْمُقَاتَلَةِ شَجَاعٌ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 حرب قتال میں شجاع ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}

عِنْدَ الْمُقَاتَلَةِ سَدَلٌ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 ربا عدل تقیم کے وقت ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}

عِنْدَ الْمُقَاتَلَةِ مَلِكَةٌ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 ساتلات کے وقت نبی ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}

مُظَهَّرٌ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 الجِوَارِفُ الْفَائِقَةُ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 بلند و بالا حکمتوں کے مظہر ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}

عِنْدَ الْمُقَاتَلَةِ سَابِقَةٌ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 وقت مصافحہ کے آغاز ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}

عَيْنُ الْكَاْمِلَةِ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 تدکِ غیب کی اکل ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}

عَيْنُ الرَّحْمَةِ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 السَّابِقَةُ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 رحمت سابقہ کے پرچم ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}

عَيْنُ الزَّاهِدِ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 الصَّادِقَةُ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 زاہدوں کی سچی رغبت ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}

الْأَنْوَارِ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 السَّاطِعَةُ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 پھیلے ہوئے انوار ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}

شَمْسِ الْمَعَارِفِ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 الطَّالِعَةُ ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}
 سرفروز کا طلوع یافتہ سورج ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ}

<p>حکمت اللہ الباقیة <small>اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ</small></p>		<p>حکمت اللہ الباقیة <small>اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ</small></p>	
<p>الاعمال الصالحة <small>اعمال صالحہ کی بنیاد رکھنا</small></p>	<p>مشکوٰۃ <small>مشکوٰۃ</small></p>	<p>الاعمال الصالحة <small>اعمال صالحہ کی بنیاد رکھنا</small></p>	<p>حکمت اللہ الباقیة <small>اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ</small></p>
<p>الانوار الصافية <small>صاف و شفاف انوار کا طاق</small></p>		<p>الانوار الصافية <small>صاف و شفاف انوار کا طاق</small></p>	
<p>الانوار الصافية <small>صاف و شفاف انوار کا طاق</small></p>	<p>الانوار الصافية <small>صاف و شفاف انوار کا طاق</small></p>	<p>الانوار الصافية <small>صاف و شفاف انوار کا طاق</small></p>	<p>الانوار الصافية <small>صاف و شفاف انوار کا طاق</small></p>
<p>السیر الباقیات <small>راز ہیں باقیات صالحات کا جو دائم و پایدار ہیں</small></p>		<p>السیر الباقیات <small>راز ہیں باقیات صالحات کا جو دائم و پایدار ہیں</small></p>	
<p>السیر الباقیات <small>راز ہیں باقیات صالحات کا جو دائم و پایدار ہیں</small></p>	<p>السیر الباقیات <small>راز ہیں باقیات صالحات کا جو دائم و پایدار ہیں</small></p>	<p>السیر الباقیات <small>راز ہیں باقیات صالحات کا جو دائم و پایدار ہیں</small></p>	<p>السیر الباقیات <small>راز ہیں باقیات صالحات کا جو دائم و پایدار ہیں</small></p>
<p>الحضرة <small>بارگاہ جامعہ</small></p>	<p>الانوار <small>نور انوار مخلوق کے نور و روشن</small></p>	<p>طیب الدنيا <small>دنیا و آخرت کی پاکیزگی و خوشبو</small></p>	<p>الحضرة <small>بارگاہ جامعہ</small></p>
<p>الحضرات <small>کامل بارگاہوں کے امام</small></p>	<p>الانوار <small>نور انوار مخلوق کے نور و روشن</small></p>	<p>طیب الدنيا <small>دنیا و آخرت کی پاکیزگی و خوشبو</small></p>	<p>الحضرة <small>بارگاہ جامعہ</small></p>

<p>اللہ تعالیٰ إمام الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ اہل سنت کے پیشوا</p>		<p>اللہ تعالیٰ میدانِ معرفت ہفت کی ہم</p>		<p>اللہ تعالیٰ نہی کرنا میں نے والے</p>	
<p>اللہ تعالیٰ المُخْصُوصِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ المُطْلَقَةِ مخصوص ہیں وحدانیت مطلق کے ساتھ</p>		<p>اللہ تعالیٰ العقائد بالائتلاف میں انصاف میں مکمل ذات ساتھ</p>		<p>اللہ تعالیٰ القاسم میں نے دین و عیق</p>	
<p>اللہ تعالیٰ ذِي الْعَجْزِ الْبَاهِيَةِ روحان معجزات والے</p>		<p>اللہ تعالیٰ مُتَدَكِّرٍ مٹا دہ</p>		<p>اللہ تعالیٰ الْمُطَالِحِ بلند مظاہر کی اصل</p>	
<p>اللہ تعالیٰ حُجَّةِ اللَّهِ باطل کو توڑنے والی اللہ کی حجت</p>		<p>اللہ تعالیٰ مُكَاجِبِ دائیں قبلہ والے</p>		<p>اللہ تعالیٰ الْأَنْجَرِيَّةِ آخرت کی یاد دلانے والے</p>	
<p>اللہ تعالیٰ الدَّامِنَةِ دائیں کو توڑنے والی اللہ کی حجت</p>		<p>اللہ تعالیٰ الْيَمَانِيَّةِ دائیں قبلہ والے</p>		<p>اللہ تعالیٰ الْمُطَالِحِ بلند مظاہر کی اصل</p>	

<p>اللهم صل على مَنْبِعِ الْعَوَارِفِ الْمُتَوَاصِلَةِ وصل کے رازوں کے سرچشمہ</p>		<p>اللهم صل على بِحَبْلِ الْوَالِدِ بِحَبْلِ الْمَنْشُورِ بِحَبْلِ الْمَشْرِقِ بِحَبْلِ الْمَغْرِبِ بِحَبْلِ الْوَسْطِيِّ بِحَبْلِ الْبَيْتِ بِحَبْلِ الْكَلْبِ بِحَبْلِ الْبُرْجِ بِحَبْلِ الْوَالِدِ بِحَبْلِ الْمَنْشُورِ بِحَبْلِ الْمَشْرِقِ بِحَبْلِ الْمَغْرِبِ بِحَبْلِ الْوَسْطِيِّ بِحَبْلِ الْبَيْتِ بِحَبْلِ الْكَلْبِ بِحَبْلِ الْبُرْجِ</p>	
<p>اللهم صل على قَاطِرِ الصَّلَاةِ سفر میں نماز قائم کر نیوالے</p>	<p>اللهم صل على مِيزَابِ الْفَيُوضَاتِ اللَّهُ كَاطِلَةٌ رحمت کی موسلا دھار بارش کے پر نالہ</p>	<p>اللهم صل على كَيْدِ الصَّلَاةِ زیادہ نمازیں پڑھنے والے</p>	<p>اللهم صل على مَقِيمِ الصَّلَاةِ نماز قائم کر نیوالے</p>
<p>اللهم صل على عِصْمَةِ الْعِصَاةِ عاصیوں کے (تہم خداد مذی سے) بچنے کے موجب</p>	<p>اللهم صل على مَلْجَأِ الْعِصَاةِ عاصیوں کی جائے پناہ</p>	<p>اللهم صل على فَكَالِ الْعِصَاةِ غلاموں کو آزاد کرنے والے</p>	<p>اللهم صل على طَوِيلِ الصَّلَاةِ لمبی نماز پڑھنے والے</p>

المُخْتَارِ لِلرِّسَالَةِ

رسالت کیلئے
چنے گئے

مُخْتَارِ الْمَلِكِ الْبَيْتَانِيَّةِ

مختار
کے بیٹے

صَاحِبِ الْأَسْبَابِ

بھیڑوں والے
صاحب

السَّلَامِ مِنْ
يَوْمِ الْحَسْرَةِ
وَالنَّكَامَةِ

حسرت و ندامت کے دن سلامت
رہنے والے

نُورِ الْهَيْبَةِ

نورِ ہیبت

مُفَرِّقِ الْأَنْفِصَاتِ

نورِ تفصیحات

نُورِ الْعِصْمَةِ

نورِ عصمت

مُزِيلِ
أَمْرَاضِ
الْهَجْرَةِ

ہجر و فراق
کے امراض
کو زائل
کرنے والے

الْمَامُونِ
مِنَ الْحَرَارَةِ
الْفُرْقَةِ

زفت کی حرارت
سے مامون

الْمَامُونِ
الْبُرُودَةِ
الْوَصْلَةِ

وصل کی برودت
سے مامون

نُورِ
الْمُرَاقَبَةِ

نورِ مراقبہ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المؤمن بالمشاهدة</p> <p>عزت دین کے ساتھ</p> <p>شاہدوں کے ساتھ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>نُورِ الْأَفْعِدَةِ</p> <p>دلوں کے نور</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صورت مقدسہ</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الذی اشرق</p> <p>وجہہ بنور النبوة</p> <p>والرسالة</p> <p>جن کا چہرہ چمک گیا نور نبوت رسالت کے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الذی اشرق</p> <p>وجہہ بنور النبوة</p> <p>والرسالة</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صورت مقدسہ</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المؤمن بالمشاهدة</p> <p>عزت دین کے ساتھ</p> <p>شاہدوں کے ساتھ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>الذی اشرق</p> <p>وجہہ بنور النبوة</p> <p>والرسالة</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صورت مقدسہ</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المؤمن بالمشاهدة</p> <p>عزت دین کے ساتھ</p> <p>شاہدوں کے ساتھ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المؤمن بالمشاهدة</p> <p>عزت دین کے ساتھ</p> <p>شاہدوں کے ساتھ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صورت مقدسہ</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>واضح</p> <p>الشریعة</p> <p>واضح شریعت والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>من روحه</p> <p>محراب</p> <p>الملائكة</p> <p>جن کی روح فرشتوں کی محراب</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>صاحب</p> <p>البغلة</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ</p> <p>المؤمن</p> <p>بالمشاهدة</p>

اللہ عزوجل
مُبِيدِ الطَّغَاةِ

باغیوں کو تباہ کرنے والے

اللہ عزوجل
مُطَيِّرِ الصَّلَواتِ

بہی نماز پڑھنے والے

اللہ عزوجل
مُخَلِّصِ السَّابِقِیْنَ

سابقہ لوگوں کو نجات دہنے والے

اللہ عزوجل
مِيزَانِ
الطَّرِيقَةِ الْمَرْغُوبَةِ

پسندیدہ راستے کا مِیاز

اللہ عزوجل
مُخَلِّصِ السَّابِقِیْنَ

سابقہ لوگوں کو نجات دہنے والے

اللہ عزوجل
مُخَلِّصِ السَّابِقِیْنَ

سابقہ لوگوں کو نجات دہنے والے

اللہ عزوجل
مُحِيِ
الْحِكْمَةِ الْمَقْبُولَةِ

حکمتِ مقبولہ کو زندہ کرنے والے

اللَّهُمَّ اكشِفْ عَلَيَّ مَا طَوَّيْتُ فِي الْحُرُوفِ فِي السُّورِ الْقُرْآنِيَّةِ

اے اللہ! منکشف فرما مجھ پر جو پوشیدہ کئے ہیں تو نے قرآنی حروف اور

مِنَ الْأَسْرَارِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي عَجَزَتْ عُقُولُ الْحَقْلَاءِ عَنْ

سورتوں میں اسرارِ عجیبہ کہ عقولِ عاجز ہیں ان کے نہم سے

فَلَهُمْ هَا كَمَا قَالَ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

جیسے کہ فرمایا "اور نہیں کوئی تر اور نہ خشک شے مگر کتابِ نبیین میں ہے۔"

وَبِحَقِّ الْحَقَائِقِ الْمُغَيَّبَةِ عَنَّا لِمُشَاهَدَةِ الْقَائِمَةِ بِكَ

اور بظہیر ان حقائق کے کہ غالب کر دیئے گئے ہمارے مشاہدہ سے جو قائم ہیں

مِنْ غَيْرِ خَطُورٍ غَيْرِ كَمَا نَبَّهْتَ عَلَيَّ هَذَا فِي الطَّبِيعَةِ

تیرے ساتھ بغیر کسی غیر کے کھٹکے کے جیسے کہ متنبہ فرمایا تو نے اس امر پر اس طبیعت میں

الَّتِي خَلَقْتَهَا وَبِحَقِّ الْأَجْسَامِ السُّفْلِيَّةِ الرَّسُولِيَّةِ الدَّاعِيَةِ

جسے تو نے پیدا فرمایا اور بظہیر ان اجسام زیریں کے جو رسولوں کے ہیں جو بلانے والے

إِلَى كُلِّ أَمْرٍ عِنْدَكَ مِنْ غَيْرِ اشْرَاكِ لَكَ خَالِصَةٌ

ہیں طرف تیرے تمام احکام کے بغیر شریک کے خالص کرتے ہوئے تیری

لِرُبُوبِيَّتِكَ وَقَابِلَةٌ لِمَا كَلَيْفَ أَمْرِكَ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى

ربوبیت کو اور قبول کرتے ہوئے تیرے امر کی تکالیف کو بیشک ہم نے پیش کی امانت

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

تمام آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پس انھوں نے انکار کیا اس کے اٹھانے

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ فَسُبْحَانَ مَنْ

سے اور ڈر گئے سبھی اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے پس پاک ہے وہ کہ

خَافَ عَنْهُ أَجْسَامُ صَلْبِيَّةٍ شَاقَّةٍ قَوِيَّةٍ كَالْحِجْنِ

ہو گئے اس سے سخت ترین قوی اور مضبوط اجسام زود ہو کر

الْمَكْفُوشِ فَإِنْ يَتَّحَمَلْنَ أَمْرَكَ وَتَكْلِيفَكَ وَنَحْنُ

مانند دھنی ہوئی روئی کے تیرے امر و تکلیف کو برداشت کرنے سے اور ہم نے

قَلْنَا لَتَعْظِمَنَّ كَمَا جَرَى عِنْدَكَ مِنْ قَضَائِكَ

قبول کر لیا تیری تعظیم کے لئے جیسے کہ نافذ ہوئی تیرے ہاں قضاء اور حکم در آن حالیکہ

وَحُكْمِكَ غَيْرِ مُقْتَضِي قَضَائِكَ أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

وہ تیری قضاء کا مقتضی نہیں تھا کہ اس کی قبولیت مفر نہ ہوتا

سرور کونین ﷺ نے فرمایا! اے علی! جھوٹ سے پرہیز کر کیونکہ یہ انسان کے منہ کو سیاہ کرتا ہے اور انسان جھوٹ بولتے بولتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔ اور سچ بولتے بولتے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے۔ ایسے سچے جھوٹ ایمان سے دور کرتا ہے۔

ہاٹ نہ در کے کہیں گھاٹ نہ گھر کے کہیں
ایسے تمہیں پالنا تم پہ کروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيْدُ يَا كَرِيْمُ يَا قُدْرُومُ يَا بَدِيْعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِيْنَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ قَطْرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوْقِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِيْنَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْعَارِفِيْنَ وَالْأَهْلِ وَسَاوِيَةِ السُّلَمِ الْكَثِيْرَةِ الْكَثِيْرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيْمًا وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِ الْمَقْرَبِ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

سَيِّدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

دُنْيَا وَآخِرَتِ كے سردار

المُخْصِصِ
بِالْمُشَافَهَةِ وَالْمُكَلَّمَةِ

جو مخصوص کئے گئے روبرو
دیکھنا اور مکالمہ کے ساتھ

قَاتِلِ الخَوَارِجِ
وَالْفَجْرَةِ

خوارج اور فجار کو قتل کرنے والے

مَالِ
المُعْرِفَةِ الْمُطْلُوبَةِ

مطلوبہ معرفت کی
حقیقت

نَاصِرِ البَّرِيَّةِ

نیکو کاروں کے مددگار

مُنْتَهَى الحَقِيقَةِ
المُّحَدِّثِ بُوْبَةِ

پسندیدہ حقیقت کی انتہا

وَالْيَعْسُوبِ فِي
الحَضْرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ

ربانی بارگاہوں
کے رئیس

المُحِبُّوبِ عِنْدَ
خِيَارِ البَّرِيَّةِ

بزرگ تر مخلوق کے نزدیک محبوب

خَالِجِ الخَلْعِ
المُصْطَفَوِيَّةِ

مصطفوی طہنیں
پہنجانے والے

مَادَّةِ الأَمْدَادَاتِ
السُّبْحَانِيَّةِ

حق سبحانہ و تعالیٰ کی امدادوں کی اصل

العَالِمِ بِمَعَانِي
الْحُرُوفِ الْقُرْآنِيَّةِ

قرآنی حروف کے معنوں کو جاننے والے

شَرَابِ الشُّوقِ
لِلْمَسَاعِرِ الْوُجْدَانِيَّةِ

وجدانی غم کے پام
ظہور شوق

العَاوِفِ بِاسْرَارِ
الْآيَاتِ الْفُرْقَانِيَّةِ

فرقانی آیتوں کے
بھید جاننے والے

لَيْسَ كُلُّ الْأَنْوَارِ
الْأَمِعَةِ الْعَرْشِيَّةِ

چمکنے والے عرش النور
کی تصویر

تَرْجُمَانِ حَضْرَةِ
الْإِلَهِيَّةِ

بارگاہِ خداوندی کے
ترجمان

مَنْ فِي الْفِيوضَاتِ
الْإِلَهِيَّةِ

اللہ تعالیٰ کے فیوض
کے احسانات

سَمَاحَةِ الْإِنْسَانِ فِي
الْمُعَارِجِ الْقَدْسِيَّةِ

عالمِ قدس کی بلندیوں
میں انیس

جَامِعِ السَّبِيلِ
وَالْجَمَالِيَّةِ وَالْجَلَالِيَّةِ

جامع میں تمام جمالی و
جلالی طریقوں کے

مُظَاهِرِ الْهُويَّةِ
وَالْإِحْدِيَّةِ

تشخصِ خاص اور احدیت کے مظہر

بِرُؤْيَا الْمَعَادِنِ
الْجَوْهَرِيَّةِ

جوہری معادن کی
برہان

السِّرُّ الْعَوَالِمِ
المُعْتَبَرَةُ نَوِيَّةُ
مَعْنَى جہانوں کی
کبیر

مُعَانِي الْأَسْرَارِ
الْإِلَهِيَّةِ
اسرار الہیہ کے معانی
اور مقاصد

جَلَالِ التَّنَزُّلَاتِ
الْأَمْصُطَفَائِيَّةِ
تکمیل تنزیلاتِ مصطفائیہ کا
سر یا جلال

طَرْفِ الدَّوْرَةِ
التَّسْبُؤِيَّةِ
دور نبوت کا
مقصود آفرین

لَوْحِ اسْرَارِ
الْقِيُومِيَّةِ
جو اسرارِ قیومیت کیلئے لوح ہیں

رُوحِ الْمَشَامَلَةِ
الْمَلَكُوتِيَّةِ
جو ملکوت کے مشابہ
کئے روح ہیں

الصُّورَةُ الْمُرْتَبِيَّةِ
بِالْوَارِ السَّخَائِيَّةِ
ایسی صورت والے جو الوارِ سخائیہ
کے ساتھ مرتب ہیں

بِحَالِ التَّجَلِّيَاتِ
الْإِحْضَائِيَّةِ
خاص تجلیات کے
سر اسر جمال

صُورَةُ الْحَقِيقَةِ
الْمُرْكَبَانِيَّةِ
حقیقتِ مرتبہ
کا منظر

سَلْطَانِ الْمَمْلَكَةِ الْأَحَدِيَّةِ
 مملکتِ احدیت کے بادشاہ

عَزِيْزِ الْحَضْرَةِ الصَّمَدِيَّةِ
 بارگاہِ صمدیت کے منز ترین

رُوحِ أَشْبَاحِ الْأَرْوَاحِ الْجَمْعِيَّةِ
 جمعیتِ دسکون والی روحوں کے اشباح اور ڈھانچوں کی روح

الْمُشَاهِدِ الْكَمَالِ الْأَحَدِيَّةِ
 کمالِ احدیت کا مشاہدہ کرنیوالے

بَيْتِ الْأَنْوَارِ الْأَلَهِيَّةِ
 انوارِ الہیہ کے بیت اللہ

عَرْشِ الْأَسْرَارِ الْعَلِيَّةِ
 اسرارِ عالیہ کے عرشِ اعظم

بَحْرِ الْعِلْمِ وَاللَّدُنْيَةِ
 علومِ لدنیہ کے بے کنار سمندر

تَرْجَمَانِ الْحَضْرَةِ الصَّمَدِيَّةِ
 بارگاہِ صمدانیت کے ترجمان

رُوحِ الْمَعَارِفِ الْجَامِيَّةِ
 معارفِ علمیہ کی روح رواں

غَوْثِ حَيْطَةِ النَّبَوَّةِ
 احاطہ نبوت کے مددگار

مَادَّةُ الْحَقَائِقِ
النُّورَانِيَّةِ

حقائق نورانیہ کے مادہ و خمیر

أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ
بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ

ظاہر و باطن میں سب زیادہ سچے

الْمُتَجَلِّي فِي سَمَاءِ
الرُّبُوبِيَّةِ

آسمانِ ربوبیت پر جلوہ گر

رَسُولِ الْإِلَهِيَّةِ
وَالْأُولِيَّةِ

رغبت و عبارتِ الہی کے رسول

الْأَوَّلُ بِالْأَسْمِ الدَّائِي
وَالصِّفَاتِي الْكَمَالِيَّةِ

اول میں بسبب اسم ذاتی اور صفاتِ کمالیہ کے

خَلِيلِ لِحُبُوبِيَّةِ
وَالْمُحِبِّيَّةِ

محبوبیت اور محبت کے خلیل

مَرْفِقِ أَمْجَدِ
الْكَمَالِ الْإِلَهِيَّةِ

بزرگ تر سہارا اور مجسم کمالِ الہی

مُخْتَمٍ بِالنَّبُوَّةِ

ختم نبوت کی تہر والے

سِرِّ الْأَحَدِيَّةِ

احدیت کا راز

حَائِزِ الصِّفَاتِ
الْقُدْسِيَّةِ

صفاتِ قدسیہ کے جامع

ﷺ

الْخُصُوصِيَّةُ فِي
حَضْرَةِ الرَّبُّوبِيَّةِ

سر یا خصوصیت
بارگاہِ ربوبیت میں

ﷺ

صَاحِبِ الْهَمَمِ
السَّمَاوِيَّةِ

صاحبِ ہمت
آسمانی

ﷺ

جَلِيسِ الْحَضْرَةِ
الْحَمْدِيَّةِ

ہمنشینِ بارگاہِ
قربت و وصل

ﷺ

سَرَابِيلِ الْجَالِيَّةِ

جمالیت کے سرابیل

ﷺ

إِمَامِ الْمِلَّةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ

ملتِ اسلامیہ کے امام

ﷺ

إِمَامِ الْأُمَّةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ

آئمہ اسلام کے امام

ﷺ

إِمَامِ الْحَضْرَةِ
الْقَدْسِيَّةِ

بارگاہِ قدسیہ کے امام

ﷺ

صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ
السَّنِيَّةِ

بلند شان مقامات والے

ﷺ

الْمُنْعُوتِ بِنَعْتِ
الْجَلِيلَةِ الْعَلِيَّةِ

تعریف تھے تھے گئے روشن اور بلند
ترتیب معانی کے ساتھ

ﷺ

صَاحِبِ اللَّطِيفَةِ
الْقَدْسِيَّةِ

لطیفہ قدسیہ کے مالک

صاحب الحُجَجِ
القَطْعِيَّةُ
قطعی دلائل والے

صاحب الرُّوضَةِ
الرُّكْبِيَّةُ
پاکیزہ روضے والے

صاحب الرُّوضَةِ
الْهَنْبِيَّةُ
پسندیدہ روضے والے

صاحب الرُّوضَةِ
الرُّضِيَّةُ
خوش منظر روضے والے

صاحب الرُّوضَةِ
السَّمَائِيَّةُ
مہلند تر ہمتوں والے

صاحب الرُّوضَةِ
الْعَاكِلِيَّةُ
مہلند تر مرتبہ کے مالک

صاحب الرُّوضَةِ
الْأَدْنِيَّةُ
علوم لدنیہ کے مالک

صاحب الرُّوضَةِ
الْأَمَلِيَّةُ
اصلی اور حقیقی قبضہ والے

صاحب الرُّوضَةِ
السَّنِيَّةُ
اعلیٰ بہار اور رونق والے

صاحب الرُّوضَةِ
مَنْزِلِ التَّدْلِيَّاتِ
رہائی نزول و قرینوں کے نزول

صاحب الرُّوضَةِ
الرَّبَّانِيَّةُ
رہائی نزول و قرینوں کے نزول

اللہ تعالیٰ

الشَّكَافِي لِلْأَمْرَاضِ

اللہ تعالیٰ

الْقَلْبِيَّةِ

قلبی امراض کے شفا دینے والے

اللہ تعالیٰ

مَحْرَمِ أَسْرَارِ

اللہ تعالیٰ

الرَّيَانِيَّةِ

اسرارِ ربانیہ کے راز دار

اللہ تعالیٰ

مَهْبَطِ التَّجَلِّيَّاتِ

اللہ تعالیٰ

الْإِلَهِيَّةِ

تجلیاتِ الہیہ کے محل

اللہ تعالیٰ

كِتَابِ الْحَقَائِقِ

اللہ تعالیٰ

الْإِلَهِيَّةِ الدَّائِيَّةِ

حقائقِ الہیہ ذاتیہ کی مجسم کتاب

اللہ تعالیٰ

كَوْثَرِ الْأَنْوَارِ

اللہ تعالیٰ

السُّبْحَانِيَّةِ

انوارِ سبحانیہ کے لئے کوثر

اللہ تعالیٰ

بِحَرْمِ

اللہ تعالیٰ

الْمَحَبَّةِ الْإِلَهِيَّةِ

ذاتِ الہی کی محبت کا بحر محیط

اللہ تعالیٰ

الرَّافِعِ لِلظُّلُمَاتِ

اللہ تعالیٰ

الْكُونِيَّةِ

کون و حدیث کی ظلمات کو دور کرنے والے

اللہ تعالیٰ

مُظْهِرِ الْعُظْمَةِ

اللہ تعالیٰ

النَّزَاتِيَّةِ

عظمتِ ذاتیہ کے منظر

اللہ تعالیٰ

جَمْعِ عِيُونِ

اللہ تعالیٰ

الْحَقَائِقِ الرَّحْمُونِيَّةِ

رحمانی حقائق کے سرچشموں کا مجمع

صُورَةُ مَا دَهُ الْجَبِّيَاتِ

الْفُرْقَانِيَّةِ

تجلیاتِ فرقانہ کی صورتِ مادہ

بَرْزَخِ الْعَظْمَةِ

الدَّائِيَّةِ

عظمتِ ذاتیہ کا برزخ

مَجْلَى الْحَقَائِقِ

الْقُرْآنِيَّةِ

حقائقِ قرآنیہ کی جلوہ گاہ

مَعْدِنِ كُنُوزِ اسرارِ

السُّبُوبِيَّةِ

اسرارِ ربوبیت کے خزانوں کی کان

سِرِّ اسْتِوَاءِ

الرَّحْمَانِيَّةِ

رحمانِ تعالیٰ کے استواء کا رازِ سریت

هَاءِ الْهُويَّةِ

ہویت کی ہاء

مَنْظَرِ وجودِ لاسْمَاءِ

الْإِلَهِيَّةِ

اسماءِ الہیہ کے وجود کا منظر

مَنْبَعِ عَيْنِ الْفَتْوَةِ

جو انمردی کے چشمہ کا منبع

عِقْدِ النَّسْبِ

نبوت کی لڑی

الْقَائِمِ بِأَوْصَافِ

الْحُبُودِيَّةِ

اوصافِ عبودیت کے ساتھ قائم

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مُخْبِرٍ عَنِ الْغَيْبِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الْيَقِينِيَّةِ

یقینی غیب کی خبر دینے والے

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مَعْدِنِ السَّرِّ الْوَلَايَةِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الْحَلَوِيَّةِ

ولایت علویہ کے معدنِ راز

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الْمَحْمُودِ بِجَمِيعِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الْاَلْسِنَةِ الْحَسَنَةِ

حمد کئے ہوئے تمام ظاہر و
مخسوس زبانوں کے ساتھ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ذِي الْمَقَامَاتِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الْجَبَلِ الْاَلِيَّةِ

جلالی مقالات والے

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ذِكْرِ الْاَشْبَاحِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الْحَلَوِيَّةِ

عالم بالا کا سراپا ذکر

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مِقْطَةِ الْبَاءِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الدَّيْمُومِيَّةِ

دوام و سرمدیت کی باء کا نقطہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مَشَاوِرِ اَشْعَةِ الظُّلُمَاتِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الدَّائِيَّةِ

طاق ہیں اللہ کے ظہوراتِ اتریہ کی
شماؤں کیلئے

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مِرَاةِ اَنْجِلَاءِ لَوَامِعِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الضِّيَاآتِ الْاَسْمَائِيَّةِ

صاف آئینہ ہیں اللہ کے اسماء کی
روشن تجلیات کا

مَلِكِ الْوَرَاثَةِ

الْحَقِيقَةِ

وراثتِ حقیقہ کے مالک

خَيْرِ الْبَرِيَّةِ

جہان سے افضل

صَاحِبِ الْعُرُقِ

النُّورَانِيَّةِ

نورانی رگوں والے

صَاحِبِ اللَّطِيفَةِ

الْقُدْسِيَّةِ

لطیفہ قدسیہ کے مالک

الْمُبْرَأِ مِنَ الشَّوْغِلِ

الدُّنْيَوِيَّةِ

شواغلِ دنیا سے مبتلا

الْمُحَافِظِ مِنَ الشَّهْوَاتِ

الشَّيْطَانِيَّةِ

شیطانی شہوتوں سے حفاظت کرنے والے

الْمُطَهَّرِ عَنِ الْخَطَرَاتِ

النَّفْسَانِيَّةِ

خطراتِ نفسانیہ سے پاک

مُحِبُّوْبِ الْحَضْرَاتِ

الْإِلَهِيَّةِ

بارگاہِ الہیہ کے محبوب

فِيءِ النَّيِّرَاتِ

الْبُهِّيَّةِ

عکس پس روشن نورانی اجرام کا

يَحْسُوبِ الْحَضْرَاتِ

الرَّبَّانِيَّةِ

حضراتِ ربانیہ کے رئیس

مَطْلُوبِ النَّظَرِ
 الْحَقِيقَةِ
 حَيَاتِ الْقُلُوبِ
 الْحَلِيَّةِ
 بَاطِنِ الْعُلُومِ
 الْقَلْبِ نَيْتِ
 مَبْدَأِ الْمَحَبَّةِ
 الْإِلَهِيَّةِ
 مَجْمَعِ مَظَاهِرِ الْأَسْمَاءِ
 الْإِلَهِيَّةِ
 مَظَاهِرِ الْأَوْلِيَّةِ
 وَالرَّبُوبِيَّةِ
 أَنْمُودَجِ الْحَقَائِقِ
 الْعِلْمِيَّةِ
 حَقَائِقِ نِكَاحِ سَوْدِ كَلْبِ الْمَطْلُوبِ
 رُشْنِ وَاضِحِ تَسْوِيبِ زَنْكَانِي
 عُلُومِ تَسْرَانِ كِ بَاطِنِ
 اَلشَّرِكِ مَحَبَّتِ كِ مَبْدَأِ
 مَظَاهِرِ اَسْمَائِ الْهَيْكَلِ كِ اَعْتِمَادِ
 اَلرَّبُوبِيَّةِ كِ مَحَلِّ ظَهْرِ اَدْرِ اَلرَّبُوبِيَّةِ
 عِلْمِي حَقَائِقِ كِ اَلْوَكَا اَلْمُؤَنَةِ

اللہ عزوجل
مَحَلِّي التَّعِينَاتِ
الثَّبُوتِيَّةِ
ثبوت ووجود کے تعینات کی
جسورہ گاہ

اللہ عزوجل
مُحْتَوِي اللَّهْوَلَاتِ
الْإِمْكَانِيَّةِ
محیط ہیں عالم امکان کے اصول
اور مواد کو

اللہ عزوجل
رُوحِ أَرْوَاحِ
الْأَكْوَانِيَّةِ
روح ہیں ارواح اکوان وخلائق کی

اللہ عزوجل
جَوْهَرِ الطَّبَعِيَّةِ
الْكُلِّيَّةِ الْخَاصَرِيَّةِ
طبیعت کلیہ عنصریہ کا جوہر

اللہ عزوجل
مِحْرَابِ جَامِعِ
الْإِبْدَاعِيَّةِ
عمدیوں کے محراب جامع

اللہ عزوجل
مَحْتَدِ الْهَيُولَاتِ
الْإِمْكَانِيَّةِ
اجسام امکانیہ کی اصل

اللہ عزوجل
كَيْتِ الدَّحِيَّةِ
گھنی ریش مبارک والے

اللہ عزوجل
أَصْلِ الشَّجَرَةِ
النُّورَانِيَّةِ
شجر نورانیت کی جڑ

اللہ عزوجل
رَيْسِ حَضْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ
بارگاہ ربانی کے سردار

صَاحِبِ الذَّاتِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

السُّنِّيَّةِ
اوتھی ذاتِ ولے

سِرِّ الْخَلْوَةِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الِإِلَهِيَّةِ
الشد کی تنہا کاراز

خَلَعَةِ الصِّفَاتِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الِإِلَهِيَّةِ
صفات ذاتِ الہیہ کی خلعت

خَلَعَةِ الْأَسْمَاءِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الِإِلَهِيَّةِ
ذات الہیہ کے اسماء کی خلعت

صَاحِبِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْأَخْيَارِ
قربانی ولے

مِصْبَاحِ شَرِيعَتِهِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الِإِلَهِيَّةِ
شریعت الہیہ کے چراغ

الذَّمْعَةِ الْمُخْتَمَةِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْعَظْمَةِ النُّورَانِيَّةِ
الیہ لمو نورانیہ جو انتہائی عزت و عظمت والا ہے

خَيْرِ مَنْبَعِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

لِفِيوضِ الْوَجُودِيَّةِ
بہترین سرچشمہ وجودی فیوض کا

خَيْرِ مَنْبَعِ الْفِيوضِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الشَّهَادِيَّةِ
شہودی فیوض کا بہترین سرچشمہ

مِنْ بَرِيئَتِ النَّهَائِيَّةِ
اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْإِمْكَانِيَّةِ
مکان کی آخری منزل کے منبر

اللہ عزوجل

الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَيَّاتِ
الْقُرْآنِيَّةِ

آیاتِ قرآن سے جن کی تائید کی گئی

اللہ عزوجل

صَاحِبِ النَّشْأَةِ
الْحَبِيبَةِ

محبوبانہ انداز پر پیدا شدہ والے

اللہ عزوجل

الْمُتَخَلِّقِ بِأَشْرَفِ
النُّعُوتِ الْحَسَنِيَّةِ

بلند صفتوں میں سے بزرگ ترین صفتوں کے ساتھ موصوف ہونے والے

اللہ عزوجل

الْمُتَحَقِّقِ بِالْكَرَمِ
الْأَدَبِ

مخلوق کے آداب میں سے معزز ادب کے ساتھ قائم ہونے والے

اللہ عزوجل

مَنْ شَاءَ الْعُرْفَةَ
الذَّاتِيَّةِ

معرفة ذات کے مقام آغاز

اللہ عزوجل

عُرُوسِ الْمَمْلَكَةِ
الرَّبَّانِيَّةِ

مملکتِ ربانیہ کے دولہا

اللہ عزوجل

الْمُحْفَظِ مِنَ الشَّهَوَاتِ
الشَّيْطَانِيَّةِ

شیطانِ شہوات سے محفوظ

اللہ عزوجل

شُعَاعِ الذَّاتِ
السَّرْمَدِيَّةِ

ذاتِ سرمدیہ کی شعاع مجسم

اللہ عزوجل

شُعَاعِ الذَّاتِ
الْقَدِيمِيَّةِ

ذاتِ قدیمیہ کی مجسم شعاع

اللہ عزوجل

فَلَكَ الْحَقَائِقُ
الصِّفَاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ

کشش میں اللہ کے صفائی حقائق کے لئے

لَمْ حَذِ الْقَبْضَةَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الرَّحْمَ مَائِنَةَ
قبضہ رحمانی کی چمک

نَهَبُ جِبْرِ الْجَبِّيَّاتِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْأَلِهِيَّةِ
خدائی تجلیات کے جائے نزول

الْمُتَفَرِّدِ فِي مَقَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْفَرْدَانِيَّةِ
مقام یکتائی میں یکتا

الْجَاذِبَةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
لِلْأَرْوَاحِ الْمُحَنُونَةِ
معنوی روحوں کی کشش

حَبَابِ الْجَمْعِيَّةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْبُرْزَخِيَّةِ
مجمع برزخ کے مالک

الْمُنْطَوِيَّةِ فِي الْحُرُوفِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

الْقُرْآنِيَّةِ
حروف قرآنیہ میں لپٹے ہوئے

الْمُتَمَيِّزِ بِصَفْوَةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
الشُّوَرِ الدَّبَانِيَّةِ
ربانی معاملات کے وصف کے ساتھ ممتاز

الْمُصَلِّيِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
بِرْطَابَةِ
مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے والے

مَحَبِّ فَاطِمَةَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پیار کر نیوالے

ذِي طَيْبَةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

طیبہ (مدینہ) والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بِكْرِ امْنَةٍ

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے اکلوتے لال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الْمُهَاجِرِ
إِلَى طَيْبَةَ

طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والے

اللَّهُمَّ وَجِّعْ لِي بِجَمَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ كَمَلْتَنِي

اے اللہ! مجھے صاحبِ جمال بنا لا، اے اللہ! اللہ کے جمال کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے صاحبِ

كَمَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ قَوِّنِي بِقُوَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کمال بنا لا، اے اللہ! اللہ کے کمال کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے طاقت دے بنا لا، اے اللہ! اللہ کی قوت کے ساتھ۔

اللَّهُمَّ أَيْدِي بَرُوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ سَخِّرْ لِي رُوحًا

اے اللہ مجھے تھوڑی سی بخش لا، اے اللہ! اللہ کی روحانیت کے ساتھ۔ اے اللہ! مسخر فرما میرے لئے روحانیت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ أَعِدْ لِي الْجَلِيَّ وَالْخَفِيَّ

لا، اے اللہ! اللہ کی۔ اے اللہ! ہلاک فرما میرے علانیہ اور خفیہ دشمن کو ساتھ سیف و تیغ

سَيْفِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْلِسْ لِي عَلَى بَسَاطِ

لا، اے اللہ! اللہ کے۔ اے اللہ مجھے بٹھا لا، اے اللہ! اللہ کے بساط اور

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ نَزِّهْ رُوحِي فِي رِيَاضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

بچھونے پر۔ اے اللہ! سیر کرا میری روح کو لا، اے اللہ! اللہ کے باغات میں

اللَّهُمَّ أَطْحِمْنِي مِنْ مَّوَابِدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اسْقِنِي

اے اللہ مجھے کھلا لا، اے اللہ! اللہ کے دستر خوانوں سے۔ اے اللہ مجھے پلا

مِنْ شَرَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ وَثِّبْنِي عَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا، اے اللہ! اللہ کے شراب سے۔ اے اللہ مجھے ثابت و برقرار رکھ لا، اے اللہ! اللہ پر۔

سرور کونین ﷺ نے فرمایا! اے علیؑ! ہلاکت ہے اس کے لئے جو اس لئے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، ایسے آدمی کیلئے ہلاکت ہو ہلاکت ہو۔ اے علی! مسواک کو لازم کر کیونکہ یہ منہ کے لئے صفائی ہے اور خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور دانتوں کو صاف کرنے والا ہے۔

گرنے کو ہوں روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو

ایسیوں کو ایسی عظامم چھو کر روک دو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قُدُّوسُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُؤُوعِ الْعَاشِقِينَ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُؤُوعِ

الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَوِرَةِ عَلَى

قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَالْإِسْلَامِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ

شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَكَرَامًا وَكِرَامًا وَكِرَامًا وَكِرَامًا

وَكِرَامًا وَكِرَامًا وَكِرَامًا وَكِرَامًا وَكِرَامًا

عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللہم صل علی محمد و آلہ

مَافُوَةٌ
کناز سے چُٹنے ہوئے

اللہم صل علی محمد و آلہ

خِرَابِ ابْنِ
خیریس کے دیرینہ

اللہم صل علی محمد و آلہ

بِزْفَانِ ابْنِ
ابن زینب کے گھونٹنے والے

اللہم صل علی محمد و آلہ

ابْنِ الْکِنَانَةِ
کناز کی اولاد

اللہم صل علی محمد و آلہ

خَلَاصَةٌ مِنْ تَلَامَةِ
تہامہ کا جوہر خالص

اللہم صل علی محمد و آلہ

خَيْرٌ مِنْ أُوتِي الْحِكْمَةَ
خیر سے بہتر

اللہم صل علی محمد و آلہ

الَّذِي
جن کی حالت تھری ہے

اللہم صل علی محمد و آلہ

فَقْدِ بَابِ
جن کا نفس بیاں محفوظ ہے

اللہم صل علی محمد و آلہ

الَّذِي
جن کی حالت تھری ہے

اللہم صل علی محمد و آلہ

الْحَالَةَ
جن کی حالت تھری ہے

اللہم صل علی محمد و آلہ

رَكِيَّةٌ
جن کی حالت تھری ہے

اللہم صل علی محمد و آلہ

الَّذِي
جن کی حالت تھری ہے

اللہم صل علی محمد و آلہ

الْحَالَةَ
جن کی حالت تھری ہے

اللہم صل علی محمد و آلہ

رَكِيَّةٌ
جن کی حالت تھری ہے

اللہ عزوجل

بِكُلِّ صِفَةٍ مُرَضِيَةٍ

جو متصف کئے گئے ہر دلشیں اور دربار صفت کے ساتھ

اللہ عزوجل

مِنْ خَيْرِ الْمَصْرُومِ

سب سے بہتر میں بہترین

اللہ عزوجل

نَحْوِ اعْتِمَادِ

ماہب کیسے داز

اللہ عزوجل

لَا يَلْبَسُ لَهْرَ السَّامِيَةِ إِلَى كُلِّ حَصِيَّةٍ

نہیں پہنوالے جو ہر ہر بارگاہ کی طرف

اللہ عزوجل

الْكَاشِفِ رِكْلِ عِلَّةٍ

ہر بیماری کو دور کر لے والے

اللہ عزوجل

مَوْجِي كُلِّ ذُرْوَةٍ كَوْنِيَّةٍ

کائنات کی ہر مبلدی کے والی

اللہ عزوجل

أَنْ يَسْتَبِيحَ

ہر صبح و خوبی کا سامان راحت و تسکین

اللہ عزوجل

كُلِّ نَضْرَةٍ

ہر نظر کا سامان راحت و تسکین

اللہ عزوجل

أَنْ يَسْتَبِيحَ

ہر صبح و خوبی کا سامان راحت و تسکین

اللہ عزوجل

سُلْطَانِ مَدِينَةِ الْاَمَلِ مَعْرِفَةِ

ابن معرفت کے شہر کے بادشاہ

اللہ عزوجل

مَلِكِ الْمَعْرِفَةِ

ارنیت سے سلا متی والے

اللہ عزوجل

ذِي نَفْسٍ مُّطْمَئِنِّةٍ

ذِي وَفْرَةٍ

گیسوؤں والے

اللہ عزوجل

الْكَمَلِ النَّاسِ رَجَاةٍ

اللہ عزوجل

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللہ عزوجل

اَرْبَابِ الْخَلْقِ وَالْطَّمِّ

لوگوں میں سب اچھے طریقے سے ملنے والے

اللہ عزوجل

عَلَىٰ يَدَيْهِ اَنْتَاسِ

عادت سب کا اعتبار سے

اللہ عزوجل

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللہ عزوجل

أَقْوَمِ
النَّاسِ شُرْعَةً

لوگوں میں سب سے زیادہ سیدھے
رہتے پر چلنے والے

ﷺ

أَكْثَرِ النَّاسِ
مَعَهُ

سب سے زیادہ خوشی والے

ﷺ

أَكْثَرِ النَّاسِ
بِعَمَلِهِ

سب سے زیادہ نیکو اعمال والے

ﷺ

بِحَيْثِ اللَّهِ نِعْمَةً
أَصْدَقِ النَّاسِ لَهْجَةً

اللہ کی طرف سے بطور
نعمت بھیجے ہوئے

اللہ عزوجل

سب لوگوں میں زبان کے سچے

سب انبیاء سے
زیادہ اُمت والے

أَكْثَرِ النَّاسِ أُمَّةً

ﷺ

أَكْثَرِ النَّاسِ
بِعَمَلِهِ

سب سے زیادہ نیکو اعمال والے

ﷺ

أَكْثَرِ النَّاسِ
طَاعَةً

سب لوگوں سے زیادہ
طاعت والے

ﷺ

أَكْثَرِ النَّاسِ
بِعَمَلِهِ

سب سے زیادہ نیکو اعمال والے

ﷺ

تاج
 رسول اللہ ﷺ
 قاطبۃ
 اللہ کے تمام رسولوں کے
 تاج
 ﷺ

اوضح الناس اوضحهم
 ازار سے روشن ترین شخص
 ﷺ

اظهر الخلق سريرة
 ساری مخلوق سے زیادہ
 ظاہر اور لورانی طبیعت والے
 ﷺ

اشرف الناس
 سب سے زیادہ بزرگ باعتبار اصل کے
 ﷺ

اكرم الناس اكرمهم
 سب سے مکرم باعتبار
 خیر و جوہر
 ﷺ

ما تھی
 میں
 ﷺ

غازی
 غازی
 ﷺ

ابن ابی حنیفہ
 ازرف سے عزیزت کے
 سب سے افضل
 ﷺ

اللہم صل علی

ابنِ سَعْدِی

بچانے والے

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

ابنِ سَعْدِی

بچانے والے

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

ابنِ سَعْدِی

بچانے والے

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

الْأَحْوَذِی

ماہر (ہر کام میں)

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

الذَّلُوی

نرم اور اچھے اخلاق والے

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

اللوذِعی

(ذکی) ذہین

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

الْمَمَعِی

حفاظت شناس

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

الْمَمَعِی

مکہ کے رہنے والے

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

الْمَمَعِی

مکہ کے رہنے والے

صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

القَوِي

قوتِ دلے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّوَدِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَلِكِ دِي

ہدیت دینے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللہ شامی

ہاشمی خاندان والے

غیب کی خبریں دینے والے

النَّبِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القَصِي

غلیظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْوَفِي

وعدہ وفا کرنے والے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَشِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على

المَدِينِي

مدینہ کے والی

صلی اللہ علیہ وسلم

اَعْطِي رَافِعِي بَنِي بِنُوَيرَةَ

صلی اللہ علیہ وسلم

اللهم صل على

المَدِينِي

مدینہ کے والی

صلی اللہ علیہ وسلم

المَقْرِي خَزْرِي

قبیلہ مضر سے

صلی اللہ علیہ وسلم

المَقْرِي

سبق دینے والے

صلی اللہ علیہ وسلم

المَدِينِي لَاحِظِي جَبَلِي

اللهم صل على

المَدِينِي

اللهم صل على

المَقْرِي

بنی لاکھ پیکار بنویر

صلی اللہ علیہ وسلم

العَجْرِي

عربی

صلی اللہ علیہ وسلم

عاجلی

عاجلی

صلی اللہ علیہ وسلم

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ
 الْمَلِكِي
 غنى بالشد
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ
 الْوَالِدِي
 خیر دیناں کے
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ
 الْاَكْبَرِي
 جو کلمہ کہہ کر جو کلمہ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ
 الْفَيْضِي
 سر یا فیض بانی
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ
 الْمُمِدِّي
 الشد کی طرف سے سادان
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ
 الْهَيْدِي
 نورانی مجسمہ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ
 الْاَمِي
 مقصود
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ
 الْرُوحِي
 مُقَدَّس رُوح
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ
 الْاَسْمَعِي
 پورا شہیدہ کا

اللہم صل علی

النبي
والآل
الطیبین

نبی امی

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

سیدنا محمد
وآلہ
الطیبین

وہ سردار جو حضرت آہ
اللہ علیہ وسلم

سیدنا محمد
وآلہ
الطیبین

وہ سردار جو اعلیٰ کی
اللہ علیہ وسلم

السید الرضی

السید الحکمی

وہ سردار جو بلند مرتبت ہیں

السید الجلی

وہ سردار جو
ظاہر ہیں

السید
النبی
الطیبین

وہ سردار تو سخی ہیں

السید
الکافی

وہ سردار جو پوری طرح
چھان بین کر نیوالے ہیں

السید
العباسی

وہ سردار جو ابوبکر
اللہ علیہ وسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السَّيِّدِ
الْبَرَّارِيِّ

وہ سردار جو میدانوں میں
بسیر کر نیوالے ہیں

ﷺ

السَّيِّدِ
الْبَرَّارِيِّ

وہ سردار جو صاحبِ
بطحا ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السَّيِّدِ
الْبَرَّارِيِّ

وہ سردار جو میدانوں میں
بسیر کر نیوالے ہیں

ﷺ

السَّيِّدِ التَّهَامِيِّ

وہ سردار جو صاحبِ تہام ہیں

السَّيِّدِ الْجَازِيِّ

وہ سردار جو صاحبِ حجاز ہیں

السَّيِّدِ التَّرَازِيِّ

وہ سردار جو ترازوی ہیں

السَّيِّدِ
الْبَرَّارِيِّ

وہ سردار جو
صاحبِ بطحا ہیں

ﷺ

السَّيِّدِ
الْبَرَّارِيِّ

وہ سردار جو
صاحبِ حرم ہیں

ﷺ

السَّيِّدِ
الْبَرَّارِيِّ

وہ سردار جو
صاحبِ بطحا ہیں

ﷺ

اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد

السَّيِّدِ الشَّامِيِ
 وہ سردار جو شامی ہیں

السَّيِّدِ السَّعَادِيِ
 وہ سردار جو سعادی ہیں

السَّيِّدِ الْمُقْتَدِيِ
 وہ سردار جو مقتدی ہیں

السَّيِّدِ النَّجِيِ
 وہ سردار جو ہمگامی کا شرف پانوالے ہیں

السَّيِّدِ الْمَقْرِيِ
 وہ سردار جو مکرانی ہیں

السَّيِّدِ الْمُهْدِيِ
 وہ سردار جو ہدایت یافتہ ہیں

اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد

اللہ عزوجل

السَّيِّدِ الصَّافِي

وہ سردار جو باصفا ہے

اللہ عزوجل

السَّيِّدِ الْعَرِيفِ

وہ سردار جو وفادار ہے

اللہ عزوجل

السَّيِّدِ الْخَفِيِّ

وہ سردار جو مخفی ہے

اللہ عزوجل

السَّيِّدِ الْمَدِينِي

وہ سردار جو مدنی ہے

السَّيِّدِ الْمَلِكِي

وہ سردار جو مکی ہے

السَّيِّدِ الْأَمِي

وہ سردار جو امی ہے

اللہ عزوجل

السَّيِّدِ الْعَقِيلِ

عقید سخی

اللہ عزوجل

السَّيِّدِ النُّورِي

مجسم نور الہی

اللہ عزوجل

السَّيِّدِ الْعَسْوَ

مبجی راز برکت

اللہم صل علی
النُّورِ
الذَّائِقِ
سراسر نور ذاتی

اللہم صل علی
الذَّائِقِ
الذَّائِقِ
سراسر منتظر صفائی

اللہم صل علی
القَطْرِ
السَّمِیِّ
دار و مدار کائنات
دائمی قطب

اللَّاحِدِ الْوَاحِدِ الرَّوْحَانِيِّ
النُّورِ الْقَدِيمِ السَّمِیِّ الْمُحَمَّدِيِّ
سرمئی محمدی قابل تاشش نور قدیم
الشَّامِیِّ وَ
شفایینے والے

اللہم صل علی
الْمُتَّقِیِّ
محفوظ

اللہم صل علی
الْمُحَلِّیِّ
صلبند مرتبہ

اللہم صل علی
الْمُحَلِّیِّ
صلبند مرتبہ

اللہم صل علی

سِرِّ اللہِ
النُّسْفِی

اللہ کے رازِ مخفی

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

اللہِ
الْمَسْحِی

نہایتِ ذکی و ذہین

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

نَبِیِّ الْغَازِیِّ

غازی نبی

صلی اللہ علیہ وسلم

الْمُخْتَارِ لِلْهُدٰی

بیتِ کرمہ
چننے ہوئے

ظَاءِ ظَلُّوْرِ اٰیَاتِ الْعَلٰی

بلند مرتبہ آیت کے
ظہور کی ظاء

صلی اللہ علیہ وسلم

بیتِ کرمہ
چننے ہوئے

رِ الْمُدٰی مِّنِ الْمُدٰی

اللہم صل علی

نَبِیِّ
الْمُصْطَفٰی

چننے ہوئے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

عُرُوْبِ
الْوَرٰی

کائنات کے دولہا

صلی اللہ علیہ وسلم

اللہم صل علی

الْمُهَيَّبِیِّ

عطاء کرنے والے

صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسْتَفْرِدِ
 بِالطُّورِ
 الْأَجَلِيِّ

دشن ترین طور کیساتھ منفرد
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسْتَفْرِدِ
 بِالْمُؤَرِّدِ الْأَحَلِيِّ

شیرین تر محل و رو کیساتھ منفرد
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْمُسْتَفْرِدِ
 بِالْمَسْهَدِ الْأَعْلَى

بلند تر مقام مشاہدہ کیساتھ منفرد
 ﷺ

خوف ہلاکت کے
 فتنہ کو قطع کرنے والا
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الذَّاتِ الْعَظِيمِ

عظیم تر ذات
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

عظیم تر قرآن
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ أَفَّةَ الدِّينِ الْهُوِيِّ

جس کا قول ہے دین سب سے
 درتباہی خواہش نفس
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُنْقِدِ الْمَلَكِيِّ

ہلاکتوں سے بچانے والے
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُنْجِيِ
الْغُرَقِيِّ

غرق ہونے والوں کو
 بچانے والے
 ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
نُورِ الْوَرِيِّ

کائنات کا نور
 ﷺ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَصْلِ
الْوَرَى

کائنات کی اصل

ﷺ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَلْبِ الْوَرَى

قلب کائنات

ﷺ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْهَامِ الْأَسْمَى

بلند مرتبہ مرصع پٹی میں تاج سر کی

ﷺ

تاج السلطنة العظمیٰ

صَاحِبِ الْآيَاتِ الْعُظْمَى

آیات عظمیٰ والے

المسورى إلى السموات العلیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَاحِبِ
الجسدِ العلیٰ

جسدِ علیٰ والے

ﷺ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَسُولِ
الْآتِقَى

پاکیزہ تر رسول

ﷺ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بَابِ
جَنَّةِ الْمَاوَى

جنت الماویٰ کا دروازہ

ﷺ

اللَّهُمَّ وَمَا ذَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ لِي فِرَاقًا فِيمَا

اے اللہ! اور جو تو نے سمیٹ لیا مجھ سے میرے پسندیدہ امور سے پس بنا اس کو میرے

تُحِبُّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا

لئے ذریعہ فراغت کا اپنے پسندیدہ امور کے لئے اے مقلب القلوب ثابت رکھ میرے دل کو اپنے

حُبِّكَ وَحُبِّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبِّ عَمَلٍ تُحِبُّهُ أَنْتَ وَأَوْصِلْنَا

دین پر اے اللہ ہمیں نصیب فرما اپنی محبت اپنے محبوبوں کی محبت اور اپنے پسندیدہ امور کی محبت اور پہنچا ہمیں

إِلَى مَقَاصِدِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَتَوَجَّحْنِي يَا عَظِيمُ يَا مَعْرُومُ

مقامد تک دنیا و آخرت میں اور مجھے پہنچا اے عظیم اے عزت بخشنے والے

تَاجَ مَهَابَةٍ كَبِيرًا يَا جَلَالَ مَلَكُوتِ عِزِّ عَظَمَتِهِ وَلَا يَحْزُنُكَ

تاج اس ہیبت کبریاء جلال ملکوت اور عزت و عظمت کا اور نہ غمزدہ کریں

قَوْلَهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَالْبُسْنَى يَا جَلِيلُ يَا كَبِيرُ خَلَعَةَ

آپ کو ان کی باتیں۔ بیشک عزت اللہ کیلئے ہے۔ اور پہنچا مجھے اے جلیل اے کبیر خلعت اس

إِجْلَالَ الْكَمَالِ أَقْبَالَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ الْبُرْنَةَ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

جلالت و کمال اور نیک بختی گئی۔ پس جب دیکھا ان عورتوں نے انہیں بہت بڑا جانا انہیں

وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ وَالْقِيَا عَزِيزًا وَدُودًا عَلَى مَحَبَّتِهِ مِنْكَ

اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور پکار اٹھیں پناہ بخدا اور ڈال لے عزیز اے دود مجھ پر محبت اپنی طرف سے

حَتَّى تَبْقَادَ تَخْضَعُ لِي قُلُوبُ عِبَادِكَ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ

حتی کہ مٹیں فرماں بردار ہو جائیں میرے لئے تیرے بندوں کے دل ساتھ محبت اور عزت اور مودت

وَالْمُودَّةِ مِنْ تَعَطُّفِ تَأْيِيفِ مَخْبُونِهِمْ كَفَّيْتُ اللَّهُ وَالَّذِينَ

کے بسبب اس عنایت و الفت کے محبت رکھتے ہیں ان سے مانند اللہ کی محبت کے اور ایمان والے

أَمِنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

آمین بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔

سرور کو میں نے فرمایا اے علی! سفر میں اکیلا مت نکل کیونکہ کہ
 شیطان اکیلے کے ساتھ ہو جاتا ہے اور دوسے بہت دور ہوتا ہے۔ اے علی!
 انسان جب اکیلا سفر کرتا ہے تو وہ لیک بھٹکنے والا ہے اور وہ نہیں تو وہ لاسی
 طرح اور تین پوری جماعت ہیں۔ اے علی جب تو سفر کرے تو طاویل میں
 نہ اترنا کیونکہ وہ درندوں اور سانپوں کی جگہ ہے

اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو
 کون کرے یہ بھلا تم پہ کروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا رَحِيمَ يَا رَحِيمَ يَا كَرِيمَ يَا قَرِيمَ يَا وَدِيدَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِفِينَ وَاللَّهُمَّ وَسِّعْ لِعِبَادِكَ الْكَثِيرِ الْبَتِيرِ
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَكْرِمْ لَهُ الْكَلِمَةَ الْمَكْرَمَةَ
عِنْدَكَ يَا كَرِيمَ الْكَرَامَةِ

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُقْتَدِرِي نبیوں کے بعد آنیوالے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُنَادِي توحید کی دعوت دینے والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُقْتَدِرِي آنے والے پیچھے</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُنْحَنِي غنا بخشنے والے</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُعْزِي تسلی دینے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُعْطِي عطا کرنے والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُسَلِّي تسلی دینے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُصَلِّي نماز پڑھنے والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُرْتَدِي پھار اور ہٹنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُزَكِّي تزکیہ کرنے والے</p>
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُنْتَهِي تنہائی پسند</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْوَافِي اکمل نبی</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ النَّصَالِي برے کاموں سے روکنے والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْوَالِي سلطان</p>

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّسَادِي ہایت فرمانیوالے</p>		<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُهَلِّدِي ہایت یافتہ</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُضِحِّي قربانی فرمانے والے</p>			
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَقِي پرہیزگار</p>			
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَاجِحِي بھائی چہارہ ڈالنے والے</p>		<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُتَاجِحِي کفر کو مٹانے والے</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَاقِفِي اللہ سے ملاقات کرنیوالے</p>		<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُتَكَارِفِي جہان نواز</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُتَكَاسِفِي انصاف کرنیوالے</p>		<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُكَافِي کفایت کرنیوالے</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّرَائِي سچے خواب دیکھنے والے</p>			
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّرَاحِي رعایا والے</p>		<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّرَاحِي اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے</p>	
<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّرَاحِي رحمت کے امیدوار</p>			

<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الرَّامِي</p> <p>طھکانے پر تیر مارنے والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الرَّبِّي</p> <p>رب والے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ السَّارِي</p> <p>سیر فرمانے والے</p>	
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الْبَسِاطِي</p> <p>حسین و جمیل</p>	
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الْتَّالِي</p> <p>قرآن کی تلاوت کرنے والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الدَّاعِي</p> <p>دعوت دینے والے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الدَّانِي</p> <p>اللہ کے نزدیک پہنچنے والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الزَّائِمِي</p> <p>نشوونما پانے والے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَبَانِي</p> <p>شرافتوں والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَائِمِ التَّرْقِي</p> <p>بہمیشہ ترقی کرنے والے</p>
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي كَفَفَهُ كَافِي</p> <p>جس کی حفاظت کفایت کرنے والے</p>	
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِالْجَافِي</p> <p>جو سخت نہیں تھے</p>	
<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ نِعْمَ الدَّاعِي</p> <p>بہترین دعوت دینے والے</p>	<p>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي عَزَمَ كَسَامِي</p> <p>جس کی عزتیں بلند ہونے والی ہیں</p>

<p>الَّذِي سَمَّوُهُ رَاقِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاقِي</small> جن کی بلندی ترقی کرنے والے ہے</p>	<p>الَّذِي حَرَمَتْهُ حَامِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَامِي</small> جن کا حرم ناز پناہ دینے والا ہے</p>
<p>الَّذِي جَلَّ لَهُ وَاقِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَاقِي</small> جن کا جلال بجا نیوالا ہے</p>	
<p>حَظُّ الْأَنْبِيَاءِ الْوَأْفِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْوَأْفِي</small> انبیاء کا خطِ کامل</p>	
<p>الْأَسِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَسِي</small> سلاج، طبیب</p>	<p>مِظَالِ الْأَيْدِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِظَالِ الْأَيْدِي</small> نعمتیں لٹانے والے</p>
<p>مُشْكُورِ السَّاعِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُشْكُورِ السَّاعِي</small> جن کی کوششیں مقبول ہو گئیں</p>	<p>الَّذِي عَطَاءُهُ وَاْفِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي عَطَاءُهُ وَاْفِي</small> جن کی عطا پلوری پلور کی ہے</p>
<p>الْمُسْتَعْنَى <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَعْنَى</small> بے نیاز</p>	<p>مَرْكَزِ الْمُعَانِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَزِ الْمُعَانِي</small> سانی کے مرکز</p>
<p>صَاحِبِ السَّبْعِ الْمَثَانِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ السَّبْعِ الْمَثَانِي</small> سورۃ فاتحہ والے</p>	
<p>ذَرِيْعِ الْمَكْشِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ذَرِيْعِ الْمَكْشِي</small> قدم بڑھا کر تیز روی سے چلنے والے</p>	
<p>الطَّيِّبِ الشَّافِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ الشَّافِي</small> طیب شامانی</p>	<p>الْمَوْلِي <small>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَوْلِي</small> بیک کہنے والے</p>

<p>قَمَرِ الدِّيَا جِي شب ہائے تاریک کیلئے روشن چاند</p>	<p>الشَّهِيدِ النَّاجِي نجات پانے والے شہید</p>
<p>العَاوِلِ بِالْمَاضِي جاننے والے ماضی کے</p>	
<p>السَّيِّدِ الْمُهْدِي ہدیہ بخشنے والے سردار</p>	
<p>السَّيِّدِ الْمُغْنِي وہ سردار جو غنی کر نیوالے ہیں</p>	<p>السَّيِّدِ الْمُتَّقِي وہ سردار جو مستقی ہیں</p>
<p>مُعَظِّمِ الْبَالِي عظیم تر حسین و جمیل</p>	<p>عَظَّالِ الْيَادِي انعامات کے عام کرنے والے</p>
<p>مَحْمُودِ الدَّوَاعِي قابل ستائش اسبابِ دلے</p>	<p>مُجِيبِ الدَّاعِي دعوت کو قبول کرنے والے</p>
<p>زِعْمَرِ الرَّحِي اچھے نگران</p>	
<p>ظِلِّ السَّامِي مہذب مرتبت سائے</p>	
<p>أَطْيَبِ النَّامِي پاکیزہ تر نشوونما والے</p>	<p>الْكَوْثَرِ الْجَارِي رواں کونڈ</p>

<p>النُّورِ السَّارِي</p> <p>برشے میں سرایت کر نیوالے نور</p>	<p>لَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ</p> <p>سراسر معانی کا دور (زمانہ)</p>
<p>اللَّهُ جُورُ الْهَادِي</p> <p>رہنمائے خلق</p>	
<p>الْحَكِيمِ الْوَافِي</p> <p>صاحب وفا خنید</p>	
<p>الطَّيِّبِ الشَّافِي</p> <p>شافی طبیب</p>	<p>نِعْمَ الشَّافِي</p> <p>بہتر شفا دینے والے</p>
<p>نِعْمَ الْكَافِي</p> <p>بہترین کفایت کر نیوالے</p>	<p>نِعْمَ الْوَافِي</p> <p>بہت اچھے وعدہ دفا کر نیوالے</p>
<p>الْحَكِيمِ الصَّافِي</p> <p>خالص حسیب</p>	<p>سِرِّ التَّجَلِّي</p> <p>تجلی نما راز</p>
<p>الْمُسْتَتِرِ فِي الصُّورِ وَالْمُعَانِي</p> <p>تمام صورتوں اور مسانی میں پوشیدہ</p>	
<p>قُطْبِ آفَ لَكَ الْمُعَالِي</p> <p>بلندیوں والے آسمانوں کے قطب</p>	
<p>لِمُعْتَرِ التَّدَاوِي</p> <p>مقام قرب کا جلوہ</p>	<p>مِنْحَةِ مَوْلَى السَّمَوَاتِي</p> <p>آقاؤں کے آقا (اللہ) کا خاص عطیہ</p>

<p>صاحبِ بردِ یمانی</p> <p>بہتر بھائی</p>	<p>صاحبِ ردا الحضر فی</p> <p>حضری ردا والے</p>
<p>فَلَوْلَا تَجَلَّى الثَّانِي</p> <p>تجلی ثانی</p>	
<p>كَثِيرِ الْخَدَامِ مِنَ الْمَوْلَى</p> <p>زیادہ آزاد شدہ غلاموں والے</p>	
<p>ذِي الْقَلْبِ الْوَاعِي</p> <p>بیدار دل والے</p>	<p>أَكْرَمِ مَنْ صَلَّى</p> <p>ہر نماز پڑھنے والے سے مکرم</p>
<p>السَّيِّدِ الْمُرْتَمِي</p> <p>وہ سردار جو پائیزہ میں</p>	<p>السَّيِّدِ الْمَحَلِّي</p> <p>وہ سردار جو بلند مرتبت میں</p>
<p>مِرَاةٌ وَجْهَ الْمَسْمِي</p> <p>مسلمی کی ذات کا آئینہ</p>	<p>صَاحِبِ دَانِي فَتَدَلِّي</p> <p>دنی فتدلی کے قرب والے</p>
<p>صَاحِبِ النَّفْسِ الْمُرْتَمِي</p> <p>نفس تزکیہ والے</p>	
<p>الْمَوْسِيحِي</p> <p>جیا کرنے والے</p>	
<p>صَاحِبِ الْوَحْيِ</p> <p>وحی والے</p>	<p>حَامِلِ الْوَحْيِ</p> <p>وحی کو اٹھانے والے</p>

<p>خَرَجَ مَعَنَا بِالْوَحْيِ وحی الہی کا دودھ پینے والے</p>	<p>الدَّاعِي بِالْوَحْيِ وحی کے ساتھ بلائیوالے</p>
<p>الَّذِي يَسْتَشْفِي مِنْهُ كُلُّ رُوحِيٍّ وہ ذات جن سے ہر ایک روحانی شفاء طلب کرتا ہے</p>	
<p>الَّذِي يَسْتَشْفِي مِنْهُ كُلُّ قَلْبِيٍّ وہ ذات جن سے ہر اہل دل شفاء طلب کرتا ہے</p>	
<p>وَعَيْدِكُلِّ شَقِيٍّ ہر شقی کے لئے وعید ناریں</p>	<p>وَعُدِّكُلِّ نَقِيٍّ ہر پاکیزہ کے لئے وعدہ جنت ہیں</p>
<p>إِمَامِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے امام</p>	<p>سَعَادَةَ كُلِّ تَقِيٍّ ہر متقی کی سعادت ہیں</p>
<p>مُحْسِيٍّ زندہ کرنے والے</p>	<p>وَمُصَلِّتِكُلِّ وَلِيٍّ ہر ولی کا وسیلہ</p>
<p>الْمُزِيلِ لِكُلِّ دَانِيٍّ ہر گھٹیا عادت کے ذائل کرنے والے</p>	
<p>الْقَاتِلِ لِكُلِّ غَوِيٍّ ہر گمراہ کے لئے بھاد کرنوالے</p>	
<p>عِصَامِ نَجْبَةٍ وَقَصِيٍّ اشرف قصبی کا سبب عصمت و شفا</p>	<p>فَخْرِ بَنِي لُؤَيٍّ اولاد لوی کا فخر</p>

الْفَيْضِ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ
 بے پناہ بر فیض کی بارش کرنے والے

الَّذِي أَعْلَى نُورِ مَعْرِيٍّ
 عظیم و جلیل نور کی طرف بلا کرنے والے

الَّذِي حَقِيقَتُهُ مَخْفِيٌّ
 وہ ذات جن کی حقیقت پوشیدہ ہے

الَّذِي جُنْسُهُ أَبَوِيٌّ
 جن کی جنس بلند مرتبہ ہے

مُحِبِّ عَلِيٍّ
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے

مُخْلِيفِ عَلِيٍّ
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے والے

مُضْرَحِيٍّ
 قبیلہ مضر کے سردار

الَّذِي عِلْمُهُ عَلَوِيٌّ
 جن کا علم آسمانی ہے

الَّذِي كَلَامُهُ نَبَوِيٌّ
 جن کا کلام نبوی ہے

الَّذِي جَوْلَاهُ صَفَوِيٌّ
 جن کی حقیقت منتخب ہے

الَّذِي تَعَيْنُهُ الْكُلُّ الْعَالَمِيُّ
 وہ جن کا تعین کُلی بھی ہے اور علمی بھی ہے

الَّذِي صُورَتُهُ الْأَمْكَانِيُّ الْكُونِيُّ
 وہ جن کی امکانی صورت کوئی ہے

الْمُسْتَوِيٍّ
 پناہ گاہ

نِعْوِ الْمُسْتَوِيٍّ
 بہترین پناہ گاہ

<p>مُنْبَعُ الْوَرَى عقل نورانی کا منبع</p>	<p>نِعْمَ الْمَوْلَى بہترین دوست</p>
<p>أَبِي الْيَسْمَى پاپ یتیموں کے</p>	
<p>الْمُقْتَدَى پیش امام</p>	
<p>الْمُحَصِّطَى پسند فرمائے گئے</p>	<p>الْأَسْرَقَى ترقی والے</p>
<p>الْمُرْتَضَى پسند فرمائے گئے</p>	<p>الْمُرْتَجَى جن پر پوری امید ہو</p>
<p>الْمُرْتَقَى بلند مرتبت</p>	<p>الْمُجْتَبَى پسند فرمائے گئے</p>
<p>وَاضِحُ الْهُدَى واضح ہدایت والے</p>	
<p>الْمُنْتَقَى نکھارے ہوئے</p>	
<p>مُبِيدُ الْعِدَى دشمنوں کو ہلاک کرنے والے</p>	<p>ذِي التَّمَقَّى تقویٰ والے</p>

شَدِيدِ الْقُوَى
شہید قوتوں والے

السَّيِّدَتِي
پیش قدمی کرنے والے

الَّذِي أُعْطِيَ شِدَّةَ مُوسَى
جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت عطا کی گئی

الَّذِي أُعْطِيَ زُهْدَ عِيسَى
جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کیا گیا

نُورِ الْهُدَى
ہدایت کا نور

سِنْدِ التَّقَى
پاکیزہ لوگوں کی سند

كَلْفِ الْوَرَى
مخلوق کی پناہ گاہ

صَدْرِ الْعَجَلَى
بلند مراتب میں مدرسین

شَمْسِ الصُّحَى
چاشت کے آفتاب

بَدْرِ الدُّجَى
سیاہ رات میں چودھویں کے چاند

مُسْلَكِ الْهُدَى
ہدایت کا راہ سلوک

سَيِّدِ التَّقَى
اہل تقویٰ کے سردار

رُوحِ الْبَهَى
حسن و خوبی کی روح

أَفْ ضَلِّ مَقْتَلَى
سب مقتولوں سے افضل

عَبْدُ الْمُبَارَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 باری کے بندے

عَبْدُ الْمُسْتَعَالَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 متعالی کے بندے

الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْبَارَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 باری کے ہاں محبوب

الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْبَاقَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 باقی کے ہاں محبوب

الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْوَالَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 والی کے ہاں محبوب

الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْمُتَعَالَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 متعالی کے ہاں محبوب

الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْمُحْيَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 محی کے ہاں محبوب

الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْمُحْصَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 محصی کے ہاں محبوب

عَبْدُ الْمُحْصَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 محصی کے بندے

عَبْدُ الْمُبْدَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 مبدی کے بندے

الْمَسْأَلِ رَبِّ لِمَبْلَى أُمَّتِي ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 جنھوں نے کہا اے میرے رب میری امت میرے حوالے کرے

عَبْدِ الْكَادَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 کادی کے بندے

عَبْدِ الْبَاقَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 باقی کے بندے

عَبْدِ الْوَالَى ^{اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ}
 والی کے بندے

<p>سَيِّدُ الْوَرَى الورای (مخلوق) کے سردار</p>	<p>وَقَطْبُ النَّهْيِ عقول کے اذبان کے مرکز</p>
<p>السَّيِّدِ الْمَجْتَبَى وہ سردار جو مجتبیٰ ہیں</p>	
<p>السَّيِّدِ الْمُرْتَضَى وہ سردار جو مرتضیٰ ہیں</p>	
<p>ذِي النَّدَى سخاوت والے</p>	<p>السَّيِّدِ الْمَصْطَفَى پئے ہوئے سردار</p>
<p>عَائِدِ الْمَرْضَى بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والے</p>	<p>الْمُرْسَلِ بِالْهُدَى ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے</p>
<p>الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْهَادِي ہادی کے ہاں محبوب</p>	<p>الْمُحِبُّوبِ عِنْدَ الْعَنِي مغنی کے ہاں محبوب</p>
<p>عَبْدِ الْمُعْطَى بندے کے سطر کے بندے</p>	<p>عَبْدِ الْمُجِي مچی کے بندے</p>
<p>زِعْرُ الْمُعْطَى بہترین عطا کرنے والے</p>	
<p>طِرَازِ الْأَنْبِيَاءِ الْبَاهِي انبیاء کا قابل فخر نقش و نگار</p>	<p>زِعْرُ الْمُنْجِي بہترین نجات دینے والے</p>

سِرَاجِ الْأَنْبِيَاءِ النَّارِ الْهَمِّي انبیاء کے چمکتے کے چراغ
 كَوَاعِ الْأَنْبِيَاءِ السَّكَرِفَا انبیاء کی دواہ شافی

رَأَى رُوحَ الشَّرَفِ الْعَالِي شرفِ اعلیٰ کی روح کی آراء
 رَبِّ الْعَالَمِينَ

حَبِطِي حَقٌّ وَبَاطِلٌ فِي فَرْقٍ كَمَا كَيْدُ الْغِي جن کے سبب
 عَبْدِ الْمَعْنَى مغنی کے بندے

حَظَّ الْأَنْبِيَاءِ الْوَأْفِي انبیاء کا خطِ کامل
 ذَالِ ذُرُورِي الْمَعَالِي مہندیوں کے ذروں کی ذال

الْمُحَبُّوبِ عِنْدَ الْعَطِي مسطی کے ہاں محبوب
 الْمَحَبُّوبِ عِنْدَ الْمُبْدِي مبدی کے ہاں محبوب

اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي وَأَعِزِّي مَرْحَلِي وَعَلِي رَشْدِي وَأَمْرِي اے اللہ! تو مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھ اور مجھے ہر کام میں نیکو کاری کا عزم (پختہ ارادہ) عطا فرما۔
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَخَطْتُ وَمَا
 عَمَدْتُ وَمَا جَهِلْتُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ رَشْدِي اے اللہ! میں نے جو چھپا کر کیا اور جو علانیہ کیا۔ اور جو بلا ارادہ کیا اور جو قصداً کیا اور جو نادانی سے کیا سب معاف کرے۔ الہی! تو میرے دل میں نیکو کاری ڈال دے اور
 وَأَعِزِّي مِنْ شَرِّ نَفْسِي میرے نفس کے شر سے مجھ کو پناہ دے۔
 آمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

سرور کو میں نے فرمایا اے علیؑ اس درج اور چاند کی طرف مومت کر
بلکہ پیٹھ کر کیونکہ ان کی طرف مومہ کرنا بیماری اور پیٹھ کرنا مومہ ہے اے علیؑ
دھوپ میں زیادہ نہ پیٹھا کر یہ سختی اس مرض کا بھارتی ہے اور کپڑوں کو بوسیدہ
کرتی ہے اور رنگ مستحیر کرتی ہے

کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پیمانہ

تم کہو دامن میں آتم پہ گر وروان درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَمِيْدُ يَا كِيْمِي يَا قِيَوْمُ يَا بَدِيْعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِيْنَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوْقِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِيْنَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوْرَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِفِيْنَ وَالْأَلْمِ وَكَأَنَّهَا كَثِيْرًا كَثِيْرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيْمًا وَأَعْلَى الْأَعْلَى وَالْمَكْرَمِ الْمَكْرَمِ
وَعَدَاكَ يَوْمَ النَّبِيَّاتِ

<p>النَّبِيِّ الْمُقَدَّاسِ پیشوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>عَظِيمِ الرَّقِيِّ بڑی ترقی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>سِرَاجِ الدُّجَى</p>	
<p>وَالْمُبْعُوثِ فِي أَمْرِ الْقُرَى مکہ کی بستی میں مبعوث ہونے والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْوَرَى وہ جن کا ذکر تمام مخلوق میں یاد کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>صَاحِبِ الْخَطِّ الْأَوْفَى اپنا پورا پورا حصہ اللہ سے لینے والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>سِرِّ الْأَسْمَاءِ اسماءِ حسنی کے راز صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>الَّذِي وَجَّهَهُ شَمْسُ الْهَدَى وہ ذات جن کا چہرہ ہدایت کا سورج ہے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الصَّابِرِ عَلَى الْبَلَوَى آزمائشوں میں مبر کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>صَاحِبِ الضُّحَى ضحیٰ والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>صَاحِبِ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى سدرۃ المنتہی والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>صَاحِبِ الضُّحَى عید الضحیٰ والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>مُجَابِّئِ الْيَتَامَى یتیموں کی پناہ گاہ صلی اللہ علیہ وسلم</p>

<p>كَاشِفِ الدُّجَى اندھیروں کو روشن کرنے والے</p>	<p>المُخَاطَبِ بِسَبْحَانَ جن کو (سبحان الٰہی اسری) کے ساتھ مخاطب کیا گیا</p>	<p>بِالْمَخْصُوصِ عید الضحیٰ کے ساتھ مختص</p>
<p>طَيِّبِ الثَّرَى پاکیزہ خمیر والے</p>	<p>الذِّي اسْرَى جن کو (سبحان الٰہی اسری) کے ساتھ مخاطب کیا گیا</p>	<p>ظَاهِرِ النَّدَى ظاہر سخاوت والے</p>
<p>مُنْهَكِ النَّدَى بھلائی کی گھاٹ</p>	<p>الْمُخْتَصِصِ مختص</p>	<p>غِيَاثِ الْوَرَى مخلوق کے فریادرس</p>
<p>كَنْزِ التَّقَى تقویٰ کا خزانہ</p>	<p>بِالسِّرِّ أَوْ أَدْنَى آودانی گے راز کے ساتھ مخصوص</p>	<p>هَلَالِ الْهَدَى ہدایت کے ماہ نور</p>
<p>قَرِيبِ النَّدَى قریب ترخیر اور بھلائی والے</p>	<p>سَّمَاءِ الْعَجَلَى بلندی و رفعت کے آسمان</p>	<p>غَزَالِ النَّقَى صاف و ستھرے ہرن کی مانند چاک چوبند</p>
<p>بَحْرِ النَّدَى سخاوت کے سمندر</p>	<p>عَلَوِ الْهَدَى ہدایت کا علم</p>	<p>عَلَوِ الْهَدَى ہدایت کا علم</p>

<p>رَأْسِ الْعَمَلِ عالی مرتبت لوگوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الَّذِي عِنْدَهُ مَجَلَى السَّرِبِ الْعَمَلِ جن کی آنکھ رب الاعلیٰ کی تسبیحی گاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الْجَنَسِ الْأَعْلَى اعلیٰ جنس صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>الْمَصْفَى الْمُصْطَفَى جو خالص ہیں بذاتِ خود چنے ہوئے مخلوق میں سے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الْحَبِيبِ الْجَبَبِي چنے ہوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الَّذِي عِنْدَهُ مَجَلَى السَّرِبِ الْعَمَلِ جن کی آنکھ رب الاعلیٰ کی تسبیحی گاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>الَّذِي اسْمُهُ شِفَاءُ الْمَرْضَى جن کا نام مریضوں کے لئے شفا ہے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَكْوَى جو اپنی خواہش سے نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الَّذِي عَنْ رَبِّهِ رَوَى جنہوں نے اپنے رب سے روایت فرمائی (حدیثِ قدسی) صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>عُرْوَةَ الْوَشْقَى الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْمَرْضَى اللہ کی طرف سے مضبوط احصار صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الَّذِي مَأْضَلَّ وَمَا غَوَى جو بھٹکے اور نہ اُدھر اُدھر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الَّذِي مَأْضَلَّ وَمَا غَوَى جو بھٹکے اور نہ اُدھر اُدھر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>صَاحِبِ الْمَوْرِدِ الْأَصْفَى صاف چشمے کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الْقَابِضِ عَلَى مَفَاتِيحِ الْوَرَى تمام چابیوں پر قبضہ فرمانے والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>صَاحِبِ الْقَلْبِ الَّذِي سَبَّحَ سب سے زیادہ الْأَتَقَى متقی دل والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>فَصِيلِ النَّجْوَى عمرہ سرگوشی کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>طَيْبِ الْمَأْوَى پاک ٹھکانے والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>طَيْبِ الْمَأْوَى پاک ٹھکانے والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>

مُؤَافِحِ الْخَيْرِ الْأَمَلِي

عظیم بھلائیوں والے
صلی اللہ علیہ وسلم

الَّذِي لِجَمِيعِ

الَّذِي لِجَمِيعِ

الْمَلِكِ كَارِهِ حَوِي

جس نے تمام اچھے اخلاق کو سمیٹ لیا

مِرَاةٌ وَجْهِ الْمُسْتَعِي

ذاتِ خداوندی کا آئینہ
صلی اللہ علیہ وسلم

بَابِ الْهُدَى

ہدایت کا دروازہ

صَاحِبِ كَلِمَةِ

التَّقْوَى بِرَبِّكَ كَارِي كِبَاتِ

مُنِيحِ الدَّرَى

نسل کی پناہ گاہ
صلی اللہ علیہ وسلم

شَمْسِ كَرَاتِ التَّنَزَلِ

المُسَكِّهِ

مخصوص جنگوں کے حملوں کے آفتاب

أَشْرَفِ مَنْ سَعَى

سعی کرنے والوں سے اشرف

شِفَاءِ الْجَوَى

سوزشِ عشق کا علاج

عَلَمٍ مِّنْ هُدَى

ہادیوں کے لئے علم
صلی اللہ علیہ وسلم

إِمَامِ الْمَسْبُوعِ

بزرگی والوں کے امام

عَلَمٍ مِّنْ اهْتَدَى

ہدایت یافتہ کیلئے علم
صلی اللہ علیہ وسلم

إِمَامِ أَهْلِ الْهُدَى

اہلِ ہدای کے امام

فَاتِحِ سَبِيلِ

ہدایت کی راہوں کا آغاز کرنے والے

<p>الْأَعْلَى سب بلند صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>أَحْسَنُ مَنْ دُونِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>الْمُصَفَّى پسند کیے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>الْمُهْدَى سپا پادشاهیت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>صَجِكَ فِي الْوَرَى مخلوق میں سے حسین ترین ان تمام سے جو نبی یا تیسم کیا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>الْأَزَلَى بہت پاکیزہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>الْمَوْلَى آقَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>خَيْرٌ مِنْ وَطِئِ التُّرَى بہتر میں زمین پر قدم رکھنے والوں سے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>الْمُهْدَى راہنما صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>بَشْرَى عَيْسَى حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>الْمَأْوَى جائے پناہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>بَشْرَى عَيْسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>غَايَةَ الْفُصْوَى بلندی مراتب کی آخری حد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>وَحْدَةَ الْكُبْرَى وحدتِ کبریٰ (کے منظرہ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>وَأَسْطَةَ مُوسَى حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>الْمُهْدَى الْمُهْدَى اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا سرسبز و خوشحال دنیا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>الْجَزَاءُ الْأَوْفَى جزائے کامل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>الْمُهْدَى الْمُهْدَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>

<p>نَامُوسِ تَوْرَتِهِ مُوسَى تورہ موسیٰ علیہ السلام کے ناموس</p>	<p>أُولَىٰ بِالْبَشَرِ سب سے زیادہ حقدار ہیں بشارت کے</p>
<p>سَيِّدِ الْمَسَلَا الْأَعْلَىٰ طاہر اعلیٰ کے سردار</p>	<p>قَامُوسِ الْجِبِلِّ عَيْسَىٰ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے سندر</p>
<p>الْمُخْتَصِ بِسِرِّ أَوْلَادِنِي اودان کے راز کے ساتھ مخفی</p>	<p>صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرَىٰ بڑی شفاعت والے</p>
<p>ذِي الشَّرَفِ الْأَعْلَىٰ ع بلند ترین عزت والے</p>	<p>بِالْوَحْدَةِ الْكُبْرَىٰ وحدت کبریٰ کے ساتھ مخصوص</p>
<p>الْمُتَّحِقِ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملنے والے</p>	<p>ذِي الْمَقَامِ الْأَعْلَىٰ مقام عظیم والے</p>
<p>صَاحِبِ الْوَلَايَةِ الصَّغْرَىٰ ولایت صغریٰ کے مالک</p>	<p>الْمُخْتَصِ بِالنِّيَابَةِ الْعَظْمَىٰ نیابت عظمیٰ کے ساتھ خاص کئے گئے</p>
<p>صَاحِبِ الْوَلَايَةِ الْكُبْرَىٰ ولایت کبریٰ کے مالک</p>	<p>الْمُخْتَصِ بِالْمَقَامِ الْعَظِيمِ مقام عظیم والے</p>

<p>صاحب الذریعۃ الحداری منفرت کے ذریعہ بہانہ کے مالک</p>	<p>صاحب الخِلافۃ العظمیٰ</p>	<p>شمال الیٹامی یتیموں کے فریاد رس</p>
<p>روح الوسیلۃ العظمیٰ وسیلہ عظمیٰ کی روح</p>	<p>صاحب الصفات الحسنی حسین صفات والے</p>	<p>مركز محیط الفلک الاسمی مركز میں بلند مرتبت فلک محیط اور فلک الافلاک کا</p>
<p>المختص بسیر النون والقلو الاعلیٰ راز نون اور تسم اعلیٰ کے ساتھ مختص</p>	<p>نجم فضل اللہ العالی الاحلی</p>	<p>جالیس سریر قاب قوسین اودانی قاب قوسین اودانی کے تخت قررت پر بیٹھے والے</p>
<p>اولی الاستقامۃ فی المستور الارہی صاحب استقامت ہیں پوشیدہ و مزیں جہان میں</p>	<p>مکمل ہل النور الاسنی کامل نور والوں کی تکمیل کرنوالے</p>	<p>المتردی برداء و لسوف یعطیک ربک فترضی جو اوڑھے ہوئے ہیں یہ چادر البتہ ضرور عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب پس تم راضی ہو جاؤ گے</p>
<p>صاحب قاب قوسین اودانی مقام "قاب قوسین اودانی" والے</p>	<p>حجاب جباب صون الاحلی محفوظ ترین حفظ و نگہبان کے حجاب مانع</p>	<p>الفیض علی الملاء الاعلیٰ ملاہ اعلیٰ پر فیض فرماتے والے</p>

<p>عُرْوَةُ الْاَيَاهِي بیواؤں کے مضبوط سہارا صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>السَّبَبِ الْاَقْوَى بلاؤں کو دور کرنے کے لیے سب سے قوی ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الْمُنَادَى بلانے والے صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>رَبِيعِ الْيَتَامَى یتیموں کی بہار صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>لِرَفْعِ الْبَلَاؤَى بلوں کو دور کرنے کے لیے سب سے قوی ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>نَبِيِّ الْقُرَشِيِّ قریشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>نَبِيِّ الْحِجَازِيِّ حجازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الْوَسِيلَةَ الْعَظْمَى قبولیت التجاء کا وسیلہ عظمی صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>اِمَامِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَى دُنیا و آخرت کے امام صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>نَبِيِّ الْمَدِينِيِّ مدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>لِاجَابَةِ الشَّاكُوَى قبولیت التجاء کا وسیلہ عظمی صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>نَبِيِّ الْعَرَبِيِّ عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>نَبِيِّ الْاَبْطَحِيِّ ابطحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>كَنْتَبِ تَجَلِي بلند شان تمنا و آرزو کی تجلی کیلئے بلند ٹیلہ صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>نَبِيِّ الْمَلِكِيِّ ملکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم</p>
<p>الْحَبِيبِ وَالْفُرْدِ الْاَدَاتِي ذات کا یکتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الْمَنْيَّةِ الْاَسْهَى بلند شان تمنا و آرزو کی تجلی کیلئے بلند ٹیلہ صلی اللہ علیہ وسلم</p>	<p>الْحَبِيبِ وَالْفُرْدِ الْاَدَاتِي ذات کا یکتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم</p>

<p>بَدْرُ الْمَلِ التَّقْوَى</p> <p>اہل تقوی کے ماہ تمام</p>	<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p>	<p>الْكَرِيمِ مَنْ هَدَى</p> <p>ہدایت والوں سے زیادہ محرم</p>
<p>نُورِ النَّكَدَى</p> <p>سخاوت کے نور</p>	<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p>	<p>رَأْسِ الْعُلَى</p> <p>عالی مرتبت لوگوں کے رئیس</p>
<p>نَبِيِّ الْأَوْفَى</p> <p>وعدہ پورا کرنے والے نبی</p>	<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p>	<p>بَدْرُ التَّقَى</p> <p>تقوی کے ماہ تمام</p>
<p>نَبِيِّ الْأَبْهَى</p> <p>بارونق نبی</p>	<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p>	<p>صَاحِبِ الْأَحْلَى</p> <p>شیریں لعاب والے</p>
<p>أَفْضَلِ مَنْ سَعَى</p> <p>سعی کرنے والوں سے افضل</p>	<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p>	<p>أَفْضَلِ مَنْ سَعَى</p> <p>ہدایت والوں سے افضل</p>
<p>عَبْدِ الْحَكِيِّ</p> <p>حی کے بندے</p>	<p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p> <p>اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ</p>	<p>رَسُولِ الْمُجْتَبَى</p> <p>مجھے ہوئے رسول</p>

<p>عَبْدُ الْغَنِيِّ</p> <p>غنی کے بندے</p>	<p>عَبْدُ الْعَلِيِّ</p> <p>علی (اللہ) کے بندے</p>
<p>عِنْدَ الْحَبِيبِ</p> <p>جی (اللہ) کے ہاں محبوب</p>	<p>عَبْدُ الْوَلِيِّ</p> <p>ول کے بندے</p>
<p>عِنْدَ الْغَنِيِّ</p> <p>غنی کے ہاں محبوب</p>	<p>عِنْدَ الْعَلِيِّ</p> <p>علی کے ہاں محبوب</p>
<p>نَبِيِّ الْوَفِيِّ</p> <p>الشد کے وفادار نبی</p>	<p>عِنْدَ الْقَوِيِّ</p> <p>قوی کے ہاں محبوب</p>
<p>نَبِيِّ النَّقِيِّ</p> <p>پاک نبی</p>	<p>عِنْدَ الْوَلِيِّ</p> <p>ول کے ہاں محبوب</p>
<p>نَبِيِّ النَّقِيِّ</p> <p>پاکیزہ نبی</p>	<p>نَبِيِّ الزَّرِيِّ</p> <p>زیرک نبی</p>

<p>المُكْتَفِي</p> <p>بے نیاز</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>المُكْتَفِي</p> <p>قناعت کر نوالے</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>صَاحِبِ الْأَبْطَحِي</p> <p>بطحا کے رہنے والے</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>بِالْخِطَابِ الْأَزَلِيِّ</p> <p>خطابِ اِزلی کے سبب سراپا امواج</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>الْمَجْوَهَرِ الشَّرِيفِ</p> <p>ابھی شرافت قاب جوہر</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>صَاحِبِ الدِّينِ الْكَنْفِيِّ</p> <p>دینِ حنفی والے</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>رَأْسِ التُّسْقِي</p> <p>عالی مرتبت لوگوں کے سردار</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>صَاحِبِ الْحَسْبِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ</p> <p>ابراہیمی حسب والے</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>سِرِّ عُلُومِ الدُّنْيَا</p> <p>علومِ دُنیہ کے راز</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>صَاحِبِ الدِّينِ الْكَنْفِيِّ</p> <p>دینِ حنفی والے</p> <p>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَارِ السُّوْعِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ
 اے اللہ! بیشک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری بڑے بڑوسی سے ہمیشہ کے دارِ قیام میں
 فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ وَمِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَلْسُ
 کیونکہ جنگل و بیابان کے بڑوسی (کا بڑوس جلدی) بدل جاتا ہے۔ اور بھوک سے (پناہ طلب کرتا ہوں)
 الضَّكَّ جَمِيعٍ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَلْسُ الْبَطَانَةَ
 کیونکہ وہ بُرا ساتھی ہے اور خیانت سے کیونکہ وہ بُری پوشیدہ خصلت ہے۔
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا
 اے اللہ! بیشک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری لیے علم سے جو نفع نہ دے۔ اور لیے دل سے

يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ مِنْ مَوْلَاهِ الْأَرْبَعَةِ

جو خشوع نہ کرے۔ اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے اور ایسے جو سیر نہ ہو اور ان چاروں سے

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُرْجَعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نَفْتَنَ عَنَّا

اے اللہ بے شک ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم لوٹیں ایڑیوں کے بل یا ہم فتنہ میں ڈالے جائیں اپنے

دِينِنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ

دین سے۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں برے دن سے اور بُری رات سے

وَمِنْ وَقْتِ السُّوءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ

برے وقت۔ بُری ساعت اور برے ساتھی سے

وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

اور برے پڑوسی سے مستقل قیام گاہ میں۔ اے اللہ بیشک میں پناہ طلب کرتا

مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ

ہوں تیری مخالفت شرع سے اور منافقت و بد اخلاقی سے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری اس

مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّكَهٖ

سختی اور شدت سے جو ضرر رساں ہے اور فتنہ سے جو گمراہ کن ہے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر چیز کے

عَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَهُ أَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ

شر سے جلدی پیش آنے والی ہو یا دیر سے جو ان میں سے مجھے معلوم ہے اور جو معلوم نہیں ہے اور میں پناہ

مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ

طلب کرتا ہوں تیری آتش دوزخ سے اور اس سے جو قریب کرے اس کے قول ہو یا عمل۔ اور میں تیری

مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِجَاءَةِ الشَّرِّ

پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کے شرور سے جن کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اچانک شر سے دوچار

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

ہونے سے۔

سرور کوئٹہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انحصار سے بچ کیونکہ شیطان کو غصہ کی
حالت میں انسان پر سب سے زیادہ قابض ہوتا ہے۔ اے نبی اللہ! بے ہودہ مسخری
کرنے سے بچ کیونکہ پیادگی و جاہت اور دل کی فرائض کو ضائع کرتی ہے

ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی
کوئی کمی سرور تم پہ کروں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبُ يَا قَوْمَ يَوْمِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا كَلْبًا كَلْبًا وَالْأَكْرَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِقَطَرَاتِ دُمُوعِ
الْمَعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِحَالِ الْإِحْوَالِ الْمَحْضُورَةِ عَلَى
قُلُوبِ الْحَازِقِينَ وَاللَّهُمَّ وَسَّالِمًا كَثِيرًا كَثِيرًا
شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكُرْهُ الْكُرْبِ
عِنْدَ كِبَرِ النَّبِيَّاتِ

<p>الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ النَّبِيُّ</p> <p>جن کے بعد کوئی نبی نہیں</p>	<p>صَاحِبِ الْمُعْرَاجِ الْحَسَدِيِّ الْيَقْظِيِّ</p> <p>بیداری میں جہان معراج والے</p>	<p>النَّاهِي عَنِ الْغَيِّ</p> <p>بھٹکنے سے منع فرمانے والے</p>	<p>مَقْرُوْحِي الْحَلِيِّ</p> <p>وحی الہی کی قرار گاہ</p>
<p>الشَّافِي لِلْأَمْرَاضِ الْبَاطِنِي</p> <p>باطنی امراض کو دور کرنے والا</p>	<p>الشَّافِي لِلْأَمْرَاضِ الظَّاهِرِي</p> <p>ظاہری بیماریوں کو شفا دینے والا</p>	<p>قَاطِعِ شُبُهَاتِ التَّسْوِيَةِ الشَّيْطَانِي</p> <p>شیطان سرکشی کے شبہات کو ختم کرنے والا</p>	<p>سَاقِي الشَّرَابِ الْإِلَهِي</p> <p>شراب معرفت الہی کے ساقی</p>
<p>صَاحِبِ الصِّرَاطِ السُّوِي</p> <p>ہموار راستے والے</p>	<p>مِفْتَاحِ الْغَيْبِ الْأَزَلِيِّ</p> <p>غیب ازلی کی کنجی</p>	<p>خِتَامِ السِّرِّ الْكَلْبِيِّ</p> <p>بیرنگی و عالی کی نہر</p>	<p>صَاحِبِ الْبَيَانِ الْمَجَلِيِّ</p> <p>صاحب بیان جلی</p>

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ مُخَصَّوَصِ بِالْمُخْرَجِ الذَّاتِي جسمانی مخرج کے ساتھ مخصوص</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ مَظْهَرِ الْإِلَهِيَّةِ الْغَيْبِيَّةِ مظہرِ الہوتِ غیبی کا مظہر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سِرِّ النَّاسُوتِ الْحَيِّنِي راز مخفی میں عالم اجسام و محسوس کا</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ الْكَمَالِ غَيْرِ الْمَتَنَا غیر محدود کمال مجسم</p>
--	---	---	---

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ صَاحِبِ الطَّهَارَةِ الْبَدَنِي بدنی طہارت والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ صَلِّحِ التَّعِينِ الضَّمَدَانِي رستہ تئیں خداوندی</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ صَاحِبِ الطَّهَارَةِ الرُّوحَانِي روحانی طہارت و پاکیزگی والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ الرَّبَّانِي حق ربانی اور خاص کے مالک</p>
--	---	--	---

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ قِبْلَةَ التَّجَلِّيِ الذَّاتِي تجلی ذاتی کا قبلہ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ مُظْهَرِ اسْرَارِ الْصِّفَاتِي اسرارِ صفاتِ الہیہ کا مظہر</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ ذِي الْقُدْرِ الْحَكِيمِي عالی قدر والے</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ الْمُؤَيَّدِ بِالْمُدَدِ الْإِلَهِيِّ مددِ الہی سے تائید و تقویت پانوالے</p>
--	--	--	---

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>يَبُوعِ عَيْنِ مَادَّةِ الْوُجُودِ الْإِلَهِيِّ</p> <p>وجودِ الہی کے مادے کا چشمہ رواں</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>السِّرِّ السُّبُوحِيِّ بِالْمَعْنَى الرُّوحِيِّ</p> <p>رازِ الہی بسببِ فی حقیقت کے</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>صَاحِبِ النَّسَبِ الْإِسْمِ حَبِيبِي</p> <p>اسماعیلی نسب والے</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>مُطَّلَعِ النُّوَارِ الْإِلَهِيِّ</p> <p>انوارِ الہیہ کی جائے طلوع</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
--	--	---	--

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْبَاطِنِ فِي السَّرِّيَّاتِ الذَّاتِي مَنْفِيهِ</p> <p>میں پوشیدہ ذاتی اسرار</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>مُظْهِرِ سِرِّ الْجُودِ الْجُزِيِّ وَالْكَلْبِيِّ</p> <p>جزئی و کلی جود و سخا کے مظہر راز</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>قُطْبِ الْأَقْطَابِ الْفَرْدَانِيِّ السَّرْمُدِيِّ</p> <p>یگانے روزگار قطب الاقطاب ہمیشہ ہمیشہ</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>كِتَابِ خِصْرَانِ الدِّيْوَانِ الْإِلَهِيِّ</p> <p>دیوانِ الہی کی حضورِ یوں کتاب</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
--	---	--	--

<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>الْفَانِي فِي مِحْبَةِ الْغَنِيِّ</p> <p>اللہ غنی کی محبت میں فانی</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>أَمِينِ خَزَائِنِ الْعَطَاءِ الْإِلَهِيِّ</p> <p>عطاءِ الہی کے خزانوں کے امین</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>بَابِ فَيْضِ السَّرْبِ السَّرِّ الْإِلَهِيِّ</p> <p>اللہ کے درِ فیض کے جو ان پر فخر کر نیوالا ہے</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p> <p>نُورِ الْأَكْوَانِ الْمُتَكَوِّنَةِ الْأَدْمِيَّةِ</p> <p>آدمیت کے اشخاص مخلوق کے نور</p> <p>صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ</p>
--	---	--	---

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ
أَكْرَمِ النَّاسِ حَيًّا

معزز قبیلے والے
ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ
أَنْفَذِ الْخَلْقُ نَهْيًا

سب مخلوق سے زیادہ احکام
نہی کو نافذ کرنے والے
ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ
مُخْزِنِ الْعُلُومِ
الْوَحْدَةِ
الرَّبَّانِي

وحدتِ ربانیہ کے علوم کا خزانہ
ﷺ

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود و سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے رسول

يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْتَ مَوْلَانَا وَهَادِينَا خُذْ بِيَدِنَا مِنْ
اے اللہ کے نبی آپ ہمارے آقا اور رہنما ہیں آپ ﷺ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ

الضَّلَالَةَ تَهْدِنَا وَتُوصِلُنَا إِلَى رَبِّنَا بِحَقِّ مَا وَدَّعَكَ
کر گمراہی سے (نکالیں) ہدایت دیں اور ہم کو پہنچائیں ہمارے رب تک بوسیلہ

رَبِّكَ وَمَا قَلِي بِحَقِّ فَكَانَ دَلِي فَتَدَلِّي وَبِحَقِّ قَابِ
(اس فرمان) کہ اس نے مجھ کو نہ چھوڑا اور نہ دشمن ہوا۔ بوسیلہ (اس فرمان) کہ (پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب تر

قَوْسَيْنِ (أَوْ أَدَلِّي) أَوْ أَدَلِّي يَا رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى
آیا تو اس جلوے اور اس کے محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم رہا اے رب محمد مصطفیٰ کے طفیل کہ

عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لَمْ يَجِدْ دَكْلًا
ان پر بہترین درود و سلام ہو ہر ذرہ کی گنتی

ذَرَّةٍ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ الَّذِي وَمَا تَرَاعِ الْبَصَرُ وَمَا
وہ جس کی آنکھ نہ ٹیڑھی ہوتی اور نہ حد سے لاکھ لاکھ بار

طَغَى الَّذِي مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَعْطَى لَذَّةً
سے بڑھی وہ کہ نہ جھٹلایا اس دل نے جو کچھ دیکھا عطا کر مجھ کو لذت

النَّظْرُ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقُ إِلَى لِقَائِكَ فِي كُلِّ مُحَاةٍ

اپنی ذات کے دیدار کی اور عطا کر اپنی ملاقات کا شوق جو ہر لمحہ بڑھتا جائے

يَزِيدُ وَيَصَاعِفُ بِمَحْضٍ فَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ

اور بڑھتا ہو جائے محض اپنے فضل اور احسان سے جو

مَا عَلَى الْمُصْطَفَى يَا رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ الْفَقِيرَ

مصطفیٰ پر ہے۔ اے رب! بخش دے اور رحم فرما تو فقیر ڈرنے

الْوَجِلَ الضَّعِيفَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ

والے اور کمزور پر کہ جس کا تمہارے سوا کوئی نہیں

بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى إِلَهِي فَكَيْ الْوَلَايَةِ

بطفیل محمد ﷺ اے اللہ پس کون سی

وَالْعِلْمِ وَالْحِرْفَانِ إِذَا سَأَلَكَ سَائِلٌ طَالِبٌ بِاسْمِ

ولایت اور علم اور عرفان ہے کہ جب کوئی سائل اور طلب گار تجھ سے

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْتِ بِغَيْرِ

بطفیل محمد ﷺ سوال کرے ایسا درود و سلام جیسا کہ لائق ہے اس کی

لِكَمَالِهِ مِنْكَ وَجَمِيعِ عِبَادِكَ مَا وَلَّيْتَهُ وَأَنْتَ قُلْتَ

شان کے تجھ سے اور جیسا کہ لائق ہے تیرے تمام بندوں سے اور نہ بخشا ہو تو نے اس کو حالانکہ

فِي شَأْنِهِ يَا سِرِّي وَيَا خَزَائِنَ مَعْرِفَتِي فَاسْأَلْكَ

تو نے اس کی شان میں کہا ہے اے میرے بھید کی جان اور اے میری معرفت کے خزانے پس میں

يَا اللَّهُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَبِدَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِكَمَالِ

تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ نام محمد ﷺ کے طفیل اس پر اللہ کا درود و سلام ہو اور اس کی ذات اور تمام

فَقْرَهُ فَأَعْطَانِي يَا اللَّهُ مَا أَسْأَلُكَ مِنَ الْوَلَايَةِ
 صفات کے اطفیل اور اس کے کمال فقر کے وسیلے سے پس عطا کر مجھ کو اے اللہ جو میں تجھ سے مانگتا ہوں

وَالْعِلْمُ وَالْعِرْفَانُ وَأَقْضِ حَاجَاتِي كُلَّهَا وَلَا تَكِلْنِي
 ولایت اور علم اور عرفان سے اور پورا کر میری سب حاجتوں کو اور نہ حوالہ کر مجھ کو میرے

إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْلَانِي
 نفس کے آنکھ جھپکنے کے برابر اور نہ اس سے کم اور نگہبانی کر تو میری نگہبانی بچے

كَلَائَةِ الْوَلِيدِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَسْأَلُكَ إِيمَانًا
 کی سی بطفیل محمد ﷺ اور مانگتا ہوں میں تجھ سے دائمی ایمان

وَيَقِينًا صَادِقًا وَاحْسَانًا مُسْتَمِرًّا وَالْجَوَارِحَ مَحْفُوظَةً
 اور سچا یقین اور جاری رہنے والا احسان اور محفوظ اعضاء

وَالسَّلُوكَ إِلَى طَرِيقِكَ وَعَمَلًا مَقْبُولًا وَقَلْبًا خَاشِعًا
 اور تیرے راستے کی طرف چلنا اور مقبول عمل اور جھکنے والا دل

وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَعَيْنًا دَامِعًا وَخَدًّا رَطْبًا فِي حَبِيبِكَ
 اور ذکر کرنیوالی زبان اور رونے والی آنکھ اور ایسا بخار جو تروتازہ تیری محبت سے

وَحُبَّ حَبِيبِكَ وَالْوُقُوفَ عَلَى حُدُودِكَ وَالتَّوْفِيقَ
 اور تیرے محبوب کی محبت سے اور (مانگتا ہوں) حدود پر ٹھہرنا اور توفیق واسطے تیری عبادت کے

بِطَاعَتِكَ وَالنَّجَاةَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَالسَّلَامَةَ
 اور (مانگتا ہوں) نجات زندگی اور موت کے فتنے سے اور سلامتی

فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ امْلَأْ
 (جما دین اور دنیا اور آخرت میں اے اللہ بھر دے ہمارے دل

سَوْدًا أَنَا مِنْ سَنَاةٍ وَقُلُوبَنَا مِنْ نَعْمَةٍ وَالهِسْلَانَا
 کی گہرائیوں کو حضور ﷺ کی روشنی سے اور ہمارے قلوب کو ان کی نعمتوں سے اور اہل بنا کے ہمیں ان کی

بِمَجَالِسَتِهِ فِي كُلِّ دِيْوَانٍ وَالْحَقْنَا بِجَلَالَتِهِ فِي
 شہنشیننی کا ہر کچہری میں اور لاحق فرما ہیں ان کی جلالت اور بزرگی کے
 كُلِّ مَشْهَدٍ يَنَالُهُ إِنْسَانٌ إِنَّكَ وَليُّ الْعَظْمَاءِ وَالْإِمْتِنَانِ
 ساتھ ہر مشہد میں جسے کوئی بھی انسان پاسکتا ہو بیشک تو مالک ہے عطا کا اور احسان کا
 أَمِينٌ يَا مُحِطِي يَا وَهَّابُ يَا حَنَّانُ اللَّهُمَّ الْحَقِّقْنِي
 آمین اے معطی اے وہاب اے حنان اے اللہ مجھے لاحق فرما
 بِنَسَبِهِ الرُّوحِيَّ وَحَقِّقْنِي بِحَسَبِهِ السُّبُوْحِيَّ
 ان کے روحانی نسب کے ساتھ اور مجھے قائم رکھ ان کے سبوحی مقدس حسب کیساتھ
 وَعَرِّفْنِي آيَاتَهُ مَعْرِفَةً أَشْهَدُ بِهَا مَحْيَاةً وَأَبْصَرِيهَا
 اور مجھے ان کی پہچان کرا کر جس کے ساتھ مشاہدہ کروں اور ان کے دئے اقدس کا اور دیکھوں ان
 مَحَلًّا كَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَأَسْأَلُ بِهَا مِنْ وَرُودِ
 کے جمال کو جیسے وہ محبوب رکھیں اور پسند فرمادیں محفوظ رہوں بسبب اس کے لکے عوارف
 مَوَارِدِ الْجَهْلِ بِعَوَارِفِهِ وَأَكْرِعُ بِهَا مِنْ مَّوَارِدِ
 و عطیات سے جہالت و لاعلمی کی گھاٹوں میں وارد ہونے سے اور بیہوں ان کے (بجر کمال و
 الْفَضْلِ بِمَعَارِفِهِ وَأَحْمِلُنِي عَلَى نَجَائِبِ لُطْفِكَ
 معارف میں) داخل ہو کر ان کے کمال و معارف کے گھاٹوں سے اور سوار فرما مجھے اپنے کرم
 وَرَكَائِبِ حَنَانِكَ وَعَظْفِكَ وَسِرِّي فِي سَبِيلِهِ
 کی سواروں پر اور اپنی عنایت و مہربانی کی اونٹنیوں پر اور چلا مجھے ان کے راہ راست پر اور پابندار
 الْقَوِيَّ وَصِرَاطِهِ الْقَوِيَّ وَحَضْرَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ
 شاہراہ پر اور ان کی بارگاہ اقدس کی طرف جو متصل ہے تیری
 بِحَضْرَتِكَ الْقُدْسِيَّةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
 بارگاہ مقدسہ کے ساتھ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں

الضَّغِيظُ وَالضَّغَطُ وَالضَّعْطُ وَالضَّبْحُ وَالضَّجَجُ

کمزور رائے والے سے اور ضعف رائے سے اور ذبح کئے جانے سے اور تیرے ظلم کرنے سے اور

وَالضَّاجِعُ وَالضُّوْعُ وَالضَّيْعُ وَالضَّرَّاعُ وَالضَّرَّاعُ

بے برکتی سے اور احمق و حماقت سے اور تیج و تاب اور ہلاکت سے اور تلف ہونے اور دھوکہ دینے

وَالضَّرْمَعُ وَالْمَأْوُوفُ وَالْمُدْوُوفُ وَالرَّقِيقُ

جانے اور زوالت سے اور معطل حواس والے اور آفت زدہ سے اور مخلوط نسب سے اور غلامی

وَالرَّقِيقُ وَالرَّقِاقُ وَالرَّقِيقُ وَالرَّقِيقُ وَالرَّقِيقُ

اور غلام سے اور بنجر پن اور کمزوری سے اور گولے پن سے (اور پناہ مانگتا ہوں) اور جھانے اور لاغر

وَالذَّبَالَةُ وَالذَّبَالُ وَالذَّبَالَةُ وَالذَّبَالَةُ

ہونے اور ڈبلے پن سے اور بھول و نسیان سے اور غفلت سے

وَالشَّيْنُ وَالشَّنْكَ وَالْحَرْقُ وَالْحَرْقُ وَالْحَرْقُ

اور پھانسی سے اور سولی سے اور جلنے سے اور آگ سے اور جلانے والے سے اور زبان کی تیزی

وَالذَّلِيقُ وَالذَّلِيقُ وَالذَّلِيقُ وَالذَّلِيقُ

اور تیز زبان سے اور مٹنے اور برباد ہونے سے اور تامل و قرض

وَاللَّهْرَامُ وَاللَّيْمُ وَاللَّيْمُ وَاللَّيْمُ وَاللَّيْمُ

اور شکست سے اور کینے اور کینگی سے اور ضعف طبیعت و بزدلی سے اور اچھلنے کودنے اور شہوت رانی سے

وَالنَّكَلُ وَالنَّكَلُ وَالنَّكَلُ وَالنَّكَلُ

اور مضبوط بٹری اور عبرت ناک سزا سے اور پسپائی سے اور بدبوداری اور بدبودار سے

وَالْغِشَاءُ وَالْغِشَاءُ وَالْغِشَاءُ وَالْغِشَاءُ

اور حجاب اور دھوکہ بازی سے اور بے ہوشی سے (اور پناہ مانگتا ہوں) مکر و مکار سے

وَالكَيْدُ وَالْكَيْدُ وَالْعَيْنُ وَالْعَيْنُ وَالْعَيْنُ

اور دھوکہ اور دھوکہ باز سے اور دشمنی اور دشمن سے اور غصہ اور غصہ میں سختی سے

وَالشَّرُّ وَالشَّمْلُ وَالكَتُّو وَالْتَكْتُو وَالْحَدَمِ
اور بڑائی اور پراگندگی سے اور حق کو چھپانے اور چھپانے کی کوشش سے اور معدوم

وَالْتَعَدَمِ وَالرَّسْمِ وَالرَّسْمِ وَالْخَصْمِ
ہونے اور اس کی سعی سے اور منزل کی بربادی اور برباد منزل کو دیکھنے سے اور جھگڑالو سے

وَالْتَخَصُّمِ وَالشَّوْصِ وَالشَّيْصِ وَالشَّقِيصِ
اور جھگڑنے سے اور بھڑکتے شر سے اور ناکارہ ہونے سے اور شرکت سے

وَالشَّطِّ وَالشَّحْطِ وَالشَّحُوطِ وَالشَّطَّاطِ
اور ظلم اور آلودگی اور ایذا رسانی اور دُوری سے

وَالشَّطِّطِ وَالشَّيْبِطِ وَالشَّمَاطِطِ وَالشَّبْدَعِ
اور تعدی اور اختلاط سے اور گروہ بندی سے اور بچھو سے

وَالشَّتَعِ وَالشَّفَعِ وَالشَّقَعِ وَالشَّمْعِ وَالغُرُورِ
اور بے صبری سے اور (برے) جفت سے اور پانی میں گرنے سے اور لہو ولہب سے اور دھوکہ کھانے اور جھوٹ

وَالنُّزُورِ وَالْفَجُورِ وَالْغَبَاوَةَ وَالْغَبِيَّ وَالْبَغَاوَةَ وَالْبَغِيَّ
بولنے سے اور بدکاری سے اور غبابت اور غبی سے اور بغاوت و حد سے اور

وَالذِّمِّ وَالذِّمِيمِ وَالذَّمَائِمِ وَالنَّمِّ وَالنَّمَامِ وَالنَّمُومِ
مذمت اور مذموم سے اور بُری عادات سے اور چنل خوری اور چنل خور سے اور چنل کھانے

وَالنَّمِيمِ وَالنَّمَائِمِ وَالْغَرَضِ وَالْمَرَضِ وَالْقَرَضِ
چنل کھانے والے اور چنلیوں سے اور (پناہ مانگتا ہوں) نشانہ بننے سے اور مرض و قرض سے

وَالذَّبِّ وَالذَّابِّ وَالذُّوبِ وَالذُّونَابِ وَالذَّنْبِ
اور راندے جانے سے اور راندنے والے سے لگھنے سے اور گناہ اور آثام سے

وَالذُّنُوبِ وَالنُّوَابِ وَالْفُؤَابِ وَالْجُدُورِ وَالْمَجْدُورِ
اور جھٹکنے والوں اور گناہگاروں سے اور کٹنے سے اور کاٹے ہوئے سے

وَالْغَدْرُ وَالْغَدَّارُ وَالْخَهُ وَالْخَهُ خَهُ وَالسَّرْبَالُ وَالطَّرْبَالُ

اور عہد شکنی اور عہد شکن سے اور دھتکار سے اور دھتکارے جانے سے اور (جہنمی) لباس اور بلند پہاڑ سے

وَالْخَمِيعُ وَالطَّمِيعُ وَالصَّلِيعُ وَالْأَصْلِيعُ وَالشَّنِيعُ

اور چوری اور طمع سے اور گنجے پن سے اور گنجے سے اور تہیج اور

وَالشَّنَائِعُ وَالذَّرْعُ وَالذَّرَائِعُ وَمِنْ شَرِّ شَيْطَانِ

قباحتوں سے اور سفارش سے اور (غلط وسائل و ذرائع سے اور شیطان انسان

الْأَنْسِ وَالْجِنِّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ لِسَيِّدِ

اور جنوں کے شر سے۔ اے اللہ بیشک ہم وسیلہ پکڑتے ہیں تیری طرف رسولوں

الْمُرْسَلِينَ وَشَفِيعِ الْمَدِينِينَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ

کے سردار اور گنہگاروں کی سفارش فرمانے والے۔ رحمت کے نبی

وَشَفِيعِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ وَبِقُدْرَتِهِ

اور امت کے سفارشی کا۔ اے اللہ بوجہ اس کی عزت و مرتبہ کے جو تیرے پاس

لَدَيْكَ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَنَزُولَ

اس کو حاصل ہے ہم تجھ سے کامیابی چاہتے ہیں فیصلہ کے وقت اور (طلب کرتے ہیں) شہیدوں

الشُّهُدَاءِ وَوَعَيْشِ السُّعْدَاءِ وَالتَّصَرُّعِ عَلَى الْأَعْدَاءِ

کے مرتبہ پر اترنا اور نیک بختوں والی زندگی اور دشمنوں پر مدد

وَمُرَافَقَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْنُ عِبَادُكَ الضُّعْفَاءُ وَلَا نَعْبُدُ

اور انبیاء کی رفاقت اور ہم تیرے کمزور بندے ہیں اور تیرے سوا کسی کی

سِوَاكَ وَلَا نَرْطَلِبُ إِذْ أَمَسْنَا الضَّرَّ إِلَّا بِكَ فَا مِنْ

عبادت نہیں کرتے اور ہم نہیں طلب کرتے جب چھوٹے ہم کو تکلیف مگر تجھے پس محفوظ

رُوعَاتِنَا وَأَجِبْ دَعْوَاتِنَا وَأَقْضِ حَاجَاتِنَا فَاعْفُ ذُنُوبَنَا

رکھ تو ہمیں خوفوں سے اور قبول فرما ہماری دعاؤں کو اور پورا فرما حاجتوں کو پس تو بخش ہمارے گناہوں کو

وَأَسْتَغِيثُكَ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا حَلِيمُ وَارْحَمْنَا

اور چھپا دے ہمارے عیبوں کو اے رحیم اے کریم اے حلیم اور ہم پر رحم فرما

أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْجَابَةِ جَدِيرٌ الصَّلَاةِ

بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے اور قبول کرنے کے لائق ہے۔ درود و

وَالسَّلَامِ لَكَ يَا فَاتِحَ بَابِ الرَّحْمَةِ يَا فَاتِحَ

سلام ہو آپ پر اے رحمت کا دروازہ کھولنے والے، اے نزدیک کا

بَابِ الْقُرْبِ يَا فَاتِحَ بَابِ الْمَشَاهِدَةِ اللَّهُمَّ

دروازہ کھولنے والے اے شاہدہ کا دروازہ کھولنے والے۔ اے اللہ

افْتَحْ عَلَيْنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا أَبْوَابَ

کھول تو اپنی رحمت کے دروازے اور آسان کر ہمارے لئے اپنے رزق کے

رِزْقِكَ بِجَاهِ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بِبَرَكَاتِ الصَّلَاةِ

دروازے بوسیلہ اپنے محبوب محمد کے۔ اے اللہ اس پر درود و سلام

وَالسَّلَامِ لَكَ عَلَيْهِ إِفْتَحْ عَلَيْنَا أَبْوَابَ كَرَمَتِكَ

بھیجنے کی برکت سے کھول دے ہم پر اپنی کرامت کے دروازے

نِعْمَتِكَ وَسَعَادَتِكَ وَعَطِيَّتِكَ وَعِنَايَتِكَ مَرْضَاتِكَ

اپنی نعمت کے اور نیک بختی کے اور بخشش کے اور مہربانیوں کے اور اپنی رضامندیوں کے

وَرِزْقِكَ إِفْتَحْ عَلَيْنَا أَبْوَابَ رِزْقِكَ يَا إِلَهِي لَهْبِ لِي

اور اپنے رزق کے کھول دے ہم پر اپنے رزق کے دروازے اے اللہ پورا کر میرا

سُؤَالِي وَاعْفِرْ لِي وَلِلْمُنْتَسِبِينَ إِلَيَّ وَأَقْضِ حَاجَتِي

سوال اور بخش تو مجھ کو اور مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو اور پورا فرما میری حاجت کو

وَحَاجَةَ كُلِّ مَنْ تَجِبُ إِلَيَّ بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ

اور اس شخص کی حاجت کو جو میری طرف التجا کرے بوسیلہ اپنے محبوب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے

وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ وَجَاهِهِ وَقَبُولِهِ عِنْدَكَ وَلَا تَطْرُدْنِي

اور آپ کی عزت کے اور آپچی بزرگی کے اور مرتبے کے اور تیرے نزدیک قبولیت کے اور نہ دھنکار تو مجھ

خَائِبًا مِنْ بَابِكَ وَلَا تَوَالِسْنِي مِنْ رَوْحِكَ لَا تَقْطُرْنِي

کو نامراد اپنے دروازے سے اور نہ مالوس کر تو مجھے اپنی رحمت سے اور بے امید نہ کر مجھ کو

مِنْ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ كَيْفَ أَصْدُرُ عَنْ بَابِكَ خَائِبًا

اپنی مہربانی سے اے اللہ تیرے دروازے سے کیسے نامراد پھر سکتا ہوں

وَقَدْ وَرِدْتَهُ عَلَى ثِقَةٍ بِكَ وَأَجِبْ دُعَائِي بِحُرْمَةِ

حالانکہ میں تجھ پر بھروسہ کر کے آیا ہوں اور تو قبول فرما میری دعا کو بوسیلہ

مَنْ لَا يَرُدُّ دُعَاءَ مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ فَإِنِّي مُتَوَسِّلٌ

اس ذات کے کہ نہیں رد ہوتی دعا اس کی جو اس کا وسیلہ پکڑے پس بیشک میں تیری طرف

بِهِ إِلَيْكَ يَا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد ﷺ پر ایسا

صَلْوَةٌ تَدْفَعُ بِهَا عَنْ قَلْبِي مَرَضَ التَّوَجُّهِ إِلَى غَيْرِكَ

کہ دور کرے تو بوجہ اس کے میرے دل سے تیرے غیروں کی طرف متوجہ ہونے کی مرض

وَعَنْ جَسَمِي الْحَمَلُ بِمَا يَخَالِفُ شَرِيحَةَ حَبِيبِكَ

اور دور کرے تو بوجہ اس کے میرے جسم سے عمل جو کہ مخالف تیرے حبیب کی شریعت سے ہو

وَسَلَامًا بِهِ تَجْعَلُنِي غَنِيًّا عَنْ سِوَاكَ ثَابِتًا عَلَى

اور سلام کہ بسبب اس کے تو کرے مجھ کو بے پرواہ اپنے غیروں سے اور ثابت رکھے تو

طَرِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ الْمُحَقِّقِينَ الْكَامِلِينَ الَّذِينَ لَهُمْ

مجھ کو سچے اور کامل صوفیوں کے طریقے پر وہ صوفی جو

وَرِثَةَ حَبِيبِكَ الْمُرْتَضَى يَا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

جو تیرے پسندیدہ محبوب کے وارث ہیں اے اللہ درود و سلام بھیج تو اور برکت فرما

سَيِّدِ نَامِحْمَدٍ وَارْحَمِ عَلَىٰ هَذَا الْعَبْدِ الْمَذَلِّ

ہمارے سردار محمد ﷺ پر اور رحم کر اس بندے ذلیل پر جو

الْمُتَوَسِّلِ بِمَحْمَدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْوَاحِي بِعِنَايَتِكَ

وسیلہ پکڑنے والا ہے محمد ﷺ رسول اللہ کا اور امید رکھنے والا ہے تیری مہربانیوں

بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ وَجَالِهِ وَقَبُولِهِ

شک کی بوسیلہ محمد ﷺ کے اور اس کی عزت اور بزرگی اور مرتبے اور قبولیت کے

عِنْدَكَ اِرْفَعْ عَنِّي الْأَمْرَاضَ الْقَلْبِيَّةَ وَالْقَالِبِيَّةَ

جو تیرے نزدیک ہے دور فرما تو مجھ سے قلبی اور جسمانی بیماریوں کو خصوصاً

لَا سِيَّامَا مَرَضَ التَّوَجُّهِ إِلَىٰ غَيْرِكَ وَارْزُقْنِي رِزْقًا

غیروں کی طرف متوجہ ہونے کی بیماری کو اور عطا فرما مجھ کو فراخ

وَاسِحًا عَلَى الدَّوَامِ وَاصِلًا مِنْكَ إِلَىٰ عِنْدِكَ

رزق ہمیشہ ہمیشہ تک جو پہنچتا ہے تیری طرف سے اپنے بندے کی طرف

عَلَى طَرِيقَةِ الْخَاصِّ وَالْعَامِ عَارِيًّا عَنِ الْكَلْفِ وَالْمِحْنِ

خاص اور عام طریقے پر اور جو خالی ہو تکلیف اور رنجوں سے اور فارغ

خَالِيًّا عَنِ بَوَائِقِ الدَّهْرِ وَشَدَائِدِ الْفِتَنِ نَافِعًا

ہو ہر زمانے کی مہلکات سے اور فتنوں کی شدت سے اور نفع دینے والا

فِي الدِّينِ وَالْبَدَنِ يَا مَنْ فَضْلُهُ عَظِيمٌ وَلَطْفُهُ

ہو دین اور بدن میں اے وہ ذات کہ اس کا فضل بڑا ہے اور اس کی

عَمِيمٌ وَإِحْسَانُهُ قَدِيمٌ وَلِنَفْسِهِ كَرِيمٌ وَرَسُولُهُ

مہربانی عام ہے اور اس کا احسان قدیم ہے اور اس کی ذات کریم ہے اور اس کا رسول

رَحِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحیم ہے۔ اے اللہ رحمت اور سلام اور برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد پر

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ أَجْمَعِينَ وَاشْفِنِي
 اور اس کی آل اور اصحاب اور سب تابعداروں پر اور مجھ کو شفا
 بِحُرْمَتِهِ اللَّهُمَّ كَمَا وَهَبْتَنِي بِصِدْقَةٍ
 اے اس کے وسیلے سے اے اللہ جیسا کہ تو نے مجھے بخشا اپنے محبوب
 مِنْ مَدِّ حَبِيبِكَ وَجُودٍ وَحَيَاةٍ وَعِلْمًا
 محمد کے مدد سے تیرے وجود اور زندگی اور علم
 وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْوَجُودِيَّةِ لَهَبِلِي بِصِدْقَتِهِ
 اور تمام وجود کی صفیوں بخش تو مجھ کو اس کے طفیل
 شِفَاءً كَامِلًا وَصِحَّةً تَامَةً وَعَمْرًا طَوِيلًا وَإِيمَانًا
 پوری شفا اور مکمل تندرستی اور لمبی عمر اور اصلی
 حَقِيقِيًّا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 ایمان اللہ تعالیٰ پروردگار سلام فرمائے آپ پر اور آپ کی آل پر
 اللَّهُمَّ هَذَا الطَّلُوبُ بِالنَّظَرِ إِلَى كَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ
 اے اللہ یہ مقصد تیرے کرم اور رحمت کی نظر میں اور تیرے وسیلے
 وَبِالْقِيَاسِ إِلَى الْوَسِيلَةِ وَلَهُوَ حَبِيبُكَ السَّرْمَدِيُّ
 کے قیاس سے جو تیرا ہمیشہ سے محبوب ہے
 شَيْءٍ حَقِيرٍ اللَّهُمَّ فَأَعْطِنِي ذَلِكَ الشَّيْءَ الْحَقِيرَ
 حقیر چیز ہے اے اللہ پس عطا فرما تو وہ ادنیٰ چیز اپنی طرف
 بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ وَبِالنَّظَرِ إِلَى الْوَسِيلَةِ الْعَظِيمِ
 نظر کر کے اور بڑے وسیلے کی طرف نظر کر کے
 وَبِالنَّظَرِ إِلَى لِسْمَتِي وَمَرْتَبَتِي اللَّهُمَّ اشْفِنِي وَقَوِّنِي
 اور میرے ارادے اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے اے اللہ مجھے شفا اور قوت

وَصَحِّحْنِي وَأَنْزِلِ الْأَمْرَاضَ الظَّالِمَةَ وَالْبَاطِنَةَ
 اور صحت عطا فرما اور دُور فرما ظاہری اور باطنی بیماریاں اور وہ
 وَالْأَمْرَاضَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنَ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ وَالْمُتَوَلِّدَةَ
 مرضیں جو گرمی و سردی سے پیدا ہوتی ہیں اور جو ان دونوں کے ملنے
 مِنْ إِجْتِمَاعِهِمَا وَاجْعَلْنِي طَوِيلَ الْعَمْرِ فِي مَحَبَّتِكَ
 سے پیدا ہوتی ہیں اور میری لمبی عمر فرما اپنی محبت میں
 وَاتَّبَاعِ أَوْامِرِكَ وَثَبِّتْنِي عَلَى طَرِيقَةِ الْمَسْئَلِ السَّنَةِ
 اور اپنے حکموں پر چلنے میں اور ثبات رکھ تو مجھ کو اہل سنت و جماعت
 وَالْجَمَاعَةِ اللَّهُمَّ كَوْنِ مِنْ سَائِلِ قَدْ أَجَبْتَ سُؤَالَهُ
 کے طریقے پر اے اللہ کتنے ہی سائل ہیں کہ قبول کر لیا ہے تو نے
 وَكَوْنِ مِنْ مَرِيضٍ قَدْ شَفَيْتَهُ وَكَوْنِ مِنْ طَالِبٍ وَصَلْتَهُ
 ان کے سوال کو اور کتنے ہی مریضوں کو شفا دی ہے تو نے اور کتنے ہی طلبگار ہیں کہ
 إِلَى طَلْبِهِ وَكَوْنِ مِنْ جَاهِلٍ عَلَّمْتَهُ وَكَوْنِ مِنْ غَافِلٍ
 پہنچا دیا ہے تو نے ان کو انکے مطلب تک اور کتنے ہی جاہل ہیں کہ تو نے ان کو علم دیا اور کتنے ہی
 نَبَاهْتَهُ وَكَوْنِ مِنْ مَتَّصِرٍ عَزَّزْتَهُ اللَّهُمَّ أَعِدْ
 ہی غافل ہیں کہ تو نے انکو خبردار کیا اور کتنے ہی گڑبڑ والے ہیں کہ تو نے انکو عزت دی۔ اے اللہ میں خود کو
 نَفْسِي مِنْ تِلْكَ الْمَرَضِي الَّتِي قَدْ شَفَيْتَهُمْ
 شمار کرتا ہوں ان مریضوں میں جن کو تو نے شفا دی ہے۔ پس
 فَلَا تَجْعَلْ رِجَائِي بَاطِلًا اللَّهُمَّ اقْبَلْ مَعْذِرَتِي
 نہ کر تو میری اس امید کو باطل اے اللہ قبول فرما میرے عُذر کو اور
 وَتَوْبَتِي وَأَوْصِلْنِي إِلَى مَقْصُودِي اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي
 توبہ کو اور پہنچا دے مجھ کو میرے مقصد تک اے اللہ بیشک میں

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَفَقْرِهِ وَبِحَقِّ صَدَقِ

سوال کرتا ہوں بوسیدہ حضرت محمد کے اور انکے فقر کے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ

أَبِي بَكْرٍ وَفَنَاءِهِ وَبِحَقِّ صَلَابَةِ عُمَرَ وَرِضَائِهِ

کے صدق کے اور فناء کے طفیل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جلال اور رضاء کے وسیلے سے

وَبِحَقِّ سَخَاوَةِ عُثْمَانَ وَصِفَاتِهِ وَبِحَقِّ شُجَاعَةِ عَلِيٍّ

اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور صفات کے وسیلے سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری

وَعِلْمِهِ وَبِحَقِّ صَبْرِ فَاطِمَةَ وَحُبِّهِ وَبِحَقِّ

اور علم کے وسیلے سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صبر اور محبت کے طفیل اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ

عِبَادَةِ الْحَسَنِ وَجِلْمِهِ وَبِحَقِّ شَهَادَةِ الْحُسَيْنِ

کی عبادت و برد باری کے صدقے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت

وَعَرَبَتِهِ وَبِحَقِّ عَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ

و مسافری کے طفیل اور دس جنت کی بشارت دیئے گئے صحابہ اور سب یاروں اور

وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالتَّابِعِينَ رِضْوَانِ اللَّهِ

خلیفوں کو جو راشدین ہیں اور تابعین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو ان سب پر

تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَعْطِينِي

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ عطا کر تو مجھ کو اس کی

كَمَالِ حُبِّهِ إِلَى خُلُوصِ ذَاتِكَ وَالْمَلِ الشُّوقِ السَّرِيحِ

کا مل محبت اپنی خالص ذات کے اور عطا کر اپنی ملاقات کا سبب سری شوق ہمیشہ

إِلَى لِقَائِكَ دَائِمًا أَبَدًا لَأَمْتَقَطِعًا وَأَنْ تَغْفِرَ لِي

ہمیشہ تک جو کبھی ختم نہ ہو اور بخش تو مجھ کو اور میرے

وَلِمُرْشِدِي وَلَا سْتَاذِي وَلِمَنْ تَوَالَدَ الْجَمِيعَ لِمُؤْمِنِينَ

مرشد کو اور میرے استاد کو اور اس کو جس کے ذریعے سے پیدا ہوا اور سب مومن مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ
اور عورتوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں زندوں

وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
اور مردوں کو اپنی رحمت کے وسیلے سے اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَأَنْتَ الْمُحْمَدِيُّ
اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل محمد ﷺ کے اور تو ہی محمود ہے

وَبِحَقِّ عَلِيٍّ وَأَنْتَ الْأَعْلَى وَبِحَقِّ فَاطِمَةَ وَأَنْتَ
اور بطفیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور تو ہی بلند تر شان والا ہے اور بطفیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے

فَاطِمَةَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبِحَقِّ الْحَسَنِ وَأَنْتَ
اور تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور بطفیل حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اور تو ہی

الْمُحْسِنُ وَبِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَأَنْتَ قَدِيرُ الْإِحْسَانِ
محسن ہے اور بطفیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اور تو قیوم احسان والا ہے

وَبِحَقِّ تِسْعَةِ الْمُعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَةِ الْحَسَنِ
اور بطفیل نو (9) معصوموں کے جو سین رضی اللہ عنہا کی اولاد سے

وَالْحُسَيْنِ وَبِحَقِّ سَبْعَةِ سُلْطَانِ الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ
ہیں اور بطفیل سات سلطان الفقراء کے جن کی اولاد سے

خُلِقُوا أَرْوَاحَ هُمْ مِنْ قَبْلِ أَدَمَ اسْتَجَبْ دُعَائَنَا
پیدا کیا گیا آدم سے پہلے (اے اللہ) قبول فرما ہماری دعا کو

وَأَقْرِضْ حَاجَاتِنَا بِحُرْمَتِ جَمِيعِ الْمُعْصُومِينَ
اور پورا فرما ہماری حاجات کو بطفیل عزت تمام معصومین اور

وَالْمَظْلُومِينَ وَالْمَكْرُوبِينَ كَرَبِ الْبَلَاءِ الْمُحْكَلِي
مظلومین کے پریشان حالان کربلاء مصلی کے

أَنَّ تَحْفَظَ سَكَانَ كُلِّ بَيْتٍ كَانَتْ فِيهِ هَذِهِ

کہ تو حفاظت فرمائے ہر اس گھر کے رہنے والوں کی جس میں یہ مبارک

الصَّحِيفَةُ السَّعِيدَةُ وَأَنْ تَجِيرَ لَكُمْ مِنْ كُلِّ

صحیفہ موجود ہو اور یہ کہ تو بچائے انہیں ہر غم و خوف سے

قَلْبٍ وَفَرَقٍ وَمِنْ شَرِّ خَلْقٍ وَمِنْ أَنْ يُولِيَ لَهُمُ الْأَعْدَاءُ

اور مخلوق کے شر سے نیز تو بچائے انہیں اس سے کہ انہیں ڈرائیں

وَالْمُفْسِدُونَ وَالْفُسُقُ وَمِنْ أَنْ يَبْتَلُوا بِاصَابَةِ

دشمن، مفسدین اور فساق اور اس سے کہ ان پر مصیبت آئے

شَيْءٍ مِنَ الْحَرِيقِ وَالْحَرْقِ وَمِنْ أَنْ تَنُوبَهُمْ مِحْنَةٌ

آگ جلنے اور آگ لگنے کی اور اس سے انہیں پہنچے آفتِ غضب

الْغَضَبِ وَالسَّرِقِ وَمِنْ أَنْ تَعْرِفَ لَكُمْ رُكْبَةَ

اور چوری کی اور اس سے کہ انہیں درپیش ہو جائے آسمانی سبلی اور

الصَّوَاعِقِ وَالضَّرْقِ - أَمِينٌ مُبْتَهَجِينَ كَانَهُمْ

اور پانی میں غرق ہونے کی آفت - وہ ایسے امن و خوشی میں ہوں گویا

الْوَالِي حِصْنِ حَصِينٍ وَرُكْنِ رَضِيٍّ وَقَرَارِ

کہ وہ ساکن ہیں مضبوط قلعہ میں - قوی رکن محفوظ

مَلِكِينَ وَحِرْزَ مَتِينٍ وَمَقَامِ أَمِينٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ

آرام گاہ - تسلی بخش حفاظت اور مقامِ امن اور (بائے اللہ) میں سوال کرتا

تَجْعَلَ كُلَّ مَنْزِلٍ كَانَ فِيهِ لِمَا لِكِتَابِ الْمُبَارَكِ

ہوں تجھ سے کہ کہے ہر اس گھر کو جس میں موجود ہو یہ مبارک کتاب سعادت

مُحْفُوفًا بِالسَّعَادَةِ وَمَكْنُوفًا بِالسِّيَادَةِ وَمَلْفُوفًا

گہرا ہوا سرداری کے احاطہ میں اور اللہ تعالیٰ کے نیک ارادوں میں

مَحْسِنِ الْإِرَادَةِ وَأَنْ تَنْزَلَ فِيهِ السَّعَادَاتِ النَّجْوَى

پیدا ہوا (اور سوال کرتا ہوں) کہ تو نازل کرے اس منزل میں سعادتیں زیادہ

الْعَاطِرَةِ الْكَافِيَةِ وَالْخَيْرَاتِ الْهَامِرَةِ الْوَافِرَةِ

معتد کافی اور خیرات برسنے والی کثیرہ

الْوَافِيَةِ وَالْبَرَكَاتِ الْبَالِغَةِ الْعَامِرَةِ وَالْعَافِيَةِ

مکمل اور برکات ظاہر آباد کرنے والی اور عافیت بھی

وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُؤْمِنَ بِالسُّرُورِ وَالسَّلَامَةِ وَالْعِزِّ

اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو آمن عطا کرے خوشی سلامتی عزت

وَالْفَخَامَةِ وَيَا نِكَشَافِ ظُلُمِ الظُّلْمِ

و عظمت و ظلم کی تاریکی اور غم کے بادل

وَأَنْقِشَاعِ غَمِّ الْخَيْرِ مَنْ صَاحَبْتَهُ لَكَ

ہٹنے کی صورت میں ہر اس شخص کو جس کے پاس

الصَّحِيْفَةِ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفْرِ وَمَوَاقِعِ

صحیفہ حضر و سفر میں اور مواقع

الْأَمْوَالِ وَالضَّرِّ مُطْمَئِنًّا طَمِينًا مِنْ أَوْىِ إِلَى

خوف و ضرر میں تا آنکہ وہ کامل طور پر مطمئن ہو جائے اس شخص کی

مُرْكِنٍ شَدِيدٍ وَعِزٍّ جَدِيدٍ وَظِلِّ مَدِيدٍ وَمَعَانٍ

طرح جس نے پناہ لی ہو مرکن قوی کی نیز جدید عزت اور گھنے اور طویل سائے اور مستحکم

وَكَيْدٍ وَأَنْ تَمْنَحَ الْعَافِيَةَ وَالْإِسْتِقَامَةَ وَالطَّمِينَةَ

پناہ گاہ کی اور سوال ہے کہ تو عطا کرے عافیت اور استقامت اور اطمینان

وَالْكَرَامَةَ مِنْ رَافِقَتِهِ لَكَ فِي الرِّسَالَةِ فِي أَمْكِنَتِهِ

و شرافت ہر اس مسلمان کو جس کے پاس ہو یہ رسالہ طویل

إِمْتِدَادِ الْفِتَنِ وَإِشْتِدَادِ الْمِحَنِ وَمَوَاطِنِ

فِتْنَتُونَ - شدید تکلیفوں کی جگہوں میں اور خوف و مصائب
الْخَوْفِ وَأَنْزِمَاتِ الزَّمَنِ حَتَّى يَسْكُنَ سَكُونًا

زمانہ کے موافق میں - تاکہ اسے اس شخص کی سکون و راحت حاصل ہو جائے
وَيُرِيَّاحِ إِرْتِيَّاحٍ مَنْ حَلَّ بِالْكَرْمِ الْمَرَّاحِلِ وَأَنْسِ

جو نازل ہو مقامات شرافت اور منازل انس و محبت
الْمَنَازِلِ وَتَمَسَّكَ بِأَوْثِقِ الْمَلَاحِجِ وَأَوْفَقِ

میں اور معتمد ہو مضبوط پناہ گاہ اور موافق نجات گاہ
الْمَنَاجِحِ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَحْصِرَ تَالِي لِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ

پر اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو بچائے ان اسمائے مبارکہ کے پڑھنے
الْمُبَارَكَةِ مَعَ الصَّلَوَاتِ مِنْ كُلِّ لَكْرٍ وَبَلَاءٍ وَنَضْبِ

والے کو درود و سلام کی برکت سے ہر غم بلا سختی
وَحُزْنٍ وَآفَةٍ وَتَعَبٍ وَأَنْ تَجِدَ كُلَّ دُعَاءٍ مِنْ

رنج آفت و محنت سے اور سوال ہے کہ تو قبول کرے اس کی ہر دعا کو
كِفَايَةِ الْمُهْمَاتِ وَدَفْعِ الْبَلِيَّاتِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ

مثلاً ہر مشن کی تکمیل اور آفتوں کا دور ہونا اور حاجات کا پورا ہونا
وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَحَلِّ الْمَشْكَلَاتِ وَسْتِرِ الْعَوَّلِ

درجات کا بلند ہونا اور حل مشکلات اور عیب و سر کی پردہ پوشی
وَتَأْمِينِ الرَّوْعَاتِ وَالتَّخْلِصِ مِنَ الْآفَاتِ

خطروں کا ازالہ آفات سے خلاصی
وَالنَّجَاةِ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْمَصَائِبِ وَالنَّجَاحِ فِي تَرْقِي

اور حوادث و مصائب سے نجات اور کامیاب ہونا منصب اور

الْمَقَامَاتِ وَالْمَرَاتِبِ وَأَنْ تَفْتَحَ لَهُ أَبْوَابَ الْفَلَاحِ
 عہدہ کی ترقی پانے میں اور تو کھول دے یہ کتاب پڑھنے کیلئے کامیابی کے
 وَالْفَوَازِ بِالْحِظِّ الْأَكْمَلِ وَالنَّصِيبِ الْأَجْزَلِ مِنْ
 دروازے بڑے حصے اور کامل نصیب کے حصول کے سلسلے میں وسیع
 الْعِزِّ الْوَاسِعِ النَّطَاقِ وَالشَّرَفِ الْمُرْتَفِعِ الرَّوَاقِ
 عزت کے ساتھ بلند و بالا و شرافت سے اور وسیع و رائے اور
 وَالرَّأْيِ السَّيِّدِ وَالْقَبُولِ الْوَطِئِدِ وَالْحَيْشِ
 محکم قبولیت کے ساتھ اور وسیع مقرر حلال رزق کے
 الرَّغِيدِ مِنَ الْحَلَالِ الْحَتِيدِ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَنْفِسَ
 ساتھ اور سوال کرتا ہوں کہ تو دور کرے
 عَنِ الْمَوَاطِبِ عَلَى قَرَأَتِهَا كُلُّ كَرْبَةٍ مِنْ كَرْبِ
 اس کتاب کے دائمی قاری سے دنیا و آخرت کی ہر بے
 الدُّنْيَا وَالْحَقْبَى وَأَنْ تَبْلِغَهُ فِي كُلِّ مَرَامٍ الْخَائِ
 سختی کو (اور دغا کرتا ہوں) کہ پہنچا دے اسے ہر مقصد میں نہایت بلندی و منتہا
 الْحَلِيَّاءِ وَالْأَمَدَ الْأَقْصَى وَأَنْ تَبْهِيَهُ بِالْبُشْرَى
 تک اور یہ کہ تو خوش کر دے اسے بشارت سے
 فِي الْأُولَى وَالْآخِرَى وَأَنْ تَهَبَ لَهُ يَوْمَ الدِّينِ
 دونوں جہانوں میں اور تو عطا کرے اُسے آخرت میں نجات و
 الْفَلَاحَ وَالنِّزْيَادَةَ فِي الْحُسْنَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَنْ
 اور ہر حسن میں زیادتی۔ اے اللہ بخش دے (اپنے محبوب)
 مُحَمَّدًا اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ
 محمد ﷺ کی امت کو۔ اے اللہ (اپنے حبیب) محمد ﷺ کی امت پر رحم فرما۔ اے اللہ

أَنْصِرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ أَنْصِرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
 محمد ﷺ کی اُمت کی مدد فرما اے اللہ محمد کی اُمت کو فتح عطا فرما
اللَّهُمَّ سَلِّمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ
 اے اللہ محمد ﷺ کی اُمت کو سلامت فرما اے اللہ اُمتِ محمدی
أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ كَرِّمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
 اے اللہ محمد ﷺ کی اُمت کو کرم فرما
اللَّهُمَّ عَظِّمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ فَرِّجْ
 اے اللہ اُمتِ محمدی کو عظمت عطا فرما اے اللہ اُمتِ محمدی
كُفُوبِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي رَاضِيًا
 کی سختیاں دور فرما اے اللہ مجھے راضی ہونے والا بنا، راضی کیا ہو،
مَرْضِيًّا وَصَلًّا وَاصِلًا مَوْصُولًا مَعِيَّتًا بِعِيَّتِهِ
 سدا پا وصل، واصل، وصل دیا ہو، بعیت و رفاقت پانے والا
أُمَّةِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بِبُرْكَاتِكَ قَدَّرْهُ عِنْدَكَ
 اُمتِ محمد ﷺ کی کامل بعیت۔ اے اللہ طفیل اُن کے قدر و قامت کے جو تیری بارگاہ میں
أَجِبْنِي يَا عَجِيبُ الصَّنَائِعِ يَا مَنِيْعُ يَا مُحِيْنُ
 ہے میری عرض قبول فرما اے عجیب صنائع و کمالے اے ناقابلِ کنویر، اے مددگار،
يَا مَعْبُودُ يَا مَقْصُودُ يَا مَوْجُودُ إِنَّا بِحَرَمَتِهِ
 اے معبود، اے مقصود، اے موجود عطا کر ہمیں اُن کی عزت
جَمِيْعِ سُوَالِنَا فِي دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنْ مَوَدِنَا
 کے طفیل ہمارے تمام مطالبِ دینی اور دُنیاوی اور اُخرویہ۔ تو ہی ہمارا مددگار
أَجِبْ دُعَائَنَا وَلَا تَخَيِّبْ أَمَانَنَا وَأَمَالَ جَمِيْعِ أَحْبَابِنَا
 ہے ہماری دعا قبول فرما اور جاری آرزوں کو حرماں سے دوچار نہ فرما اور اسی طرح ہمارے
وَأَصْدِقَائِنَا وَأَهْلِنَا وَأَوْلَادِنَا وَالْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ
 تمام احباب و اصداقاء اور اہل و اولاد اور قریب و بےید و اور پر بختوں
وَالشَّقِيْ وَالسَّعِيْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى خَيْرِ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ
 اور نیک بختوں کی آرزوں کو پورا فرما۔ اے اللہ رحمت فرما محمد ﷺ پر جو مخلوق میں بہترین ہیں
وَأٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
 اور ان کی آل پاک اور صحابہ کرام پر اپنی رحمت کے طفیل اے سب سے زیادہ رحم فرما نوالے۔
أَمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ

سرد کوئین نے فرمایا اے علیؑ جب تو گھر میں جائے تو اپنے ماں
و خیال کو سلام کر تیرے لئے بہتری و زیادہ ہوگی اے علیؑ! فقیروں اور
سکینوں کو دستِ مبارک درودِ روزِ تقاضا فرستے تھے حضرت کہیں گے

گامِ وہ لے لیچے تم کو و راضی کرے
ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کر دوں درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا قَرِيمُ يَا قَرِيمُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَاتِ دُمُوعِ

الْمُعْشُوقِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ أَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ الْمُحْتَوَرَةِ عَلَى


قُلُوبِ الْحَارِفِينَ وَاللَّهُ وَسَّالِمٌ تَحِيَّةً كَثِيرًا كَثِيرًا

شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْكَلِمَةَ الْمَكْرُوبَةَ

عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ



<p>سَيِّدُ الصَّادِقِينَ</p> <p>سَيِّدُ قَائِدِ الْغُرَى</p> <p>سَيِّدُ الْمُجْتَلِينَ</p> <p>سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ</p> <p>سَيِّدُ الْقُرْنَيْنِ</p> <p>سَيِّدُ الْأَسْجَادِ</p> <p>سَيِّدُ الرَّيْحَانَيْنِ</p>	<p>سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ</p> <p>سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ</p> <p>سَيِّدُ الْقُرْنَيْنِ</p> <p>سَيِّدُ الْأَمِينِ</p> <p>سَيِّدُ خَيْرِ الْبَشَرِ</p> <p>سَيِّدُ الْبُؤْسِ</p>	<p>سَيِّدُ يَعْسُوبِ الدِّينِ</p> <p>سَيِّدُ الْقُرْنَيْنِ</p> <p>سَيِّدُ الْأَمِينِ</p> <p>سَيِّدُ الْبُؤْسِ</p>
<p>سچوں کے سردار رضی اللہ عنہ</p> <p>نورانی چہرے اور اعضا والوں کے قائد رضی اللہ عنہ</p> <p>سلمانوں کے سردار رضی اللہ عنہ</p> <p>نورانی چہرے اور اعضا والوں کے قائد رضی اللہ عنہ</p> <p>سجدہ کرنے والے رضی اللہ عنہ</p> <p>الوارِیحانین رضی اللہ عنہ</p>	<p>مومنوں کے سردار رضی اللہ عنہ</p> <p>مسلمانوں کے سردار رضی اللہ عنہ</p> <p>ذوالقرنین رضی اللہ عنہ</p> <p>ذوالقرنین رضی اللہ عنہ</p> <p>بہتر بشر رضی اللہ عنہ</p> <p>ابو محمد رضی اللہ عنہ</p>	<p>دین کے بادشاہ رضی اللہ عنہ</p> <p>ذوالقرنین رضی اللہ عنہ</p> <p>امانت دار رضی اللہ عنہ</p> <p>ابو محمد رضی اللہ عنہ</p>



<p>سَئِدٌ</p> <p>كَجِيبٌ</p> <p>دوست</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p> <p>الْمُرْمِضِيُّ</p> <p>چنے ہوئے</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p>	<p>سَئِدٌ</p> <p>كَجِيبٌ</p> <p>دوست</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p> <p>الْمُرْمِضِيُّ</p> <p>چنے ہوئے</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p>	<p>سَئِدٌ</p> <p>كَجِيبٌ</p> <p>دوست</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p> <p>الْمُرْمِضِيُّ</p> <p>چنے ہوئے</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p>
<p>سَئِدٌ</p> <p>كَجِيبٌ</p> <p>دوست</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p> <p>الْمُرْمِضِيُّ</p> <p>چنے ہوئے</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p>	<p>سَئِدٌ</p> <p>كَجِيبٌ</p> <p>دوست</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p> <p>الْمُرْمِضِيُّ</p> <p>چنے ہوئے</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p>	<p>سَئِدٌ</p> <p>كَجِيبٌ</p> <p>دوست</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p> <p>الْمُرْمِضِيُّ</p> <p>چنے ہوئے</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p>
<p>سَئِدٌ</p> <p>كَجِيبٌ</p> <p>دوست</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p> <p>الْمُرْمِضِيُّ</p> <p>چنے ہوئے</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p>	<p>سَئِدٌ</p> <p>كَجِيبٌ</p> <p>دوست</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p> <p>الْمُرْمِضِيُّ</p> <p>چنے ہوئے</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p>	<p>سَئِدٌ</p> <p>كَجِيبٌ</p> <p>دوست</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p> <p>الْمُرْمِضِيُّ</p> <p>چنے ہوئے</p> <p>سَئِدٌ</p> <p>الرَّضِيَّةُ</p>

<p>سَنَائِدُ</p> <p>مُجِبَّةُ اللَّهِ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>وَلِيُّ اللَّهِ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>وَلِيُّ اللَّهِ</p>
<p>سَنَائِدُ</p> <p>السُّدِّ كِي مَحْتِ</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>السُّدِّ كِي مَحْتِ</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>السُّدِّ كِي مَحْتِ</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>
<p>سَنَائِدُ</p> <p>السُّدِّ كِي تَلْوَارِ</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>السُّدِّ كِي مَحْتِ</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>السُّدِّ كِي مَحْتِ</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>
<p>سَنَائِدُ</p> <p>شَايِخُ</p> <p>الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ</p> <p>مُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ كِي شَيْخِ</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>		
<p>سَنَائِدُ</p> <p>قَاتِلِ</p> <p>الْفَجْرِ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>قَاتِلِ</p> <p>الْفَجْرِ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>قَاتِلِ</p> <p>الْفَجْرِ</p>
<p>سَنَائِدُ</p> <p>فَاسِقٍ وَفَاجِرٍ كُو قَتْلِ</p> <p>كَرْنِي وَالِي</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>فَاسِقٍ وَفَاجِرٍ كُو قَتْلِ</p> <p>كَرْنِي وَالِي</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>فَاسِقٍ وَفَاجِرٍ كُو قَتْلِ</p> <p>كَرْنِي وَالِي</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>
<p>سَنَائِدُ</p> <p>بَدَايَةِ دِينِي وَالِي</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>بَدَايَةِ دِينِي وَالِي</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>	<p>سَنَائِدُ</p> <p>بَدَايَةِ دِينِي وَالِي</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p>

لمعاتِ مصطفائی

آقاؐ کی ہے محبتِ لمعاتِ مصطفائی
 ہے عشق کی علامتِ لمعاتِ مصطفائی
 ہوتی ہے جس سے محبت لیتے ہیں نام اُس کا
 سرکار کی عقیدتِ لمعاتِ مصطفائی
 ”اسماءِ مصطفیٰ“ نے آنکھوں کو نور بخشا
 دیتی ہے دل کو راحتِ لمعاتِ مصطفائی
 منظور کر لے یارب تنویر کی یہ کاوش
 پڑھتی رہے یہ اُمتِ لمعاتِ مصطفائی
 ہر اسمِ مصطفیٰ سے ظاہر ہے ایک خوبی
 بدحت کی ایک صورتِ لمعاتِ مصطفائی
 آقاؐ ہیں نور اپنے، ہیں ان کے نام توری
 ہے جگمگاتی اُفت، لمعاتِ مصطفائی
 لیتے ہیں نام اُن کا عاشق انہی کے باہر
 ہے مصطفیٰ کی چاہتِ لمعاتِ مصطفائی!

علامہ مولانا بابر حسین باہر
 ۲ مارچ ۲۰۰۹ء بدھ - دارالعلوم بھیرہ شریف

پیر طریقت، فقیر، مخدوم تنویر المصطفیٰ قادری اویسی

کے بھائی ناظر حسین ناظر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام

زمین و زماں میں ہیں کامل محمد ﷺ

کلام الہی کے حامل محمد ﷺ

خدا ناز کرتا ہے ہستی پہ ان کی

کہ دونوں جہاں کا ہیں حاصل محمد ﷺ

کرے پنج تن سے جو کوئی محبت

نہ ہوں گے کبھی اس سے غافل محمد ﷺ

کروں گا میں پھر ناز قسمت پہ اپنی

غلاموں میں کر لیں جو شامل محمد ﷺ

یہ انسان کیا جانور بھی کہیں گے

کہ عادل ہیں عادل ہیں عادل محمد ﷺ

ثنا ان کی ناظر انہی کی عطا ہے

میرے جان و ایماں مراد ل محمد ﷺ

حوالہ جات

- تنبيهه الانام
دلائل الخيرات
سعادة الدارين في الصلوة على سيد الكونين ﷺ
القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع ﷺ
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ﷺ
صلوات الثناء على سيد الانبياء ﷺ
انوار الحق في الصلوة على سيد الخلق ﷺ
التفحة المسكية في الصلوة على خير البرية ﷺ
اسماء النبي ﷺ
مجموعه صلوات الرسول ﷺ
حديقة الصفا في اسماء النبي المصطفى ﷺ
تذكرة المحبين في اسماء سيد المرسلين ﷺ
درود تجلياتِ مصطفائي
درود اكبر شريف
بركات المكيه في الصلوة النبويه ﷺ
هديه مرسل ﷺ
افادات مهريه
الابريز
فلسفه اسمائے رسول ﷺ

عاشقان رسول
کیسے توبہ بصورت
توبہ

اس صدی کا عظیم اور منفرد درود پاک

تین سو صفحات
مشتل
درود پاک

القیوض الاویسیہ فی الصلوٰۃ الصطفویہ

درود محمدی مصطفائی

۵۱۶
صفحات پر مشتمل

باب کرم

مکاتیب
زیارۃ الجنتین

صلوٰۃ
الحضور ص

المکاتیب
الغریبہ



مؤلف
پیر طریقت، فقیر مخدوم تنویر المصطفیٰ قادری اویسی

کاروان مصطفائی

ملنے کا پتہ